

# فتوى نويسى کے رہنمایا صول

نظر ثانی و اضافہ شدہ جدید ایڈیشن

”شرح عقود رسم المفتی“ کی روشنی میں  
اصول افتاء پر ایک مفید تحریکی کتاب

مرتبہ:

(مفتي) محمد سلمان منصور پوری

مفتي جامعه قاسمیہ مدرسہ شاھی مراد آباد

ناشر:

كتب خانہ نعیمیہ دیوبند

- نام کتاب: فتویٰ نویسی کے رہنماء اصول
- ترتیب: (مفتي) محمد سلمان منصور پوری
- کمپیوٹر کتابت: محمد اسجد قاسمی مظفر گنگوہی
- ناشر: کتب خانہ نعیمیہ دیوبند ضلع سہاران پور یوپی
- اشاعت اول: جمادی الثانیہ ۱۴۲۶ھ
- جدید اشاعت: ذی الحجه ۱۴۲۶ھ، جنوری ۲۰۰۶ء
- صفحات: ۳۳۲
- قیمت: ۱۰۰ روپے

### نقسیم کنندگان:

- فرید بکڈ پو، پرانیویٹ لائیب لائری، دریا گنج دہلی
- کتب خانہ مکیوی محلہ مفتی سہاران پور
- کتب خانہ نعیمیہ دیوبند

## فهرست عنوانات :

- عرض مؤلف (طبع جدید) ----- ۳۹  
□ عرض مؤلف (طبع اول) ----- ۲۱

۲۲

## تقریظاتِ اکابر و اساتذہ عظام

- تقریظ: فقیہ الامت حضرت اقدس مولا نامفتی محمود حسن گنگوہی نوراللہ مرقدہ ----- ۲۲  
□ تقریظ: حضرت اقدس مولا نامفتی نظام الدین صاحب عظمی نوراللہ مرقدہ ----- ۲۵  
□ رائے عالی: حضرت الاستاذ مولا نعمت اللہ صاحب عظمی مدت فیوضہم ----- ۲۵  
□ تصریح: حضرت الاستاذ مولا نامفتی سعید احمد صاحب پالن پوری زید مجددم ----- ۲۷  
□ تقریظ: حضرت الاستاذ مولا نامفتی حبیب الرحمن صاحب خیر آبادی مدظلہ ----- ۵۰  
□ تقریظ: حضرت الاستاذ مولا نامفتی ظفیر الدین صاحب مقنای مدظلہ ----- ۵۰  
□ تقریظ: حضرت الاستاذ مولا نامفتی کفیل الرحمن صاحب نشاط عثمانی مدظلہ ----- ۵۰  
□ ارشاد عالی: حضرت مولا ناسیر شید الدین صاحب حمیدی نوراللہ مرقدہ ----- ۵۲  
□ رائے گرامی: والد محترم حضرت مولا ناقاری سید محمد عثمان صاحب منصور پوری مدظلہ --- ۵۳  
□ رفیق مکرم حضرت مولا نامفتی شبیر احمد صاحب قاسمی مدظلہ ----- ۵۳

۵۵

## ابتدائیہ

- فقه و فتاویٰ کی اہمیت ----- ۵۶  
○ فقہ کی تعریف ----- ۵۶  
○ دین میں تفقہ فرض کفایہ ہے ----- ۵۶

- ۱
- فقہ سراپا خیر ہے ۵۷
  - فقہ میں اشتغالِ افضل ترین عبادت ہے ۵۸
  - تفقہ سے دین میں تصلب نصیب ہوتا ہے ۵۹
  - فقہ اور وحانی معاون ہیں ۵۹
  - تفقہ باعثِ عزت ہے ۶۰
  - عزت کا مقامِ توبیہ ہے ۶۱
  - علوم کے چند مراتب ۶۲
  - تفقہ کے لئے ذہنی یکسوئی ضروری ہے ۶۳
  - کم عمری میں تفقہ کا مشورہ ۶۴



- سرمایہ کتب
- (۱) فتاویٰ شامی (رداختار علی الدر المختار) ۶۶
  - (۲) بدائع الصنائع ۶۷
  - (۳) البحارائق (شرح کنز الدقاقي) ۶۸
  - (۴) فتاویٰ عالمگیری ۶۸
  - (۵) فتاویٰ خانیہ ۶۸
  - (۶) الجامع الوجيز (معروف بـ ”فتاویٰ بزاریہ“) ۶۸
  - (۷) الفتاویٰ التترخانیہ ۶۸
  - (۸) الفتاویٰ الاولابجیہ ۶۹
  - (۹) مجمع الانہر ۶۹

٧٠	○ (١٠) مبسوط سرخى
٧٠	○ (١١) فتح القدر (شرح الهدایة)
٧٠	○ (١٢) الاشباه والنظائر
٧١	○ (١٣) الحجۃ البرهانی
٧١	○ (١٤) شرح منظومة ابن وهبیان
٧٢	○ (١٥) غنیمة المتملی شرح معنیة المصلى
٧٢	○ (١٦) حاشیة الطحاوی علی مراری الفلاح
٧٢	○ (١٧) حاشیة الطحاوی علی الدر المختار (دوجلد)
٧٢	□ اردو فتاویٰ
٧٣	○ (١) فتاویٰ رشیدیہ
٧٣	○ (٢) عزیز الفتاوی / امداد المقتین
٧٣	○ (٣) فتاویٰ دارالعلوم (جديد)
٧٣	○ (٤) امداد الفتاوی
٧٣	○ (٥) کفایت المقتنی
٧٣	○ (٦) امداد الاحکام
٧٥	○ (٧) فتاویٰ خلیلیہ (فتاویٰ مظاہر علوم)
٧٥	○ (٨) فتاویٰ شیخ الاسلام
٧٥	○ (٩) فتاویٰ محمودیہ
٧٦	○ (١٠) منتخبات نظام الفتاوی
٧٦	○ (١١) فتاویٰ رحیمیہ
٧٦	○ (١٢) احسن الفتاوی

۷۶	○ (۱۳) آپ کے مسائل اور ان کا حل
۷۷	○ (۱۲) کتاب الفتاویٰ
۷۷	□ متفرق فقہی رسائل
۷۸	○ بوادر النواودر ۲ / جلد
۷۸	○ الحکیمة الناجزة
۷۸	○ جواہر الفقہ
۷۸	○ فقہی مقالات ۳ / جلد دیں
۷۸	○ جدید فقہی مسائل ۶ / حصہ
۷۸	○ ایضاح النواودر
۷۸	○ ایضاح المسائل
۷۸	○ الاوزان المحمودہ



۷۹	□ معاون کتابیں
۷۹	□ تفسیر عربی:
۷۹	(۱) تفسیر ابن کثیر
۷۹	○ (۲) الجامع لأحكام القرآن (القرطبی)
۷۹	○ (۳) تفسیر کبیر (الرازی)
۷۹	○ (۴) تفسیر مظہری
۸۰	○ (۵) روح المعانی
۸۰	○ (۶) احکام القرآن (لابی بکر الجھاص الرازی المتونی ۳۷۰ھ)

○ (٧) احکام القرآن (دلائل القرآن علی مسائل النہمان)	٨٠	□ تفسیر اردو:
٨٠		
(١) ترجمہ شیخ الہند مع فوائد عثمانی	٨٠	
٨٠		
○ (٢) بیان القرآن	٨٠	
٨١		
○ (٣) معارف القرآن	٨١	



□ ذخیرۃ احادیث شریفہ	٨٢	
○ (١) منشد الامام احمد ابن حنبل	٨٢	
○ (٢) شعب الایمان للامام ابی یحییٰ	٨٣	
○ (٣) الترغیب والترہیب للمذندری	٨٣	
○ (٤) المصنف للامام عبد الرزاق	٨٣	
○ (٥) السنن الکبریٰ	٨٣	
○ (٦) مجمع الزوائد من مجمع الغواہد	٨٥	
○ (٧) مصنف ابن ابی شیبہ	٨٥	
○ (٨) کنز العمال فی سنن الاقوال والافعال	٨٥	
○ (٩) لمجھم الکبیر للطبرانی	٨٦	
○ (١٠) لمجھم الاوسط للطبرانی	٨٦	
○ (١١) لمجھم الصغری للطبرانی	٨٧	
○ (١٢) الاحسان بترتیب صحیح ابن حبان	٨٧	
○ (١٣) السنن الکبریٰ للنسائی	٨٧	

○ (١٣) مسند أبي يعلى الموصلى	٨٧
○ (١٤) المستدرک على الصحيحين	٨٧
○ (١٥) مسند الدارنی	٨٧
○ (١٦) سنن الدارقطنی	٨٧
○ (١٧) متشکلة المصاتیح	٨٨
○ (١٨) جمع الفوائد من جامع الاصول وجمع الزواائد	٨٨
□ شروحاتٍ حدیث	٨٩
○ (١) فتح الباری شرح صحیح البخاری	٨٩
○ (٢) عدمة القاری شرح صحیح البخاری	٨٩
○ (٣) ارشاد الساری شرح صحیح البخاری	٩٠
○ (٤) لامع الدراری على جامع البخاری	٩٠
○ (٥) فيض الباری	٩٠
○ (٦) اكمال المعلم بفوائد مسلم (شرح مسلم للقاضی عیاض)	٩٠
○ (٧) المنهاج فی شرح صحیح مسلم بن الحجاج (شرح النووى على مسلم)	٩١
○ (٨) شرح الایّى والسوسي تصحیح الامام مسلم	٩١
○ (٩) المفہم لما اشکل من تلخیص کتاب مسلم	٩٢
○ (١٠) احکام المفہم لصحیح مسلم	٩٢
○ (١١) فتح المفہم بشرح صحیح مسلم	٩٢
○ (١٢) تتممله فتح المفہم	٩٣
○ (١٣) بذل الجھود فی حل آبی داؤد	٩٣
○ (١٤) نخب الافکار شرح معانی الاشار	٩٣

○ (۱۵) معارف السنن شرح جامع الترمذی	۹۳
○ (۱۶) شرح الطیبی علی مشکاة المفاتیح (الکاشف عن حقائق السنن)	۹۳
○ (۱۷) مرقاۃ المفاتیح شرح مشکاة المفاتیح	۹۳
○ (۱۸) اوجز المسالک فی شرح مؤطرا الامام مالک	۹۵
□ احادیث کی تلاش و جستجو	۹۵
○ (۱) المقاصد الحسنه فی بیان کثیر من الاحادیث المشهورۃ علی الائمه	۹۵
○ (۲) مفتاح کنوز السننه	۹۵
○ (۳) کشف الخفاء و مزيل الالباس	۹۶
○ (۴) لمعجم المفہم س للفاظ الحدیث	۹۶
○ (۵) موسوعۃ اطراف الحدیث	۹۶
○ (۶) فیض القدری لمناوی	۹۶
○ (۷) جامع الاحادیث	۹۷
○ (۸) تحفة الاشراف بعرفة الاطراف	۹۷



□ مختلف ائمہ کے اقوال کی تلاش	۹۹
○ (۱) مختصر اختلاف العلماء	۹۹
○ (۲) الموسوعۃ الفقہیہ	۹۹
○ (۳) بدایۃ الجتہد	۱۰۰
○ (۴) المغني لابن قدامة	۱۰۰
○ (۵) الفقہ علی المذاہب الاربعة	۱۰۰

□ مسائل حفیہ کے دلائل کہاں تلاش کریں؟	۱۰۰
○ (۱) تقریب شرح معانی الآثار	۱۰۱
○ (۲) نصب الرایہ لاحادیث الہدایہ	۱۰۱
○ (۳) عقود الجواہر المذکوہة فی ادلة مذهب الامام ابی حنفیة	۱۰۱
○ (۴) آثار السنن	۱۰۲
○ (۵) اعلاء السنن	۱۰۲
○ (۶) الفقه الحنفی وادله	۱۰۳
□ غریب الفاظ کی تشریح کے لئے کتابوں سے مراجعت	۱۰۳
○ (۱) مجمع بحار الانوار فی غرائب التزیر میل و طائف الاخبار	۱۰۳
○ (۲) المُغَرَّبُ فِي ترتِيبِ الْمُرْبَّ	۱۰۳
○ (۳) طلبة الطلبۃ فی الاصطلاحات الفقہیہ	۱۰۳
○ (۴) مجمع المصطلحات والالفاظ الفقہیہ	۱۰۳
○ (۵) مجمع لغۃ الفقہاء	۱۰۳
○ (۶) قواعد الفقه	۱۰۳
□ احکام شریعت کے اسرار و حکم کی واقفیت	۱۰۵
○ (۱) احیاء علوم الدین	۱۰۵
○ (۲) جیۃ اللہ البالغة	۱۰۶
○ (۳) رحمۃ اللہ الواسعة شرح جیۃ اللہ البالغة	۱۰۶
○ (۴) المصالح العقلیہ لاحکام الغفلیۃ	۱۰۶
□ مناسک سے متعلق بعض اہم کتابیں	۱۰۷
○ (۱) مناسک الملائکی قاریٰ	۱۰۷

- (۲) غنیۃ manusک ۱۰۷
- (۳) زبدۃ manusک مع عدۃ manusک ۱۰۷
- (۴) معلم الحجاج، وغیرہ ۱۰۸
- ضروری نوٹ ۱۰۸



- کمپیوٹر سی، ڈی [C-D] میں ذخیرہ کتب ۱۰۹
- ضروری تنبیہ ۱۱۰



- حالہ جات کی درجہ بندی ۱۱۱
- بڑی خیانت ۱۱۲

## فتولی نویسی کے آداب

- |     |                     |
|-----|---------------------|
| ۱۱۳ | فتولی نویسی کے آداب |
|-----|---------------------|
- (۱) فتوی دینے میں احتیاط ۱۱۳
  - (۲) مفتی کا اورع و لقوی ۱۱۴
  - (۳) مفتی کے شرائط و اوصاف ۱۱۴
  - (۴) سوال اچھی طرح پڑھے ۱۱۷
  - (۵) سوال کے بیچ میں اگر جگہ خالی ہو تو کیا کرے؟ ۱۱۷
  - (۶) فتنہ کے اندر یہ کے وقت زبانی جواب پر اکتفاء کرے ۱۱۷
  - (۷) ترتیب استفتاء کا لحاظ ۱۱۷

- (۸) جواب لکھنے کی ابتداء اور انتہاء ۱۱۸
- (۹) تفصیل طلب مسئلہ کا جواب ۱۱۸
- (۱۰) صورتِ واقعہ کا جواب ۱۱۸
- (۱۱) جواب قطعی ہو ۱۱۹
- (۱۲) جواب واضح ہو ۱۱۹
- (۱۳) جواب کی تحریر کیسی ہو ۱۱۹
- (۱۴) جواب مختصر ہو ۱۱۹
- (۱۵) جواب میں دلیل لکھنا ۱۲۰
- (۱۶) خصوصات میں نہ پڑے ۱۲۰
- (۱۷) معارض و معاند کو جواب نہ دے ۱۲۰
- (۱۸) کن حالتوں میں فتویٰ نہ دینا چاہئے؟ ۱۲۰
- (۱۹) دستی فتویٰ فورانہ لکھئے ۱۲۱
- (۲۰) وراثت کے مسائل لکھنے کا طریقہ ۱۲۱
- (۲۱) حوالہ جات لکھنے کا ادب ۱۲۱
- (۲۲) اگر سوال کے کاغذ پر پورا جواب نہ آئے ۱۲۲
- (۲۳) اہل مجلس کے سامنے فتویٰ سنانا ۱۲۲
- (۲۴) مستفتی کی کٹھجتی پر صبر ۱۲۲
- (۲۵) فتاویٰ کی نقل ۱۲۲
- (۲۶) عورت اور بچہ کے ہاتھ سے استفتاب خود نہ لے ۱۲۲
- (۲۷) راستہ میں فتویٰ پوچھا جائے تو کیا کرے؟ ۱۲۳
- (۲۸) تمرين: ۱۲۳



- بعض مزید افادات ۱۲۳
- جدید مسائل میں فتویٰ کیسے دیا جائے؟ ۱۲۴
  - حکم کا مدار علت پر ہے حکمت پر نہیں ۱۲۵
  - علت کے درجات ۱۲۵
  - شرع منزل اور شرع موؤول ۱۲۶
  - (۱) ہوائی جہاز میں نماز پڑھنے کا مسئلہ ۱۲۷
  - (۲) لاڈاپسکرپنماس کا مسئلہ ۱۲۷
  - (۳) شیرز کپنیاں ۱۲۸

## فتویٰ نویسی کے رہنمایا صول

- خاتم الفقہاء علامہ سید محمد امین عابدین الحسینی الشامی (المتوفی ۱۲۵۲ھ) --  
کا مختصر تعارف ۱۲۹
- پیدائش اور تعلیم ۱۳۰
  - علمی انہاک ۱۳۱
  - علمی گیرائی ۱۳۱
  - فقہی مقام ۱۳۲
  - اخلاق و عادات ۱۳۲
  - ذوقِ عبادت ۱۳۳
  - ورع و تقویٰ ۱۳۳

۱۳۳	○ جود و سخا
۱۳۲	○ والدین کے ساتھ حسنِ سلوک
۱۳۲	○ علمی آثار و باقیات
۱۳۵	○ وفات
۱۳۶	□ فقهاء، ترجمان شریعت ہیں !



۱۳۸	□ فتویٰ نویسی کے رہنمای اصول
۱۳۸	□ (۱) فتویٰ صرف راجح روایت پر دیا جائے گا
۱۳۸	○ وضاحت
۱۳۹	○ راجح پر فتویٰ کی مثالیں
۱۳۹	○ (۱) مسوک سنت ہے
۱۳۹	○ (۲) وتر واجب ہے
۱۴۰	○ تمرین: ۱
۱۴۰	○ ظاہر الروایہ پر فتویٰ کی مثالیں
۱۴۰	○ (۱) قضادشہ نمازوں کے لئے الگ الگ اذانوں کا مسئلہ
۱۴۱	○ (۲) مزارعہ کی یہ صورت باطل ہے
۱۴۱	○ تمرین: ۲
۱۴۱	□ (۲) غیر ظاہر الروایہ پر فتویٰ
۱۴۱	○ اصول نمبر ۲ کا مأخذ
۱۴۲	○ غیر ظاہر الروایہ پر فتویٰ کی مثالیں

- (۱) کتاب القاضی کن امور میں معتبر ہے؟ ۱۳۲
- (۲) شفعہ میں طلب خصوصت کی تاخیر کا مسئلہ ۱۳۳
- (۳) ظاہر کف عورت کے ستر میں داخل نہیں ۱۳۳
- تمرین: ۳ ۱۳۳
- (۳) تامل کے بغیر کسی ایک روایت پر فتویٰ دینا درست نہیں ۱۳۴
- ایک مسئلہ میں متعدد اقوال کی چند مثالیں ۱۳۴
- (۱) دوآ دمیوں کو یک وقت مشترکہ طور پر ہبہ یا صدقہ کرنا ۱۳۴
- (۲) کیان حج کی ادائیگی علی الفور ضروری ہے؟ ۱۳۵
- تمرین: ۴ ۱۳۵
- (۴) قاضی اور مفتی میں فرق ۱۳۵
- تمرین: ۵ ۱۳۶
- (۵) جس کے قول پر فتویٰ دیا جائے اس کا مرتبہ جانا ضروری ہے ۱۳۶
- طبقاتِ فقہاء ۱۳۶
- ضروری یادداشت ۱۳۸
- طبقاتِ مجتهدین ۱۵۰
- تمرین: ۶ ۱۵۱
- (۶) فقہاء متاخرین کی غیر محمرہ کتابوں پر اعتماد نہ کیا جائے ۱۵۱
- غلط بات نقل کرنے کی چند مثالیں ۱۵۲
- (۱) محض تلاوت پر اجرت کا جواز ۱۵۲
- تمرین: ۷ ۱۵۳
- (۲) جناب رسول اللہ ﷺ کی شان میں گستاخی کرنے والے کی توبہ قبول نہ ہونا -- ۱۵۳

۱۸	—	○ تمرین: ۸
۱۵۳	—	○ (۳) ہلاکت کے دعویٰ پر ہن کے ضمان کا مسئلہ
۱۵۵	—	○ تمرین: ۹
۱۵۶	—	○ مزیدوضاحت
۱۵۷	—	○ ایک دلچسپ مثال
۱۵۷	—	○ تمرین: ۱۰
۱۵۷	—	□ (۷) ماہر استاذ کی شاگردی
۱۵۷	—	○ گمراہی کی بنیاد
۱۵۸	—	○ تمرین: ۱۱
۱۵۸	—	□ (۸) طبقاتِ مسائل کا لحاظ
۱۵۸	—	○ طبقاتِ مسائل
۱۶۰	—	○ حضرت شاہ ولی اللہ کا ارشاد
۱۶۱	—	○ حضرت مولانا عبدالجعف فرنگی محلیؒ کی تحقیق
۱۶۲	—	○ حنفی فتاویٰ کی تدوین
۱۶۳	—	○ مبسوط کے نئے
۱۶۳	—	○ مبسوط کی شروحات
۱۶۴	—	□ (۹) نادر الروایہ کب ظاہر الروایہ کے درجہ میں آ جاتی ہے
۱۶۴	—	○ عورت پرج کی فرضیت کا مسئلہ
۱۶۴	—	○ تمرین: ۱۲
۱۶۵	—	○ کیا روایۃ الاصول اور ظاہر الروایہ الگ الگ ہیں؟
۱۶۵	—	○ ظاہر الروایہ اور روایۃ الاصول میں تفرق غیر ضروری ہے

○ السیر الکبیر کی تحقیق	۱۶۶
○ تمرين: ۱۳	۱۶۶
□ (۱۰) مذہب میں جامع صغیر کا درجہ	۱۶۶
○ مبسوط کو کتاب الاصل کہنے کا سبب	۱۶۶
○ الجامع الصغیر کا سبب تالیف	۱۶۷
○ الجامع الصغیر کے چھ اخلاقی مسئلے	۱۶۷
○ تمرين: ۱۴	۱۷۰
□ (۱۱) السیر الکبیر پر اعتماد	۱۷۰
○ صغیر اور کبیر کا فرق	۱۷۰
○ محقق ابن ہمامؓ کی تحقیق	۱۷۰
○ السیر الکبیر کی وجہ تالیف	۱۷۱
○ کتب ستہ ظاہر الروایہ کا ملخص مجموعہ	۱۷۱
○ کتاب الکافی کی سب سے مشہور شرح	۱۷۲
○ مبسوط سرخسی کہا لکھی گئی؟	۱۷۲
○ مطلق مبسوط سے مبسوط سرخسی مراد ہوتی ہے	۱۷۳
○ حاکم شہید کا مختصر تعارف	۱۷۳
○ مبسوط سرخسی "المختصر" کی شرح نہیں	۱۷۳
○ تمرين: ۱۵	۱۷۳
□ (۱۲) روایتوں میں اختلاف کی وجوہات	۱۷۳
○ کیا ایک امام کی طرف ایک مسئلہ میں دو قول منسوب ہو سکتے ہیں؟	۱۷۵
○ اختلاف روایت اور اختلاف قول میں فرق	۱۷۶

- تعدد روایات کی وجہات ۱۷۶
- علامہ شامیؒ کا استدراک ۱۷۷
- تردید مجتہد ۱۷۸
- تمرین: ۱۶ ۱۸۰
- (۱۳) صاحبین کے مذہب پر عمل خفیت کے خلاف نہیں ۱۸۰
- امام صاحبؒ کے شاگردوں کی صراحت ۱۸۰
- ایک مثال ۱۸۱
- تمرین: ۱۷۱ ۱۸۱
- اہم اشکال ۱۸۲
- جواب ۱۸۲
- تمرین: ۱۸ ۱۸۳
- امام صاحبؒ کی ہدایت عام نہیں ہے ۱۸۳
- (۱۴) اقوال مذاہب سے خروج جائز نہیں ۱۸۳
- علامہ ابن الہمامؓ کی خارج مذہب آراء قبول نہیں ۱۸۳
- تمرین: ۱۹ ۱۸۳
- متفقہ مسئلہ سے عدول کی اجازت نہیں ۱۸۳
- حاصل بحث ۱۸۵
- (۱۵) جو قول امام صاحبؒ سے صراحةً منقول نہ ہو، اسے لکھنے کا طریقہ ۱۸۵
- احتیاط لازم ہے ۱۸۶
- (۱۶) اقوال مختجزہ علی قول الامام کا درجہ ۱۸۶
- تشریح ۱۸۶

○ تمرین: ۲۰ ----- ۱۸۷

□ (۱۷) روایات مذہب میں ترجیح کے اصول ----- ۱۸۷

○ مزید تفصیل ----- ۱۸۸

○ تمرین: ۲۱ ----- ۱۸۹

○ ایک فائدہ ----- ۱۸۹

○ دلیل پر مدار ----- ۱۸۹

○ تمرین: ۲۲ ----- ۱۹۰

○ کونسا مجتهد مراد ہے? ----- ۱۹۰

○ مشارج کی ترجیحات کا یقیناً اعتبار ہے ----- ۱۹۰

□ امام زفرؑ کے مفتی بآقوال ----- ۱۹۱

○ (۱) مریض کا نماز میں تسلیم کی حالت کی طرح بیٹھنا ----- ۱۹۱

○ (۲) متنفل کا تسلیم کی طرح بیٹھنا ----- ۱۹۱

○ (۳) زوجہ مفقود کے نفقہ کا حکم ----- ۱۹۱

○ (۴) بیع مرابحہ میں عیب جدید کی نشاندہی اور اصل قیمت کا بیان ----- ۱۹۲

○ (۵) وکیل بالخصوصیہ وکیل بالقضی نہ ہوگا ----- ۱۹۲

○ (۶) بادشاہ تک ناجی شکایت پہنچانے والا ضامن ہوگا ----- ۱۹۳

○ (۷) مکفول بہ کو مجلس قضا میں سپرد کرنا ----- ۱۹۳

○ (۸) تہہ شدہ کپڑے کو اوپر سے دیکھنا کافی نہیں ----- ۱۹۳

○ (۹) گھر کا خارجی حصہ دیکھنے سے خیاررویت ساقط نہ ہوگا ----- ۱۹۳

○ (۱۰) گھٹیا درہ ہموں کے بدله میں عمدہ درہ ہم ادا کرنا ----- ۱۹۳

○ تمرین: ۲۳ ----- ۱۹۵

○ (۱۱) طلبِ خصوصت میں ایک مہینہ کی تاخیر سے حقِ شفعہ کا سقوط -----	۱۹۵
○ (۱۲) لقطہ کرو کنے کے بعد ہلاکت کی صورت میں نفقہ کا سقوط -----	۱۹۵
○ (۱۳) انت طالق وحدۃ فی ثنتین کہنے کا حکم -----	۱۹۵
○ (۱۴) غلام کی "تدبیر" کو موت یا قتل پر معلق کرنا -----	۱۹۶
○ (۱۵) نکاحِ مؤقت کا حکم -----	۱۹۶
○ (۱۶) دینار اور درہم کا وقف -----	۱۹۶
○ (۱۷) اجتماعیہ سے بیوی سمجھ کروٹی کر لینے پر حد کا مسئلہ -----	۱۹۷
○ (۱۸) مخلوف علیہ کے وکیل کو عاریت پر دینا موجب ہٹ ہے -----	۱۹۷
○ (۱۹) عام نمازوں میں وقت لگنے کے خوف سے تیسم کا جواز -----	۱۹۷
○ (۲۰) ضرورت گوبر کی طہارت کا حکم -----	۱۹۸
○ تمرین: ۲۳: -----	۱۹۸
○ علامہ ابن نجیمؒ کی رائے -----	۱۹۸
○ علامہ ابن نجیمؒ کا نقطہ نظر محل نظر ہے -----	۲۰۰
○ تمرین: ۲۵: -----	۲۰۱
○ لا یحل لأحد أن يفتى بقولنا كمتاصلب كون؟ -----	۲۰۱
○ مجتهدی المذهب کو مخاطب قرار دینے پر ایک اصولی اعتراض -----	۲۰۲
○ مشکل کا حل -----	۲۰۳
○ تمرین: ۲۶: -----	۲۰۳
○ دوسرے محتمل معنی -----	۲۰۳
○ طبقاتِ فقہاء میں سے کون سا طبقہ مخاطب ہے؟ -----	۲۰۵
○ امام صاحبؒ کے شاگردوں میں اجتہاد مطلق کی صلاحیت ہے -----	۲۰۶

- تمرین: ۲۷----- ۲۰۷
- طبقاتِ فقہاء سے متعلق تین فائدے----- ۲۰۷
- (۱) علامہ ابن الہمام صاحب ترجیح تھے----- ۲۰۷
- (۲) علامہ قاسم بھی ترجیح کے اہل تھے----- ۲۰۸
- (۳) علامہ ابن نجیم کا تعلق طبقہ ترجیح سے نہیں ہے----- ۲۰۸
- تمرین: ۲۸:----- ۲۰۹
- (۱۸) متاخرین کی روایتوں میں ترجیح کا اصول----- ۲۰۹
- وضاحت----- ۲۱۰
- مشارک میں اختلاف کی مثالیں----- ۲۱۰
- (۱) نمازی کے سامنے سے کتنے فاصلہ سے گذر سکتے ہیں؟----- ۲۱۰
- تمرین: ۲۹:----- ۲۱۲
- (۲) وضو میں گردان کا مسح سنت ہے یا مستحب؟----- ۲۱۲
- تمرین: ۳۰:----- ۲۱۳
- (۱۹) جو مسئلہ کتبِ مذہب میں نہ ملے اسے کیسے لکھا جائے؟----- ۲۱۳
- مفتی مقلد (غیر مجہد) صرف ناقل ہے----- ۲۱۳
- (۲۰) محض نظری پر اعتماد نہ کیا جائے----- ۲۱۳
- کیا وجہ ہے؟----- ۲۱۴
- نظائر میں فرق کی چند مثالیں----- ۲۱۵
- (۱) بکری کے رویڑ اور غله کے ڈھیر کے حکم میں فرق----- ۲۱۵
- (۲) حق مرور اور حق تعلی----- ۲۱۵
- (۳) شیء مخصوص میں غاصب کے تصرف کا حکم----- ۲۱۶

○ تمرین: ۳۱	۲۱۶
□ (۲۱) قواعد و اصول پر فتویٰ	۲۱۷
○ وضاحت	۲۱۷
○ اصول سے استثناء کی مثالیں	۲۱۸
○ قاعدة: اضافۃ الحادث الی اقرب اوقاتہ	۲۱۸
○ قاعدة: اذا تعارض المانع والمتضمن يقدم المانع	۲۱۹
○ تمرین: ۳۲	۲۱۹
○ اصول و قواعد پر فتویٰ کے چند نمونے	۲۱۹
○ (۱) بیچ میں گارنٹی	۲۱۹
○ (۲) امام کی مکروہ نماز کا اثر مقتدیوں کی نماز پر	۲۲۰
○ تمرین: ۳۳	۲۲۰
□ (۲۲) عبادات میں امام ابو حنفیہ کے قول پر فتویٰ	۲۲۰
○ وضاحت	۲۲۱
○ امام صاحبؒ کے قول پر فتویٰ کی مثالیں	۲۲۱
○ (۱) کنویں میں مرآہ و پرندہ وغیرہ پائے جانے کا مسئلہ	۲۲۱
○ (۲) حالتِ نفاس میں خون کا انقطاع	۲۲۲
○ تمرین: ۳۴	۲۲۲
□ (۲۳) قضاء و متعلقات قضائیں امام ابو یوسفؒ کے قول پر فتویٰ	۲۲۲
○ تجربہ علم کی زیادتی کا سبب ہے	۲۲۳
○ قضائیں امام ابو یوسفؒ کے قول پر فتویٰ کی مثالیں	۲۲۳
○ (۱) کتاب القاضی الی القاضی بھینجنے کا طریقہ	۲۲۳

○ (۲) شاہد کوششادت کی تلقین	۲۲۳
○ تمرين: ۳۵	۲۲۴
□ (۲۳) میراث ذوی الارحام میں امام محمدی رائے کو ترجیح	۲۲۴
○ مثال سے وضاحت	۲۲۵
○ تمرين: ۳۶	۲۲۶
□ (۲۵) احسان پر فتویٰ	۲۲۷
○ راجح قیاسی مسائل کی تعداد	۲۲۷
○ احسان کی ترجیح کا مطلب کیا ہے؟	۲۲۷
○ قیاس اور احسان میں فرق	۲۲۸
○ احسان کی دیگر قسمیں	۲۲۸
○ تمرين: ۳۷	۲۲۹
○ قیاس و احسان میں ترجیح کے وقت کیا پیش نظر رہے؟	۲۲۹
○ قوت و ضعف کے اعتبار سے قیاس و احسان کی تقسیم	۲۳۰
○ صحت و فساد کے اعتبار سے قیاس و احسان کی تقسیم	۲۳۰
○ احسان کی ترجیح کی مثالیں	۲۳۱
○ (۱) سباع طیور کے جھوٹے کا مسئلہ	۲۳۱
○ (۲) سواری پر نماز جنازہ کا مسئلہ	۲۳۲
○ (۳) تمام مال صدقہ کر دینے کی وجہ سے زکوٰۃ کا سقوط	۲۳۳
○ تمرين: ۳۸	۲۳۳
○ راجح قیاسی مسائل	۲۳۴
○ (۱) سجدہ تلاوت کی روئے کے ذریعہ ادا بیگی	۲۳۴

- (۲) مسلم فیکی مقدار کے بارے میں اختلاف ..... ۲۳۵
- (۳) سجدہ کی آیت کا دور کعتوں میں تکرار ..... ۲۳۶
- (۴) مہرش کے عوض رہن شدہ چیز کیا متعہ کی جگہ بھی رہن بن سکتی ہے؟ ..... ۲۳۶
- (۵) مباشرتِ فاحشہ سے نقضِ وضو ..... ۲۳۷
- (۶) زمین کے غاصب پر ضمان ..... ۲۳۷
- (۷) پڑوئی کسے کہیں گے؟ ..... ۲۳۷
- (۸) جنایتِ عبد کے متعلق ایک مسئلہ ..... ۲۳۸
- (۹) آبادی میں واقع مکان کو توڑنے کا حکم ..... ۲۳۹
- (۱۰) ایک شی مرحون پر دو مرتبہ نوں کا دعوی ..... ۲۳۹
- (۱۱) مستائنمن کی وکالت کب تک باقی رہے گی؟ ..... ۲۴۰
- (۱۲) تعلیقِ طلاق کا ایک مسئلہ ..... ۲۴۱
- (۱۳) شہود احسان کا رجوع ..... ۲۴۲
- (۱۴) کوڑے کی سزا کے بعد احسان کا ثبوت ..... ۲۴۳
- (۱۵) متعدد لوگوں کا کنویں میں مردہ پایا جانا ..... ۲۴۳
- (۱۶) آدھے مکاتب کی مولی سے خریداری ..... ۲۴۴
- (۱۷) لکڑیاں چننے میں شرکت کا ایک مسئلہ ..... ۲۴۵
- (۱۸) راستہ میں متوفی حاجی کی طرف سے حج کہاں سے کیا جائے؟ ..... ۲۴۶
- (۱۹) مسافر گھروالپس آ کر روزہ توڑے تو کیا حکم ہے؟ ..... ۲۴۷
- (۲۰) قسم کھانی کے دس روپیہ میں نہیں پیچوں گا، پھر نور و پیہ میں بیچ دیا ..... ۲۴۸
- (۲۱) قسم کھانی کے درہم سے گوشہ کے علاوہ کچھ نہ خریدوں گا ..... ۲۴۸
- (۲۲) دھلانی کا مشترک کا روبار کرنے والوں پر ایک دعوی ..... ۲۵۰

○ (۲۳) تولیت وقف کا ایک مسئلہ	۲۵۰
○ (۲۴) شک کی وجہ سے قسم نہ ٹوٹے گی	۲۵۱
○ (۲۵) اعتکاف میں مسجد سے باہر نکلنا	۲۵۲
○ (۲۶) معتوه بیٹے کے لئے باپ کا باندی خریدنا	۲۵۳
○ تمرین: ۳۹	۲۵۴
○ مذہب کی شاذ روایتیں معمول بہانہیں ہیں	۲۵۵
□ (۲۷) درایت کا اعتبار	۲۵۶
○ درایت پر فتویٰ کی مثالیں	۲۵۷
○ (۱) تعدلیں ارکان کا وجوب	۲۵۸
○ (۲) قومہ اور جلسہ کا وجوب	۲۵۹
○ (۳) عیدین کی نماز کا وجوب	۲۶۰
○ تمرین: ۴۰	۲۶۱
□ (۲۸) تکفیر مسلم میں احتیاط	۲۶۲
○ یہ کوئی مذاق نہیں!	۲۶۳
○ تکفیر میں احتیاط کی چند مثالیں	۲۶۴
○ (۱) کہا: ”میں شریعت کو نہیں مانتا“	۲۶۵
○ (۲) مسلمان سے کہا: ”تیرا دین بہت خراب ہے“	۲۶۶
○ (۳) کہا: ”نماز نہیں پڑھوں گا“	۲۶۷
○ ضروری تعبیہ:	۲۶۸
○ تمرین: ۴۱	۲۶۹
○ مرجوع عنہ قول پر عمل نہ کیا جائے	۲۷۰

○ تمرین: ۲۲:	۲۵۸
□ (۲۸) متون مذہب کی حیثیت	۲۵۹
○ شروحات اور فتاویٰ کا درجہ بعد میں ہے	۲۶۰
○ متون معتبرہ	۲۶۱
○ متون غیر معتبرہ	۲۶۱
○ متون پر فتویٰ کی مثالیں	۲۶۱
○ (۱) نابینا کی گواہی کا مسئلہ	۲۶۲
○ (۲) ہڈی توڑنے سے زکوٰۃ اضطراری حاصل نہ ہوگی	۲۶۲
○ تمرین: ۲۳:	۲۶۲
□ (۲۹) کتبِ فقہ میں مفتی بقول کی پہچان	۲۶۳
○ مزید وضاحت	۲۶۳
○ خانیہ اور ملتقی	۲۶۳
○ قول اول کی ترجیح کے نمونے	۲۶۴
○ (۱) فجر کی قبل الوقت اذان	۲۶۴
○ (۲) بیمار شخص درمیان نماز صحبت یا ب ہو گیا	۲۶۴
○ تمرین: ۲۴:	۲۶۵
○ دیگر کتابوں کا طریقہ	۲۶۵
○ تمرین: ۲۵:	۲۶۶
○ کیا یہ کہنا صحیح ہے؟	۲۶۶
○ قول معلل کی ترجیح	۲۶۷
○ علامہ خیر الدین رملیؒ کا فتویٰ کیا ہے؟	۲۶۷

○ قول معلل کی ایک اور مثال	۲۶۷
○ تمرین: ۳۶	۲۶۸
□ (۳۰) الفاظ صحیح	۲۵۸
○ مختلف علماء کی آراء	۲۶۹
○ بحث کا خلاصہ	۲۷۱
○ تمرین: ۳۷	۲۷۷
□ (۳۱) صحیح میں تعارض ہو تو کیا کریں؟	۲۷۸
○ ترتیب وار مثالیں	۲۷۹
○ (۱) صحیح بمقابلہ صحیح	۲۷۹
○ (۲) صحیح بمقابلہ علیہ الفتویٰ	۲۸۰
○ (۳) ترجیح قول متن	۲۸۰
○ (۴) ترجیح قول امام	۲۸۰
○ (۵) ظاہر روایت کو ترجیح	۲۸۱
○ (۶) اکثر مشائخ کے قول کا اعتبار	۲۸۱
○ (۷) استحسان کی ترجیح	۲۸۲
○ (۸) وقف کے لئے نفع بخش قول کی ترجیح	۲۸۲
○ (۹) زمانہ کے موافق اور اسہل قول اختیار کرنا	۲۸۲
○ (۱۰) قوت دلیل کا لحاظ	۲۸۳
○ تمرین: ۳۸	۲۸۳
□ (۳۲) مفہوم مخالف کا اعتبار	۲۸۳
○ مفہوم کیا ہے؟	۲۸۳

○ مفہوم کی بنیادی قسمیں	۲۸۵
○ (۱) مفہوم موافق	۲۸۵
○ (۲) مفہوم مخالف	۲۸۵
○ مفہوم مخالف کی اقسام	۲۸۶
○ (۱) مفہوم صفت	۲۸۶
○ (۲) مفہوم شرط	۲۸۶
○ (۳) مفہوم غایت	۲۸۶
○ (۴) مفہوم عدد	۲۸۷
○ (۵) مفہوم اقب	۲۸۷
○ ائمہ کا اختلاف	۲۸۷
○ ضروری تنبیہ	۲۸۸
○ مفہوم مخالف کہاں معتبر ہے؟	۲۸۹
○ ایک مثال	۲۹۰
○ صحابہ ﷺ کے اجتہادی اقوال میں مفہوم مخالف کا اعتبار	۲۹۰
○ جزئیہ قہیہ میں مفہوم مخالف کے اعتبار کی مثال	۲۹۱
○ تمرین: ۳۹	۲۹۱
○ علتوں میں مفہوم مخالف کے اعتبار کی مثال	۲۹۱
○ تمرین: ۵۰	۲۹۲
○ ایک اشکال	۲۹۲
○ جواب	۲۹۳
○ علامہ یہی کی عبارت سے جواب کی تائید	۲۹۳

○ استدراک	۲۹۲
○ ظاہر مذہب کیا ہے؟	۲۹۵
○ ظاہر مذہب چھوڑنے کی وجوہات	۲۹۶
○ پہلی وجہ: السیر الکبیر سے استفادہ	۲۹۶
○ دوسری وجہ: شارع اللہ اور غیر شارع کے کلام میں فرق	۲۹۶
○ تیسرا وجہ: فقہاء کا عرف یہی ہے	۲۹۷
○ مگر یہ حکم کلی نہیں ہے	۲۹۷
○ قید اتفاقی کی مثال	۲۹۷
○ تمرین: ۵۱	۲۹۸
○ صریح قول کے ساتھ مفہوم مخالف کا کہیں بھی اعتبار نہیں	۲۹۸
○ تمرین: ۵۲	۲۹۸
□ عرف کا اعتبار (۳۳)	۲۹۸
○ عرف کی تعریف	۲۹۹
○ عرف اور تغییر زمانہ پر فتویٰ کی بعض مثالیں	۳۰۰
○ (۱) راجح الوقت سکھ کا اعتبار	۳۰۰
○ (۲) تعلیم قرآن پر اجارتہ کا جواز	۳۰۱
○ (۳) ظاہر عدالت کا فی نہیں	۳۰۱
○ (۴) حاکم کے علاوہ سے بھی جبرا کراہ ممکن ہے	۳۰۱
○ (۵) جھوٹی شکایت کرنے پر ضمان	۳۰۲
○ (۶) مشترک اجیر پر ضمان	۳۰۳
○ (۷) بیتیم کے مال کو مضاربت پر لینا صحیح نہیں ہے	۳۰۳

○ (۸) موقہہ زمین کے غصب پر ضمان	۳۰۳
○ (۹) وقف کی جانداروں کو کرایہ پر اٹھانے کا مسئلہ	۳۰۵
○ (۱۰) فیصلہ میں قاضی اپنے علم پر مدارنہ کے	۳۰۵
○ (۱۱) بیوی کو سفر میں ساتھ لے جانا	۳۰۶
○ (۱۲) شوہر کی طرف سے استثناء کا دعویٰ بلا بینہ قبول نہیں	۳۰۷
○ (۱۳) مہر مجّل لئے بغیر عموماً بیوی شوہر کو تلقین نہیں دیتی	۳۰۷
○ (۱۴) کل حل علیٰ حرام سے بلانیت طلاق	۳۰۸
○ (۱۵) جہیز کی ملکیت کا مسئلہ	۳۰۹
○ (۱۶) مہر موّجل کے بارے میں بیوی کا قول قبول ہے	۳۰۹
○ (۱۷) مزارعت کے بارے میں صاحبین کے قول پر فتویٰ	۳۱۰
○ (۱۸) وقف کے بارے میں صاحبین کے قول پر فتویٰ	۳۱۰
○ (۱۹) طلبِ خصوصت میں تاخیر سے شفعہ کا سقوط	۳۱۱
○ (۲۰) غیر کفویں ولی کی اجازت کے بغیر نکاح منعقد نہیں	۳۱۱
○ (۲۱) راستہ کی مٹی پاک ہے	۳۱۲
○ (۲۲) بیع الوفاء کا ضرورتہ جواز	۳۱۲
○ (۲۳) استصناع کا جواز	۳۱۳
○ (۲۴) سقایہ سے پانی پینا	۳۱۳
○ (۲۵) عسل خانہ کرایہ پر اٹھانا	۳۱۴
○ (۲۶) آٹے اور روٹی کو قرض لینا	۳۱۴
○ مثالوں پر تبصرہ	۳۱۵
○ تمرین: ۵۳	۳۱۵

- کیا عرف بدلنے سے بار بار حکم بد لے گا؟ ۳۱۶
- عرف پر فتوی دینے کی اہلیت ۳۱۶
- عرف سے صرف نظر روانہ نہیں ۳۱۷
- زمانہ کی تبدیلی سے احکام بدلنے کی ایک مثال ۳۱۷
- دوسری مثال ۳۱۸
- ایک سوال و جواب ۳۱۸
- شریعت کے خلاف عرف معتبر نہیں ۳۱۹
- اپنے زمانہ کے عرف کونہ جانے والا مفتی جاہل ہے ۳۱۹
- مسائلِ قضائیں امام ابو یوسفؓ کے قول پر فتوی کی علت ۳۲۰
- امام محمدؓی عادتِ شریفہ ۳۲۰
- لوگوں کے حقوق کا خیال رکھا جائے گا ۳۲۰
- ایک اعتراض اور اس کا جواب ۳۲۰
- عرف عام اور عرف خاص ۳۲۱
- عرف عام اور عرف خاص کے اثرات ۳۲۱
- مزید وضاحت ۳۲۲
- خلاصہ بحث ۳۲۳
- تمرین: ۵۲: ۳۲۲
- (۳۲) ضعیف قول پر عمل کس کے لئے جائز ہے؟ ۳۲۲
- حفیہ کا موقف کیا ہے؟ ۳۲۵
- منسوخ ہونے کا مطلب ۳۲۵
- ایک تعارض ۳۲۶

○ کمزور جواب	۳۲۶
○ مضبوط جواب اور تطبیق کی کوشش	۳۲۷
○ ضرورتہ قول ضعیف پر عمل منوع نہیں	۳۲۷
○ تین مسئللوں سے استدلال	۳۲۷
○ (۱) احتلام کے وقت شرم گاہ کو پکڑ لینا	۳۲۷
○ (۲) ناسروالے مریض کے لئے آسانی	۳۲۸
○ گُنَّۃُ الْحِمَّصَۃُ	۳۲۹
○ تمرين: ۵۵	۳۳۰
○ (۳) دم حیض کے متعلق مختلف روایات	۳۳۰
○ تمرين: ۵۶	۳۳۱
○ کیا پتہ چلا؟	۳۳۱
○ اہل نظر مفتی کے لئے ضعیف قول لینے کی اجازت	۳۳۲
○ ایک اشکال	۳۳۲
○ جواب	۳۳۳
○ قاضی خنی کا حکم	۳۳۳
○ اگر کوئی قاضی راجح کے خلاف فیصلہ کر دے تو اس کا نفاذ نہ ہوگا	۳۳۵
○ بہاں صاحبینؒ کی رائے زیادہ وقیع ہے	۳۳۶
○ علامہ شامیؒ کی تائید	۳۳۷
○ خاتمه	۳۳۷



۳۲۰	□ تقریب
۳۲۲	□ سوال نامہ ادارۃ المباحث الفقہیہ جمیعۃ علماء ہند
۳۲۵	○ اسلام میں قانون سازی کی بنیاد
۳۲۵	○ (۱) کتاب اللہ
۳۲۵	○ (۲) سنت رسول اللہ
۳۲۶	○ (۳) اجماع امت
۳۲۶	○ دلائل سمعیہ
۳۵۱	○ (۲) قیاس
۳۵۲	○ احسان
۳۵۳	○ اصول: ۱:
۳۵۳	○ اصول: ۲
۳۵۵	○ حدیث معاذ <small>(رضی اللہ عنہ)</small>
۳۵۶	○ دورِ صحابہ <small>(رضی اللہ عنہم)</small>
۳۵۸	○ بعد کا زمانہ
۳۵۹	○ اختلاف فقهاء
۳۶۰	○ ائمہ رابعہ
۳۶۱	○ عمل کے لئے مستقل راہ
۳۶۲	○ تقلید کے اصطلاحی معنی
۳۶۲	○ تقلید مطلق یا مقید
۳۶۳	○ مذاہب اربعہ میں انحصار

○ تعین ضروری ہے -	۳۶۶
○ نفسانیت کی اجازت نہیں -	۳۶۷
○ الامان، الحفیظ! -	۳۶۸
○ ناگزیر صورت حال -	۳۶۹
○ بحث: ا، اہلیت -	۳۷۰
○ طبقاتِ مجتهدین -	۳۷۱
○ اجتہاد میں تجزیٰ -	۳۷۳
○ عدول عن المذہب کے لئے درکار صلاحیت -	۳۷۳
○ بحث: ۲: ضرورت -	۳۷۷
○ قصدِ محمود کی نشانیاں -	۳۷۸
○ (۱) پہلی نشانی: اجتہادی صلاحیت -	۳۷۸
○ (۲) قصدِ محمود کی دوسری نشانی: عرف کی تبدیلی -	۳۷۹
○ (۳) قصدِ محمود کی تیسرا علامت: ضرورت شرعیہ -	۳۸۰
○ کوئی ضرورت معتبر ہے؟ -	۳۸۱
○ حاجت اور ضرورت کے اثر میں فرق -	۳۸۲
○ حاجت کی مثالیں -	۳۸۲
○ حاجتِ عامہ -	۳۸۳
○ عموم بلوئی -	۳۸۷
○ ضرورتِ خاصہ -	۳۹۰
○ مالی مشقت میں رخصت کی مثال -	۳۹۰
○ عبادت کی حفاظت کے لئے رخصت کی مثال -	۳۹۰

○ ماحصل	۳۹۱
○ واضح رہے	۳۹۲
○ تصویر کا مسئلہ	۳۹۳
○ اب غور کرنا ہے	۳۹۴
○ ضرورتِ عامد کی بنیاد پر تبدیلی کی مثال	۳۹۵
○ عموم بلوئی کی وجہ سے دوسرے مذہب پر عمل	۳۹۶
○ ضرورتِ خاصہ کی بنیاد پر مذہب سے خروج	۳۹۸
○ احکیمۃ الناجزہ کے مسائل	۴۰۰
○ قصیدہ موم کی نشانیاں	۴۰۰
○ بحث نمبر: ۳ مسئلہ کی جانچ پڑتاں	۴۰۲
○ پہلی صورت	۴۰۲
○ اجماع مطلق کی مثالیں	۴۰۳
○ اجماع مرکب کی مثالیں	۴۰۴
○ فائدہ	۴۰۶
○ دوسری صورت	۴۰۶
○ مجتهدین منتسبین کا ائمہ اربعہ کے مسلک سے خروج	۴۰۷
○ ایک شبہ کا ازالہ	۴۰۸
○ تیسرا صورت	۴۰۸
○ پہلی شرط	۴۰۸
○ دوسری شرط	۴۰۹
○ تیسرا شرط	۴۰۹

- چوٹھی شرط ۲۰۹
- تلفیق کیا ہے؟ ۲۰۹
- تلفیق حقیقی ۲۱۰
- تلفیق حقیقی کا حکم ۲۱۳
- تلفیق مجازی ۲۱۵
- تلفیق مجازی کا حکم ۲۱۶
- پانچویں شرط ۲۱۷
- چوٹھی صورت ۲۱۹
- پانچویں صورت ۲۲۰
- چھٹی صورت ۲۲۱
- خلاصہ ۲۲۱



- سوال نامہ کے اجمالی جوابات ۲۲۳
- متفقہ فیصلہ چوتھا فتحی اجتماع ۲۲، ۲۵، ۱، اکتوبر ۱۹۹۲ء ۲۲۴



باسمہ سمجھانہ و تعالیٰ

## عرضِ مؤلف (طبع جدید)

نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد !

بغضله تعالیٰ یہ کتاب ”فتویٰ نویسی“ کے رہنمایا صول، ۱۴۱۹ھ میں پہلی مرتبہ شائع ہوئی، اس کے بعد سے اس کے متعدد ایڈیشن ہندوپاک میں شائع ہو چکے ہیں اور بالخصوص دارالافتاء میں زیر تعلیم طلباء سے مستفید ہو رہے ہیں، اس پر اللہ تعالیٰ کا جس قدر بھی شکرداد کیا جائے کم ہے۔  
 یہ کتاب اگرچہ کافی تحقیق و تتفییح کے بعد شائع ہوئی تھی لیکن بعد میں مطالعہ و تدریس کے دوران اندازہ ہوا کہ اس میں کچھ فروگذاشتیں رہ گئی ہیں۔ بعض مختص دوستوں نے بھی چند باتوں کی طرف توجہ دلائی، فقهاء کے سنین وفات نقل کرنے میں کچھ انглаط سامنے آئیں، اس لئے ضرورت محسوس ہوئی کہ پوری کتاب پر از سر نو گہری نظر ڈالی جائے، عبارات کو اصل سے ملایا جائے، اور انглаط کی تصحیح کی جائے۔

نظر ثانی کے وقت مناسب معلوم ہوا کہ فقہ و فتاویٰ کی اہمیت و ضرورت اور فتویٰ نویسی کے آداب و اصول سے متعلق کچھ مضامین اور مشوروں کا اضافہ کیا جائے، چنانچہ شروع میں فقہ و حدیث اور تفسیر وغیرہ کی اُن چند اہم کتابوں کا تعارف شامل کیا گیا جن کی فتاویٰ کے حوالوں میں ضرورت پڑتی ہے، اور اخیر میں ضمیمہ کے طور پر ”مسلسل غیر پر فتویٰ اور عمل: شرائط وحدود“ نامی مقالہ کا اضافہ کیا گیا۔

یہ امر باعثِ اطمینان ہے کہ اس اضافہ شدہ حصہ پر حضرت الاستاذ مولا ناجعت اللہ صاحب اعظمی دامت برکاتہم نے گہری نظر ڈالی اور مفید مشورے اور اصلاحات فرمائیں۔ علاوہ ازیں والد

محترم حضرت اقدس مولانا قاری سید محمد عثمان زید مجدد ہم نے بھی اس کو ملاحظہ فرمایا اور اس کی تصویب کی، نیز حضرت مولانا مفتی عبد اللہ صاحب معروفی استاذ شعبہ تخصص فی الحدیث دارالعلوم دیوبند نے اسے ملاحظہ فرمائے اور کتابوں کے تعارف کے سلسلہ میں قبل قدر رہنمائی فرمائی۔ فجز اہم اللہ احسن الجزاء۔

امید ہے کہ اب الحمد للہ یہ کتاب مزید توجہ سے پڑھی جائے گی اور شاکرین حضرات کے لئے اس میں موضوع سے متعلق بہت سا موارد کیجا طور پر میسر آجائے گا۔ اللہ تعالیٰ الحض اپنے فضل و کرم سے اس محنت کو قبول فرمائیں، اور احقر کے والدین محترمین اور اساتذہ کے لئے صدقہ مباریہ بنائیں، آمین۔ اخیر میں قارئین سے درخواست ہے کہ مطالعہ کے دوران ان اگر کوئی غلطی معلوم ہو۔ جس کا عین امکان ہے۔ تو اس پر مطلع فرمائے اور منون فرمائیں، کرم ہوگا۔

#### فقط واللہ الموفق:

احقر محمد سلمان منصور پوری غفرلہ

خادم و فقہ حدیث جامعہ قاسمیہ مدرسہ شاہی مراد آباد

۱۴۳۲ھ قعدہ ۲۵



## عرض مؤلف (طبع اول)

# کچھ کتاب کے بارے میں!

نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد !

علامہ ابن عابدین شامی رحمۃ اللہ علیہ (المتوفی ۱۲۵۲ھ) کی شہرہ آفاق کتاب ”شرح عقود رسم المفتی“ ہمارے مدارس میں پڑھائی جانے والی کتابوں میں اپنے موضوع کی اول و آخر کتاب ہے۔ فقہ خنفی کے مطابق ”فتویٰ نویسی“ کے آداب و اصول اور حدود و شرائط پر یہی کتاب سند کا درجہ رکھتی ہے، جس میں فاضل مصنف نے اپنی حتی الوسع و افر معلومات اور علماء سابقین کی آراء جمع فرمادی ہیں، فجز اہ اللہ أحسن الجزاء۔

**الف :** کسی فنی اور اصولی کتاب سے کما حقہ فائدہ اٹھانے کے لئے ضروری ہے کہ اس کے اصول اور بنیادی نکات کو الگ الگ کر کے ہر اصول کا اجراء کرایا جائے، جیسا کہ نحوی اور صرفی کتابوں میں کرایا جاتا ہے۔

**ب :** اس لئے احقر کا شروع ہی سے یہ خیال تھا کہ اگر اللہ تعالیٰ نے توفیق دی تو ”شرح عقود رسم المفتی“ سے اصولوں کا الگ سے انتخاب کر کے کتب فقہیہ سے ان اصولوں پر منطبق مثالیں جمع کروں گا تاکہ اصولی طور سے فن پر عبور حاصل ہو۔

**ج :** شوال ۱۴۱۰ھ میں جب احقر جامعہ قاسمیہ مدرسہ شاہی مراد آباد میں تدریس و افتاء کی خدمت پر مأمور ہوا تو حسن اتفاق سے افتاء کی کتابوں میں ”شرح عقود رسم المفتی“ کی تدریس احقر سے متعلق کی گئی۔ چنانچہ احقر نے اپنے اور عزیز طلبہ کے فائدہ کے لئے کتاب کے نوٹ لکھوانے شروع کئے، کئی سال نوٹ لکھوانے کے بعد ۱۴۳۲ھ/بنیادی اصول مخصوص کئے گئے، اور ہر اصول کے

اجراء کے لئے فقه کی متبادل کتابوں سے مثالیں تلاش کرائی گئیں۔

د: ان مثالوں کا حصول احقر کے لئے خاصاً مشکل کام تھا، اگر گذشتہ ۹ رسال میں دارالافتاء جامعہ قاسمیہ مدرسہ شاہی مراد آباد میں زیر تعلیم رہے عزیز احباب کی محنتیں شامل نہ ہوتیں تو احقر اپنی نا اہلی اور سنتی کی بنابر شاید عمر بھر میں مثالیں جمع کرنے میں کامیاب نہ ہو پاتا۔

۵: مخصوص اصول کے ساتھ یہ بھی ضرورت محسوس ہوئی کہ ”شرح عقود رسم المفتی“ میں جو وضاحتی بحثیں آئی ہیں، ان کی اس طرح تلخیص کی جائے کہ عبارت کا تسلسل بھی باقی رہے اور عنوان لگا کر ہر پہلو کو اجاگر بھی کر دیا جائے، جس سے اصل کتاب کو سمجھنے میں بھی کافی مدد سکتی ہے اسی لئے ہر پیرا گراف کے اخیر میں یہ بتا دیا گیا ہے کہ وہ بحث کتاب کی کس عبارت سے مانوذ ہے۔

و: اسی طرح جن مسائل کی طرف ”شرح عقود رسم المفتی“ میں صرف اشارہ کر دیا گیا ہے، مثلاً ”جامع صغیر کے چھ اختلافی مسئلے“، ”امام زفر کے مفتی بے اقوال“، قیاسی راجح مسائل وغیرہ۔ ان کی تفصیل کی ضرورت تھی، چنان چہ یہ کام بھی انجام دیا گیا۔

ز: بعض احباب نے یہ مشورہ دیا تھا کہ باقاعدہ حل عبارت کو منظر رکھ کر شرح کے انداز میں کتاب لکھی جائے، لیکن اولاً احقر کی نظر میں اصل مقصد ”فن کا اجراء“ تھا، اس لئے ترجمہ لغوی اور حل عبارت پر زیادہ زور نہیں دیا گیا، دوسرے یہ کہ اسی دوران ۱۴۲۶ھ میں حضرت الاستاذ مولانا مفتی سعید احمد صاحب پالن پوری مد فیوضہم استاذ حدیث دارالعلوم دیوبند کی کتاب: ”آپ فتویٰ کیسے دیں؟“، اہل علم کے ہاتھوں میں پہنچ گئی، جس سے ”شرح عقود رسم المفتی“ کے ترجمہ اور شرح کی ضرورت بدرجہ اتم پوری ہوئی ہے۔ جو حضرات حل کتاب چاہیں وہ حضرت موصوف کے مفید ترجمہ و شرح سے استفادہ کر سکتے ہیں۔

ح: احقر کا ارادہ یہ بھی تھا کہ رسم المفتی میں جن حضرات فقہاء اور جن فقہی کتابوں کا ذکر آیا ہے ان کا مختصر تعارف اخیر میں شامل کر دیا جائے، لیکن یہ ضرورت بھی حضرت الاستاذ دامت برکاتہم کی شرح: ”آپ فتویٰ کیسے دیں؟“ میں بہت عمده انداز میں پوری کردی گئی ہے، حضرت الاستاذ مظلہ نے اپنی کتاب میں ۱۱۶ ارقامہ اور فقہی کتابوں کا جامع تعارف کرایا ہے جو لائق مطالعہ ہے۔

ط: احقر کے لئے یہ امر انہائی باعث سعادت ہے کہ محسن و مرتبی اور مشقق ترین استاذ حضرت اقدس فقیہ الامت مولانا مفتی محمود حسن گنگوہی قدس سرہ العزیز نے ربیع الثانی ۱۴۱۶ھ میں اس کتاب کے مسودہ کے اکثر حصہ کوئی مجالس میں بغور سماحت فرمایا اور اس پر پسندیدگی کا اظہار فرمایا کرد، عطاوں سے نوازا، اور ایک تحریر بھی عنایت فرمائی، فا الحمد للہ۔

ی: بہر حال اب یہ کتاب شاکرین افقاء کی خدمت میں پیش ہے، احقر نے گذشتہ ۹ رسالوں کے تجربہ سے یہ اندازہ لگایا ہے کتاب میں ذکر کردہ ”تمرینات“ پر اگر بالالتزام عمل کرایا جائے تو طلبہ کو فقہ حنفی سے اچھی مناسبت پیدا ہو جاتی ہے، مطالعہ کا ذوق پیدا ہوتا ہے اور فتاویٰ نویسی کے اصول ذہن میں راست ہو جاتے ہیں۔ اگر حضرات اساتذہ اسی طرز پر رسم المفتی میں تمرین کرائیں تو انشاء اللہ مفید ثمرات ظاہر ہوں گے۔

آخر میں قارئین سے درخواست ہے کہ مطالعہ کے دوران جو کوتا ہی محسوس فرمائیں۔ جس کا قوی امکان ہے۔ تو اس سے احقر کو ضرور مطلع فرمائیں۔ نیز دعا فرمائیں کہ اللہ تعالیٰ اس محنت کو قبول فرمائے اور ہمارے لئے صدقہ جاریہ بنائے، آمین۔

فقط و اللہ الموفق۔

احقر محمد سلمان منصور پوری غفرلہ  
خادم افقاء و مدرسہ شاہی مر آباد

۱۴۱۹/۵/۳

**نحو:** (۱) رسم المفتی کی عبارت کے لئے ”شرح عقود رسم المفتی“ (مطبوعہ سہارن پور تختیشیہ حضرت مولانا مفتی مظفر حسین صاحب<sup>ؒ</sup> و مولانا محمد اطہر صاحب) کا حوالہ دیا گیا ہے۔ طلبہ کو چاہئے کہ وہ اپنے پاس موجود نسخہ کے اعتبار سے صفحات اور سطر کے نمبرات درج کر لیں۔

(۲) شامی کے اکثر حوالے انجام سعید کمپنی پاکستان اور زکریا بک ڈپوڈ یونیورسٹی سے شائع ہونے والے نسخوں کے موافق ہیں۔



## تقریظات اکابر و اساتذہ عظام

□ تقریظ: فقیہ الامت مخدوم مکرم حضرت الاستاذ مولانا مفتی محمود حسن صاحب  
گنگوہی قدس سرہ، مفتی عظم دارالعلوم دیوبند

باسمہ سبحانہ و تعالیٰ:

**الحمد لله وحده والصلوة والسلام على من لا بد به:**

عزیز مکرم الحاج مفتی محمد سلمان صاحب سلمہ اللہ تعالیٰ استاذ جامعہ قاسمیہ مدرسہ شاہی مراد آباد نے ”فتاویٰ نویسی کے رہنمای اصول“ کے نام سے ایک رسالہ ترتیب دیا ہے، جس میں ”شرح عقود رسم امفتی“ اور بعض دیگر معتبر کتب فتاویٰ کے مضامین الگ الگ عنوانات کے تحت بیان کئے ہیں اور جامعہ ملیٹی بھی دی ہیں۔

میں نے اس رسالہ کا کافی حصہ سن، الحمد للہ عزیز موصوف سلمہ نے نہایت عرق ریزی سے عمدہ طریقہ پر تمام مضامین کو ترتیب دیا ہے، امید ہے کہ طلباء افقاء کے لئے عزیز موصوف سلمہ کی یہ محنت مفید ثابت ہوگی۔

اللہ پاک مرتب اور رسالہ کے فیض کو عام و تام فرمائے دوڑتک پہنچائے اور علم و عمل میں برکت عطا فرمائے، آمین۔

فقط والسلام  
الله العبد محمود غفرلہ گنگوہی  
چھٹتہ مسجد دارالعلوم دیوبند

□ تقریب: استاذ معظم حضرت اقدس مولا نا مفتی نظام الدین صاحب عظیمی نور اللہ مرقدہ سابق صدر مفتی دارالعلوم دیوبند

بِسْمِهِ سَبْحَانَهُ الْحَمْدُ لِلَّهِ نَحْمَدُهُ وَنُصَلِّی عَلَیْ رَسُولِهِ الْکَرِیمِ الْأَمِی الَّذِی  
لَانَبَیْ بَعْدَهُ وَعَلَیْ آلِهِ وَصَحْبِهِ أَجْمَعِینَ، وَبَعْدَ:

اس رسالہ پر بہت سے اکابر کی تقریبات دیکھیں، ماشاء اللہ سب نے اچھی تقریبات لکھی ہیں،  
حضرت مفتی محمود صاحب (قدس سرہ) کی تقریب توحیر الكلام ما قل و دل کا صحیح مصدقہ ہے۔  
صاحبزادہ سلمہ نے ”شرح عقود رسم المفتی“ سے جو چوتیس اصول اخذ کئے ہیں یہ عزیز  
موسوف کے ذہن اخاذ کی ترجمانی ہے، اصل کہتے ہیں ایسے کلی مفہوم کو جس پر بہت سی جزئیات  
متفرع ہوں، اور صاحبزادہ موسوف نے ان اخذ کردہ کلیات پر مصنفہ کتب فقیہہ سے جو جزئیات  
نقل فرمائی ہیں وہ بھی لائق صدستائش ہیں۔ اللہ تعالیٰ صاحبزادہ موسوف کو نظر بد سے بچائے اور  
مزید توفیق و ترقی سے نوازے۔ احرقر کے بال بال سے صاحبزادہ موسوف کے لئے بے شمار  
دعائیں نکل رہی ہیں۔ اللہم زد فرد، امین یا رب العالمین، فقط واللہ تعالیٰ اعلم۔  
كتبه: العبد نظام الدین غفرلہ دارالافتاء دارالعلوم دیوبند ۱۴۳۶/۵/۲۷

□ رائے عالی: حضرت الاستاذ مولا نعمت اللہ صاحب عظیمی مدت فیوضہم العالیہ  
استاذ حدیث دارالعلوم دیوبند

باسمہ سبحانہ و تعالیٰ حامداً ومصلیاً: پیش نظر کتاب عزیز گرامی قدر جناب  
مولانا مفتی محمد سلمان منصور پوری زید مجدد کی قابل قدر اور اپنے موضوع پر مفید ترین کتاب ”فتاویٰ  
نویسی کے رہنمای اصول“ کا اضافہ شدہ جدید ایڈیشن ہے، اگرچہ فتویٰ نویسی کے آداب و اصول پر  
پہلے سے چند کتابیں موجود ہیں مثلاً: علامہ ابن الصلاح (المتونی ۲۲۳ھ) کی کتاب ”ادب المفتی  
وامستقetti“ اور حافظ نووی (المتونی ۲۶۷ھ) کے مقدمہ شرح مہذب کا ”باب آداب الفتویٰ و المفتی“

وامستقتوی“۔ لیکن حنفی مکتب فقہ میں باضابطہ مستقل تصنیف کی حیثیت سے صرف علامہ ابن عابدین شامیؒ (المتوفی ۱۲۵۲ھ) کا منظومہ ”عقود رسم المفتی“ اور اس کی شرح زیادہ معروف و متداول ہے، اکابر دیوبند میں حضرت اقدس تھانویؒ (المتوفی ۱۳۶۲ھ) کی مختلف تحریرات میں جا بجا فتویٰ نویسی کے قیمتی اصول مذکور ہیں جن کو محترم مفتی محمد زید زید مجدد نے محنت و کاوش سے کتابی شکل میں مرتب کر دیا ہے۔

”شرح عقود رسم المفتی“ کی جامعیت و نافعیت میں کسے تامل ہو سکتا ہے؟ یہی وجہ ہے کہ وہ تدریب افتاء کے مروجہ نصاب میں لازمی جزوی ہوئی ہے، تاہم موجودہ دور اخھاطاط میں سخت ضرورت محسوس کی جا رہی تھی کہ اس میں ودیعت شدہ اصولی جواہر پاروں کو الگ الگ اجاگر، پھر مثالوں پر منطبق کرتے ہوئے جدید اسلوب میں ان کی تشهیل کر دی جائے۔

فاضل مؤلف کو اللہ تعالیٰ نے گوں ناگوں صلاحیتوں سے نوازا ہے، چنانچہ آپ نے یہ کام بحسن و خوبی انجام دیا، جس کو دیکھ کر قلبی مسرت ہوئی، خصوصاً یہ جدید اضافہ شدہ ایڈیشن لاٹ قصد آفریں و ستائش ہے جس میں عزیز موصوف نے تفصیل سے ان اہم مصادر و مأخذ کو روشناس کرانے کی کوشش کی ہے جن سے ایک مفتی کو چارہ کار نہیں ہو سکتا، یہ ضمیمہ طلبہ دار الافتاء کے علاوہ حضرات مفتیانِ کرام اور مدرسین کے لئے بھی انشاء اللہ رہنمایا ثابت ہو گا۔ دوسرا ضمیمہ ”ذہب غیر پر فتویٰ اور عمل“، بھی اپنے موضوع پر چشم کشا تحریر کی حیثیت رکھتا ہے۔

اللہ تعالیٰ عزیز موصوف کی مسامیٰ حسنہ کو شرف قبول بخشے، مزید ترقیات سے نوازے، خاص طور سے یہ کتاب جن نیک مقاصد کے پیش نظر لکھی گئی ہے ان میں سو فیصد کامیابی عطا فرمائے، اور اس کو مفید عام و خاص بنائے، آمین۔ فقط

نعمت اللہ الغفرلة

خادم التدریس دارالعلوم دیوبند

۱۴۲۶ھ قعدہ ۲۳

□ تصدیر: حضرت الاستاذ مولانا مفتی سعید احمد صاحب پالن پوری زید مجددم

استاذ حدیث دارالعلوم دیوبند

بسم اللہ الرحمن الرحیم

نَحْمَدُهُ وَنُسَلِّمُ عَلَىٰ رَسُولِهِ الْكَرِيمِ، إِنَّا بَعْدَ

فتویٰ دینا نہایت مهم تھم بالشان کام ہے، اس کام کی عظمت و اہمیت اس سے واضح ہے کہ یہ

سنۃ الہی ہے، ارشاد باری ہے:

لوگ آپ ﷺ سے فتویٰ (حکم شرعی) دریافت

کرتے ہیں، آپ فرماد تھے کہ اللہ تعالیٰ تم کو

فتاویٰ دیتے ہیں (حکم شرعی بیان کرتے ہیں)

کلالہ کے بارے میں اخ.

يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيْكُمْ فِي

الْكُلُّلَةِ۔ (النساء ۱۷۶)

یہ کام محبوب رب العالمین ﷺ نے بھی زندگی بھر کیا ہے اور بے شمار فتاویٰ دئے ہیں کتب

احادیث آپ ﷺ کے فتاویٰ سے بھری پڑی ہیں، ان میں سے کچھ فتاویٰ ”فتاویٰ محمدی“ نامی رسالہ میں

جمع کردئے گئے ہیں، اور آپ ﷺ کے زمانہ ہی میں اور آپ ﷺ کے بعد یہ فریضہ اہل صحابہ ﷺ نے بھی

انجام دیا ہے، جس سے اس کام کی اہمیت روز روشن کی طرح واضح ہے۔

مگر فتویٰ دینا بڑا نازک کام ہے، اس سلسلہ میں بے باکی اور کوتا ہی بڑی خطرناک بات

ہے، ابو داؤد شریف کتابِ علم میں روایت ہے کہ:

جو شخص علم کے بغیر فتویٰ دیا گیا، اس کا گناہ فتویٰ

مَنْ افْتَىَ بِغَيْرِ عِلْمٍ كَانَ إِنْتَهَىً عَلَىٰ

دینے والے پر ہے۔

مَنْ افْتَاهَهُ۔ (سنن ابو داؤد: ۳۶۵۷)

مندرجہ میں ارشاد نبوی منقول ہے کہ:

فتاویٰ دینے میں سب سے دلیر وہ شخص ہے جو جنم

أَجْرَأَكُمْ عَلَىٰ الْفُتْيَا أَجْرَأَكُمْ عَلَىٰ

میں جانے میں سب سے دلیر ہے۔

النَّارِ۔ (دارمی مقدمہ باب ۲۰ / حدیث ۱۷۵)

اور حدیث متفق علیہ میں ارشاد نبوی مردی ہے کہ:

جب اللہ تعالیٰ کسی عالم کو باقی نہیں چھوڑیں گے تو لوگ جاہلوں کو سردار بنالیں گے وہ مسائل پوچھ جائیں گے پس وہ بغیر علم کے فتویٰ دیں گے تو خود بھی گمراہ ہوں گے اور دوسروں کو بھی گمراہ کریں گے۔

حَتَّىٰ إِذَا لَمْ يُقِّعْ عَالِمًا، اتَّخَذَ  
النَّاسُ رُؤُوسًا جُهَالًا، فَسَئَلُوا  
فَأَفْتُوا بِغَيْرِ عِلْمٍ فَضَلُوا وَأَضَلُوا.

(مشکوٰۃ شریف کتاب العلم فصل اول)

ان روایات سے قدِر مشرک یہ بات واضح ہوتی ہے کہ فتویٰ نویسی کے لئے بنیادی چیز ”علم“ ہے اور کس درجہ کا علم؟ اور کون سا علم؟ اس کا اندازہ درج دلیل روایت سے بخوبی ہو سکتا ہے۔ حضرت حذیفہؓ فرماتے ہیں کہ فتویٰ تین شخص دیتے ہیں، ایک وہ شخص جس کو قرآن کے ناسخ و منسوخ کا علم ہے، لوگوں نے دریافت کیا کہ ایسا شخص (بطور مثال) کون ہے؟ حضرت حذیفہؓ نے جواب دیا کہ ایسا شخص حضرت عمرؓ ہیں، دوسرا وہ امیر فتویٰ دیتا ہے جو ڈرتا نہیں ہے، تیسرا بے وقوف بناؤٹ کرنے والا فتویٰ دیتا ہے۔ (مندرجہ مقدمہ باب ۲۱، حدیث ۱۷۵-۱۷۶)

اللہ تعالیٰ ہماری پچھلی و قسموں کا مصدق بننے سے حفاظت فرمائیں اور پہلی قسم کے لئے جہاں خاص فتویٰ نویسی کے اصول و آداب کا جانا ضروری ہے، پوری شریعت کا علم بھی ضروری ہے، علوم شریعت میں مہارت کے بغیر فتویٰ نویسی میں خاطر خواہ کامیابی نہیں ہو سکتی۔

”فتاویٰ نویسی کے اصول و آداب“ پر بہت کم لکھا گیا ہے، کتب فقه و فتاویٰ میں منتشر مواد کے علاوہ علامہ ابن الصلاح رحمۃ اللہ علیہ (المتوفی ۶۲۳ھ) کا رسالہ: ”آدَبُ الْمُفْتَنِ وَالْمُسْتَفْتَنِ“ نایاب ہے، اور علامہ ابن القیم (المتوفی ۶۵۷ھ) کی کتاب ”اعلام الموقعين عن رب العالمین“ مجتهدانہ کتاب ہے، طلبہ کے لئے وہ کچھ زیادہ مفید نہیں ہے، امام نووی (المتوفی ۶۷۶ھ) نے شرح مہذب کے شروع میں باب ”آدَبُ الْفَتَوْيِ وَالْمُفْتَنِ وَالْمُسْتَفْتَنِ“ لکھا ہے جو خاصہ کی چیز ہے، اس موضوع پر سب سے زیادہ جامع کتاب علامہ ابن عابدین شامی (المتوفی ۶۲۵ھ) کا رسالہ ”شرح عقود رسم الْمُفْتَنِ“ ہے۔ یہ رسالہ بڑی حد تک فتویٰ نویسی کے اصول و آداب کا احاطہ کرتا ہے، مگر علامہ شامی کا انداز

نگارش الیلا ہے، ”وَهُوَ گفْتَةٌ آيَةٌ در حديث دیگر ان“ کے قائل ہیں۔ اپنے الفاظ میں بات کم کرتے ہیں، زیادہ تر دوسروں کی عبارتیں نقل کرتے ہیں، جس سے بات طویل بھی ہو جاتی ہے، تکرار بھی راہ پاتی ہے۔ بلکہ بعض مرتبہ یہ چیزیں بھی پیدا ہو جاتی ہے۔ تاہم امت ان کی کتابوں سے بے نیاز نہیں ہے، اللہ تعالیٰ نے ان کی کتابوں میں برکت فرمائی ہے، ”شرح عقود“ بھی امت میں میں بے حد مقبول کتاب ہے۔ پہلے طلبہ کی استعداد میں پختہ ہوتی تھیں، وہ بے تکلف یہ رسالہ پڑھتے تھے، میرے زمانہ میں دارالافتاء میں بس یہی رسالہ پڑھایا جاتا تھا اور کچھ نہیں پڑھایا جاتا تھا۔ مطالعہ کتب فقہیہ اور تمرین فتاویٰ پر پورا زور دیا جاتا تھا اور یہ رسالہ بھی ہم نے حضرت الاستاذ مفتی مہدی حسن صاحب شاہ جہاں پوری (المتومنی ۱۳۹۶ھ) سے ہفتہ دس روز میں پڑھا تھا ہم عبارت پڑھتے رہتے، کسی جگہ کچھ پوچھتے تو حضرت بولتے، کبھی حضرت عبارت روک کر کچھ افادہ فرماتے، اس طرح بحمد اللہ ہم نے سمجھ کر ہفتہ بھر میں یہ رسالہ پڑھ لیا تھا۔

مگر اب وہ صورت حال باقی نہیں رہی، اسی لئے اب دُورِ افتاء میں بھاری نصاب بنادیا گیا ہے، اور اصل چیز ”تمرین فتاویٰ“ بس برائے نام رہ گئی ہے، اس بدی ہوئی صورتِ حال کا لحاظ کر کے میں نے شرح عقود کا اردو ترجمہ ”آپ فتویٰ کیسے دیں؟“ شائع کیا تھا۔ مگر مجھے اس کا شدت سے احساس تھا کہ رسالہ میں پھیلی ہوئی ابجات اور ابجھی ہوئی عبارتیں ترجمہ کی مدد سے بھی کما حلقہ طلبہ کے قابو میں نہیں آئے گی۔ اب مجھے بے حد خوشی ہے کہ فاضل گرامی جناب مولانا مفتی محمد سلمان صاحب منصور پوری زید علمہ نے ”شرح عقود“ پر ایک انوکھے انداز سے کام کیا ہے۔ آپ نے پوری کتاب کا خلاصہ کر کے چونتیس اصول اخذ کئے ہیں، پہلے اصول کا مطلب سمجھایا ہے پھر تمرینات دی ہیں، تاکہ طلبہ کو خوب مشق ہو جائے اور اصول مختصر ہو جائیں۔ میں نے کتاب کا معتقد بہ حصہ دیکھا ہے ماشاء اللہ کتاب خوب ہے، اور اپنے مقصد میں پوری طرح کامیاب ہے، اللہ تعالیٰ اس کو قبول فرمائیں اور طلبہ کو فیض یا ب فرمائیں، آمین۔

کتبہ: سعید احمد عفان اللہ عنہ پاں پوری خادم دارالعلوم دو بندر

□ تقریظ: حضرت الاستاذ مولانا مفتی حبیب الرحمن صاحب خیر آبادی مدظلہ مفتی دارالعلوم دیوبند حامیاً و مصلیاً و مسلماً، و بعده! ”شرح عقود رسم المفتی“ علامہ ابن عابدین رحمۃ اللہ علیہ کی معروف و متداول کتاب ہے جو عموماً مدارس عربیہ کے شعبۂ افتاء میں پڑھائی جاتی ہے، اس میں فتاویٰ نویسی کے زریں اصول اور اس سے متعلق بیش قیمت مسائل ذکر کئے گئے ہیں۔

عزیز محترم مفتی محمد سلمان صاحب منصور پوری مدرس و مفتی جامعہ قاسمیہ مدرسہ شاہی مراد آباد نے محنتِ شاہیہ برداشت کر کے فقہی کتابوں سے ان اصول کی مثالیں ذکر کی ہیں اور متعدد نظائر پیش کئے ہیں، کچھ مسائل تفصیل طلب تھے، انہیں خوب تفصیل کے ساتھ مثالوں سے واضح کر کے بیان کیا ہے، جن مسائل میں ضرورت سے زیادہ تطویل تھی عمدہ اسلوب میں ان کی تلخیص فرمائی ہے، اکثر اصول کے آخر میں مشق کے لئے تمریبات بھی قائم کی ہیں۔

اس طرح آں عزیز نے کتاب مذکور کی افادیت کو دو بالا کر دیا ہے، اور فتاویٰ نویسی کے بنیادی اصول کے افہام و تفہیم کو نہایت سہل کر دیا ہے۔ طلبہ اور اساتذہ دونوں کے لئے کتاب کو نفع بخش بنادیا ہے۔ علاوہ ازیں مفتی اور مستفتی کے لئے بہت سے اصول و آداب، کارآمد مسائل اور مفید معلومات کو اس کتاب میں اکٹھا کر دیا ہے۔

دلی دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ عزیز موصوف کی اس عرق ریزی پر بہت بہت جزاۓ خیر دے، ان کی عمر اور علم میں برکت عطا فرمائے، ان کی کاؤش کو شرفِ قبولیت سے نوازے، آمین۔

حبیب الرحمن خیر آبادی عفاف اللہ عنہ خادم دارالافتاء دارالعلوم دیوبند ۱۴۳۹/۵/۱۷

□ تقریظ: حضرت الاستاذ مولانا مفتی ظفیر الدین صاحب مفتاحی مدظلہ مفتی دارالعلوم دیوبند و حضرت الاستاذ مولانا مفتی کفیل الرحمن صاحب نشاط عثمانی مدظلہ نائب مفتی دارالعلوم دیوبند

بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ و کفی وسلام علی عبادہ النین اصطفی اما بعد! آپ جانتے ہیں کہ یہ دور علیٰ ترقی و جتو کا ہے۔ آج بڑی تعداد میں علماء کرام اور مفتیان کبار پیدا ہو رہے ہیں، اور بلاشبہ اس دور کی یہ ضرورت ہے جس طرح آبادی بڑھتی جا رہی ہے،

نئے نئے مسائل بھی پیدا ہو رہے ہیں۔

ضرورت اس بات کی ہے کہ آج کل جو طلبہ افتاء میں داخل ہیں اور اس فن میں کمال پیدا کرنا چاہتے ہیں، ان کے فہم و صلاحیت کے مطابق ان سے اچھی مشق کرائی جائے، اور ان سے کوئی ایسی غلطی نہ ہونے پائے کہ جو طبقہ علماء اور صاحبان افتاء کے لئے باعثِ بدناگی ہو۔

”شرح عقود رسم المفتی“ افتاء کے نصاب میں داخل ہے اور پڑھانے والے اسے بڑی محنت سے پڑھاتے ہیں اور طلبہ کے ذہن نشیں کرنے کی سعی کرتے ہیں۔

عزیز مکرم مولانا مفتی محمد سلمان صاحب منصور پوری سلمہ اللہ تعالیٰ مدرسہ شاہی مراد آباد عرصہ سے درس و تدریس کی خدمات انجام دے رہے ہیں، دوسرے اس باقی کے ساتھ افتاء کی کتابوں میں ”شرح عقود رسم المفتی“، برابران کے حصہ میں دی جاتی رہی ہے، انہوں نے بہت بالغ نظری سے اپنے تجربات کی روشنی میں فتویٰ نویسی کے ۳۲۸ اصول مرتب کر کے ان کی طلبہ کو مشق کرائی ہے اور ضروری تحریفات کا ایک ذخیرہ جمع کر دیا ہے، جس میں انہیں کافی محنت و کاؤش کرنی پڑی ہو گی اور اس طرح بہت سارے مسائل ان کے زیر مطالعہ آئے ہوں گے اور بلاشبہ سینکڑوں جزئیات انہوں نے اس کتاب میں جمع کر دی ہیں جن سے طلبہ کے ذہن و فکر کو جلاء حاصل ہو گی اور اصول کے تحت ان کی جزئیات کا تتبع اور استخراج آسان ہو جائے گا۔

خاکسار کو پوری توقع ہے کہ یہ کتاب اہل علم بالخصوص فتویٰ نویسی کا جن کو ذوق و شوق ہے ان میں مقبول ہو گی اور ان پر آسانی کی راہیں کھل جائیں گی اور آگے چل کر وہ ملت کے لئے مفید ثابت ہوں گے۔

اخیر میں دعا ہے کہ رب العالمین مؤلف موصوف کو علم و عمل سے مالا مال فرمائے اور ان کی اس علمی فاضلانہ کتاب کو ان کے لئے زادِ آخرت بنائے جس کو انہوں نے بڑی دیدہ ریزی سے مرتب کیا ہے۔ *رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ*۔

طالب دعا: محمد ظفیر الدین غفرلہ مفتی دارالعلوم دیوبند ۱۴۱۹/۵/۲۶

کفیل الرحمن نائب مفتی دارالعلوم دیوبند ۱۴۱۹/۵/۲۶

□ ارشاد عالیٰ: حضرت مولانا سید رشید الدین صاحب حیدری سابق مہتمم جامعہ قاسمیہ مدرسہ شاہی مرآت آباد

### نَدْمَهُ وَنَصْلُهُ عَلَى دِسْوَلِهِ الْمَكْرِيمِ، إِمَّا بَعْدَ!

اللہ تعالیٰ نے اس دنیا کو بنایا اور اس کو طرح طرح کی نعمتوں سے آراستہ و پیراستہ کیا، انسان کو اشرف المخلوقات بنایا، اس کی تخلیق میں اعلیٰ درجہ کا میٹریل استعمال کیا، لَقَدْ خَلَقْنَا إِلَيْنَا إِنْسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ۔ لیکن اس کے باوجود سارے انسانوں کو یکساں طور پر ایک ہی نوع کا نہیں بنایا، کوئی کالا ہے تو کوئی گورا ہے، کوئی عالم ہے تو کوئی جاہل، کوئی حافظ ہے تو کوئی قاری، کوئی مقرر ہے تو کوئی کالا ہے تو کوئی محدث ہے تو کوئی مفسر، کوئی مصنف ہے تو کوئی مؤلف، کوئی بادشاہ ہے تو کوئی فقیر، کوئی ڈاکٹر ہے تو کوئی انجینئر اور کوئی سیاست داں ہے تو کوئی سائنس داں۔

پھر اللہ رب العالمین انہی افراد میں سے جس کو چاہتا ہے اپنے کاریخیر کے لئے چن لیتا ہے، اس کو اپنی عنایت کا مرکز بناتا ہے، اور اس سے طرح طرح کے کام لیتا ہے۔

عزیز موصوف مولانا الحاج الحافظ مفتی محمد سلمان سلمہ الرحمن مفتی واستاذ جامعہ قاسمیہ مدرسہ شاہی مراد آباد کو اللہ نے انہیں چنیدہ افراد میں رکھا ہے۔

عزیز موصوف نے اپنی نوسالہ محنت اور جدوجہد کے نتیجہ میں ”فتولی نویں کے رہنماء اصول“ کے نام سے ایک رسالہ مرتب کیا ہے جس میں خاص طور پر ”شرح عقود رسم المفتی“ اور بعض معتبر کتب فتاویٰ کے مضامین کو الگ الگ عنوانات قائم کر کے ان کی مثالیں بھی دی ہیں جیسا کہ کتاب کے بارے میں خود لکھتے ہیں:

”شوال ۱۷۱۰ھ میں جب احضر جامعہ قاسمیہ مدرسہ شاہی مراد آباد میں تدریس و افتاء کی خدمت پر مأمور ہوا، تو حسن اتفاق سے افتاء کی کتابوں میں ”شرح عقود رسم المفتی“ کی تدریس احضر سے متعلق کی گئی۔ چنان چہ احضر نے اپنے اور عزیز طلبہ کے لئے فائدے کے لئے کتاب کے نوٹ لکھوانے شروع کئے، کئی سال نوٹ لکھوانے کے بعد ۱۳۴۸ھ بنا دی اصول مخصوص کئے گئے، اور ہر اصول کے اجراء کے لئے فقہ کی متداول کتابوں سے مثالیں تلاش کرائی گئیں۔“

موصوف اس میں کس حد تک کامیاب ہیں، اس کا فیصلہ خود قارئین حضرات کر سکتے ہیں۔  
 میں نے عزیز موصوف کے بارے میں جو لکھا ہے وہ متنی بر حقیقت ہے، اس میں نہ مدرج  
 سراہی ہے جس کی نہت کی جائے اور نہ مبالغہ آرائی ہے جس سے اجتناب کیا جائے۔  
 میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مرتب موصوف کو دون دو نی رات چونگی ترقی عطا فرمائے اور کتاب  
 کو قبولیت تامہ سے نوازے، آمین۔

احقر شید الدین مدیر جامعہ قاسمیہ مدرسہ شاہی مراد آباد ۹/۶/۱۴۲۹

## □ رائے گرامی: والد ماجد مخدومی و مطاعی حضرت الاستاذ مولانا قاری سید محمد عثمان صاحب

منصور پوری مدظلہ استاذ حدیث و نائب مہتمم دارالعلوم دیوبند

بسم اللہ الرحمن الرحیم: عزیز القدر مولوی مفتی سید محمد سلمان منصور پوری سلمہ کو خداوند کریم  
 نے محض اپنے فضل و کرم سے تفقہ فی الدین کی دولت سے مالا مال فرمائ کر اس سلسلہ کی محنت میں  
 مشغول رہنے کی توفیق ارزانی فرمائی ہے۔ چنان چہ دارالعلوم دیوبند سے ۱۴۰۷ھ میں دورہ حدیث  
 شریف سے فراغت کے بعد دارالعلوم ہی میں تین سال دارالافتاء میں داخل رہے اور ماہرین علوم  
 شرعیہ، اکابر مفتیان کرام سے استفادہ کر کے تفقہ فی الدین کی صلاحیت میں اضافہ کی کوشش کرتے  
 رہے۔ پھر شوال ۱۴۱۰ھ سے جامعہ قاسمیہ مدرسہ شاہی مراد آباد میں فتویٰ نویسی کے ساتھ مدرسی  
 کتب حدیث و فقہ و افتاء کی خدمت کا زریں موقع باری تعالیٰ نے میسر فرمائ کر ہے۔ ساتھ ہی اللہ  
 تعالیٰ کا خاص فضل و احسان ہے کہ علمی و فقہی تحریرات مرتب کرنے کا بھی آں عزیز کو ایک خاص ذوق  
 حاصل ہو گیا ہے اور ان تحریرات میں اہل علم و اساتذہ کو اعتماد بھی ہوتا ہے۔

پیش نظر تحریر آں عزیز کی خصوصی محنت ہے جو تفقہ فی الدین کے بعد منصب افتاء سے متعلق  
 ہے جس کے کافی حصہ کو آں عزیز سلمہ کے مشق استاذ فقیہہ الامت حضرت اقدس مولانا مفتی محمود  
 حسن گنگوہی قدس سرہ نے سن کر دعا یئے کلمات تحریر فرمائے تھے، پھر موجودہ اکابر اساتذہ و مفتیان  
 کرام دارالعلوم دیوبند نے اس محنت کو بڑی قدر کی نگاہ سے دیکھا ہے اور افتاء کے طلبہ کو خصوصاً اس  
 سے مستفیض ہونے کی تاکید فرمائی ہے۔

اور احقر کی رائے میں علم فقہ حاصل کرنے والے طلبہ اور فقہ سے اشتغال خصوصی رکھنے والے اساتذہ کرام بھی اپنے مفید مطلب بہت سے مضامین اس رسالہ میں پائیں گے، جس کی ضرورت کتب فقه و اصول فقہ کی تدریس کے دوران پیش آتی ہے۔

اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اس محنت کو قبول فرمائے، اور مزید علمی و دینی و اصلاحی محنت کرنے کی توفیق مرحمت فرمائے، آمین۔

محمد عثمان منصور پوری عُفَّی عنہ خادم تدریس دارالعلوم دیوبند ۱۴۳۱ھ/۵/۲۷

□ رفیق مکرم حضرت مولانا مفتی شبیر احمد صاحب قاسمی مفتی جامعہ قاسمیہ مدرسہ شاہی مراد آباد

بسم اللہ الرحمن الرحيم حامداً ومصلیاً و مسلماً، اما بعد!

احقر نے حضرت مولانا مفتی محمد سلمان صاحب کی زیر نظر کتاب کے مطالعہ کی سعادت کی ہے، دورانِ مطالعہ جو باتیں ذہن میں نوٹ ہوتی ہیں ان میں سے چھ باتیں قابلِ ذکر ہیں:

(۱) فاضل مؤلف نے اس کتاب میں فتویٰ نویسی کے اصول و ضوابط کو نہایت سلیقہ سے جمع فرمایا۔ (۲) ہر دو یا تین اصول کے بعد ان کو جزئیات کے ساتھ مثالوں سے اچھی طرح واضح فرمایا۔ (۳) ہر دو یا تین اصول کے بعد تین پر توجہ دلا کر ناظرین کے ذہنوں کو مزید مثالیں تلاش کرنے اور موضوع پر پوری قوت کے ساتھ مطالعہ اور کتابوں کی چھان بین کرنے پر آمادہ کر دیا۔ (۴) اس کتاب کے مطالعہ سے ہر اہل علم کو فتویٰ نویسی کے اصول پر مہارت پیدا کرنے اور گہری نظر سے جزئیات تلاش کرنے کا ذوق ہو سکتا ہے۔ (۵) فاضل مؤلف نے ایک گم شدہ موضوع اور غیر مانوس فن کو آسان انداز سے پیش فرما کر ارباب افتاء اور طلبہ افتاء کے لئے ایک قیمتی سرمایہ فراہم کر دیا ہے۔ (۶) انشاء اللہ تعالیٰ یہ کتاب اصول فتاویٰ پر مناسبت پیدا کرنے کے لئے اپنے موضوع کا ایک کامیاب کارنامہ ثابت ہو گی۔ اللہ تعالیٰ اس کتاب کو شرف قبولیت سے نوازے اور مؤلف موصوف کے لئے ذخیرہ آخرت بنائے، آمین۔

شبیر احمد قاسمی عفاف اللہ عنہ دارالافتاء مدرسہ شاہی مردا آباد ۱۴۳۱ھ/۵/۸



بِسْمِ اللّٰہِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

# اپتدائیہ

فقہ و فتاویٰ کی اہمیت، فتاویٰ کے اہم مصادر و مآخذ  
کی نشاندہی اور مفید مشورے

(۱)

## فقہ و فتاویٰ کی اہمیت: فقہ کی تعریف

تفقہ کے معنی جانے کے آتے ہیں۔ اور اصولیین کی اصطلاح میں فقہ کا اطلاق ”تفصیلی دلائل سے منتخب کردہ جزئیات کو جان لیئے“ پڑھوتا ہے، جب کہ فقهاء ہر ایسے شخص کو فقیہ کہنا رواج ہے جس کو جزوی مسائل کے احکامات یاد ہوں، اور اہل حقیقت اولیاء اللہ کے نزدیک فقیہ وہ شخص ہے جس کے علم و عمل میں مطابقت پائی جائے۔ حضرت حسن بصریؓ کا مقولہ مشہور ہے کہ فقیہ وہ ہے جو (۱) دنیا سے اعراض کرنے والا (۲) آخرت کی طرف رغبت رکھنے والا (۳) اور اپنے عیوب سے باخبر ہو۔ (ستقادور مختار مع الشافعی ۱۱۸-۱۱۹)

### دین میں تفقہ فرضِ کفایہ ہے

تفقہ میں مہارت پیدا کرنا امت پر فرضِ کفایہ ہے، ہر زمانہ اور ہر علاقہ میں ایسے ماہر علماء و مفتیان کا وجود ناگزیر ہے جو ضرورت کے وقت امت کی دینی رہنمائی کا فریضہ انجام دے سکیں۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے:

فَلَوْلَا نَفَرَ مِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ مِنْهُمْ  
طَائِفَةٌ لِيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ  
وَلَيُنذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ  
لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ۔ (التوبہ ۱۲۲)

سو کیوں نہ نکلا ہر فرقہ میں سے ان کا ایک حصہ تاکہ دین میں سمجھ پیدا کریں، اور تاکہ خبر پہنچائیں اپنی قوم کو جب ان کی طرف لوٹ کر آئیں تاکہ وہ بچتے رہیں۔

اس آیت سے معلوم ہوا کہ تفہم حاصل کرنے کے لئے اگر سفر کرنا پڑے تو اس کی بھی بہت کی جائے۔ اس لئے کہ نبی اکرم ﷺ کی مجلس مبارکہ علم کا سرچشمہ ہوتی تھی اور آپ کا علمی فیضان سفر و حضر ہر جگہ جاری رہتا تھا۔ اسی فیضان سے استفادہ کے لئے خاص جماعت کو آپ کے ساتھ سفر کرنے کا حکم دیا گیا، اور یہ حکم قیامت تک باقی رہے گا اور جو ناسیں رسول علماء و فقهاء موجود ہیں گے ان سے علمی و فقہی استفادہ کا سلسلہ برابر جاری رہے گا، انشاء اللہ تعالیٰ۔ (المجمع لاحکام القرآن للقرطبی ۲۰۷/۳)

## تفہم سراپا خیر ہے

تفہم فی الدین اللہ تعالیٰ کا بے نظیر انعام ہے، جس کو یہ دولت مل جائے وہ یقیناً ”خیر کثیر“ سے بہرہ ور ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے:

يُؤْتَى الْحِكْمَةَ مَنْ يَشَاءُ وَمَنْ  
أَوْرُجَسْ كَوْسِجَهْ مَلِي اسْ كَوْبِرْتِي خَوْبِي مَلِي۔

يُؤْتَ الْحِكْمَةَ فَقَدْ أُوتَى خَيْرًا  
كَثِيرًاً。 (البقرة ۲۷۹)

مشہور مفسر حضرت مجاہد اور ضحاک رحمہما اللہ وغیرہ نے آیت میں ”حکمت“ سے تفہم مراد لیا ہے، اس کی تائید اس روایت سے بھی ہوتی ہے جس میں نبی اکرم ﷺ نے یہ ارشاد فرمایا: جس شخص کے ساتھ اللہ تعالیٰ خیر کا ارادہ فرماتے ہیں اس کو دین کی سمجھ عطا فرمادیتے ہیں۔

مَنْ يُرِيدُ اللَّهُ بِهِ خَيْرًا يُفَقِّهُهُ فِي  
الدِّينِ。 (بخاری شریف ۱۶۱) (۳۳)

نیز ایک روایت میں پیغمبر ﷺ نے ارشاد فرمایا:

تَجِدُونَ النَّاسَ مَعَادِنَ خِيَارُهُمْ  
فِي الْجَاهِلِيَّةِ خِيَارُهُمْ فِي  
الإِسْلَامِ إِذَا فَقُهُوا۔

(الفقیہ والمتفقہ ۱۴)

تم لوگوں کو کانوں (معدنیات کے ذخائر) کی طرح پاؤ گے ان میں جو لوگ زمانہ جاہلیت میں باوقار سمجھے جاتے تھے وہ اسلام لانے کے بعد بھی افضل اور باوقار رہیں گے بشرطیکہ دین کی سمجھ حاصل کریں۔

معلوم ہوا کہ اسلام میں معیار شرافت ”دین کی سمجھ“ ہے، ہر مسلمان کو چاہئے کہ وہ اس معیار کو حتی الوضع حاصل کرنے کی کوشش کرے۔

حضرت ابوالدرداء رض سے مردی ہے کہ ایک شخص نے پیغمبر ﷺ سے سوال کیا کہ دو شخص ہیں ایک تو وہ ہے جو مسلسل اللہ تعالیٰ کی عبادت میں مشغول رہتا ہے، اور دوسرا شخص وہ ہے جو فرانض کے علاوہ نوافل وغیرہ کا اہتمام نہیں کرتا لیکن وہ لوگوں کو دین کی تعلیم دیتا ہے (ان دونوں میں افضل کون ہے؟) تو آنحضرت ﷺ نے ارشاد فرمایا کہ ”اس عالم کی فضیلت عابد پر ایسی ہی ہے جیسے میری فضیلت تم میں سے ادنیٰ درجہ کے شخص پر“۔ (الفقیرہ والمحققہ ۲۳)

اور ایک روایت میں نبی اکرم ﷺ نے ارشاد فرمایا کہ ”سب سے افضل عبادت“ فقة ہے اور سب سے افضل دین پر ہیزگاری اور رورع و تقویٰ ہے۔“ (الفقیرہ والمحققہ ۲۸) اور ایک حدیث میں آپ ﷺ کا یہ ارشاد مردی ہے کہ ”سب سے افضل علم وہ ہے جس کے لوگ محتاج ہوں“۔ (الفقیرہ والمحققہ ۲۱)

اور ظاہر ہے کہ دنیا میں اہل ایمان کے لئے سب سے زیادہ ضرورت مسئلہ مسائل جاننے کی ہے اس لئے یہی علم اس حدیث کی رو سے سب سے افضل کہلانے جانے کے لائق ہے۔

## فقہ میں اشتغال افضل ترین عبادت ہے

دنی مسائل کا سیکھنا سکھانا، اور نت نے مسائل کے احکامات معلوم کرنا اور امت کی رہنمائی کرنا افضل ترین عبادت ہے، اس لئے کہ اس عمل کا نفع ساری امت تک متعدد اور رہتی دنیا تک باقی رہنے والا ہے۔ نبی اکرم ﷺ کا ارشاد عالیٰ ہے:

مَا عَبَدَ اللَّهُ بِشَيْءٍ أَفْضَلَ مِنْ فِقَهٍ  
فِي الدِّينِ وَلَفِيقِيْهِ وَاحِدٌ أَشَدُ عَلَىٰ  
الشَّيْطَانِ مِنْ أَلْفِ عَابِدٍ وَلِكُلٍّ  
شَيْءٍ عِمَادٌ وَعِمَادُ الدِّينِ الْفِقْهُ.

تفہ فی الدین سے بڑھ کر کسی عمل کے ذریعہ اللہ تعالیٰ کی عبادت نہیں کی جاسکتی (کیوں کہ مقبول عبادت کے لئے علم صحیح ضروری ہے جس کا ذریعہ تفہ ہی ہے) اور ایک فقیہہ شیطان پر ایک ہزار

(شامی مقدمہ ۱۲۳، البیهقی فی السنن)  
 الکبریٰ ۱۰۲۱، الدار القطنی ۷۹۱۳)

عبدول سے بڑھ کر ہے، اور ہر چیز کا ایک ستون  
 ہوتا ہے اور دین کا ستون تفہم فی الدین ہے۔  
 اور ایک روایت میں ہے کہ ”تفہم مجلس میں شرکت کا ثواب ساٹھ سال کی عبادت سے  
 بڑھ کر ہے“۔ (الفقیہ والمتفقہ ۲۰)

## تفہم سے دین میں تصلب نصیب ہوتا ہے

جس شخص کو فتاہت کی دولت نصیب ہو جاتی ہے اس کا سینہ دینی مسائل و احکام کے لئے پوری طرح مندرج ہو جاتا ہے، پھر نہ تودہ حالات سے مرعوب ہوتا ہے اور نہ کوئی لائچ یاد حملکی اسے راہِ حق سے ہٹنے پر مجبور کرتی ہے بلکہ وہ ذہنی طور پر پوری یکسوئی کے ساتھ دین پر عمل کرتا ہے اور اس کے برخلاف جو شخص نہ اعادہ ہو اور وہ ضروری دینی علم سے محروم ہو تو اس کے لئے حق پر ثابت قدم رہنا بہت مشکل ہوتا ہے وہ بہت جلد حالات اور فتوحات سے متاثر ہو جاتا ہے حتیٰ کہ بسا اوقات گمراہی میں بھی بتلا ہو جاتا ہے، نبی اکرم ﷺ نے اس کی وضاحت اس طرح فرمائی ہے۔

لَوْأَنَّ هَذِهِ وَقَعَثُ عَلَى هَذِهِ يَعْنِي  
 الْسَّمَاءَ عَلَى الْأَرْضِ وَزَالَ كُلُّ شَيْءٍ  
 عَنْ مَكَانِهِ مَا تَرَكَ الْعَالَمُ عِلْمَهُ وَلَوْ  
 فِسْحَتِ الدُّنْيَا عَلَى عَابِدِ لِتَرَكَ  
 عِبَادَةَ رَبِّهِ تَعَالَى۔ (الفقیہ والمتفقہ ۲۴)

اگر یہ یعنی آسمان اس یعنی زمین پر گرد پڑے اور ہر چیز اپنی جگہ سے ہٹ جائے تو پھر بھی عالم اپنے علم کو نہ چھوڑے گا اور اگر نے عابد پر دنیا کے دہانے کھول دئے جائیں تو وہ اپنے پروردگار کی عبادت چھوڑ بیٹھے گا۔

اس لئے ضروری ہے کہ عالم اور فقید اپنے موقف میں ثابت قدم ہو اور راہِ حق سے سرموہی انحراف نہ کرے۔

## تفہم اور روحانی معانی ہیں

عبداللہ بن عمرو نقل کرتے ہیں کہ ایک شخص حضرت سلیمان اعمشؓ کے پاس کوئی مسئلہ پوچھنے آیا اتفاق سے وہاں حضرت امام ابوحنیفہؓ بھی تشریف فرماتھے۔ حضرت اعمشؓ نے امام

صاحبؒ سے فرمایا کہ آپ کی اس مسئلہ کے بارے میں کیا رائے ہے؟ امام صاحبؒ نے اپنی رائے بتادی، اس پر حضرت عمش نے پوچھا کہ یہ جواب آپ نے کہاں سے دیا؟ امام صاحبؒ نے فرمایا کہ اس روایت سے جو آپ نے ہم سے بیان کر کی ہے۔ یہن کر حضرت عمش بول اٹھنے سے حسن صیادلة و ائمۃ اطباء (یعنی ہم تو محض دوافروش ہیں اور تم لوگ (فقہاء) طبیب ہو)۔ (الفقیہ والمسقیۃ ۳۶۱)

## تفقہ باعثِ عزت ہے

دین میں تفقہ اور حلت و حرمت کا علم انسان کو عزت بخشتا ہے، اور اس سے انسان کو جو عزت ملتی ہے وہ کسی اور چیز سے حاصل نہیں ہو سکتی۔ حضرت ابوالعالیہؓ فرماتے ہیں کہ میں استاذِ معظم حضرت عبداللہ بن عباسؓ کی خدمت میں حاضر ہوتا آپ تخت پر شریف فرمارتے اور آپ کے ارد گرد خاندان قریش کے لوگ موجود ہوتے آپ میرا ہاتھ پکڑ کر مجھے اپنے تخت پر اپنے ساتھ بھایا کرتے تھے، آپ کی اس عزت افزائی کو دیکھ کر قریش کے لوگ ناگواری محسوس کرتے، چنانچہ حضرت ابن عباسؓ کو بھی اس کا احساس ہو گیا تو آپ نے ارشاد فرمایا ”اسی طرح یہ علم شریف آدمی کی شرافت میں اضافہ کرتا ہے اور غلام شخص کو تخت نشین بنادیتا ہے“۔ (الفقیہ والمسقیۃ ۱۰۹)

حضرت عطاء ابن ربیعؓ مکہ مععظمہ میں ایک عورت کے غلام تھے آپ کے چہرے کی رنگت سیاہ تھی اور آپ کی ناک باقلائی کی پھلی کے مانند تھی (یعنی بد صورت تھے، مگر علمی و فقہی مقام یہ تھا کہ) ایک مرتبہ اموی بادشاہ امیر المؤمنین سلیمان بن عبد الملک اپنے دو بیٹوں کے ساتھ آپ سے ملنے آئے آپ نماز پڑھنے میں مشغول تھے، اس لئے وہ لوگ انتظار میں بیٹھ گئے، جب آپ نماز سے فارغ ہوئے تو ان کی طرف متوجہ ہوئے، امیر المؤمنین ان سے حج کے مسائل پوچھتے رہے اور آپ بے رنج سے جواب دیتے رہے پھر سلیمان نے اپنے بیٹوں سے کہا یہاں سے چلو اور ”دیکھو علم دین سیکھنے میں آنا کافی ملت کرنا اس لئے کہ آج اس کا لے غلام کے سامنے بیٹھنے سے جو میری ذلت ہوئی ہے اسے میں کبھی نہ بھول پاؤں گا“۔ (الفقیہ والمسقیۃ ۲۰)

تو معلوم ہوا کہ علم فقہ کا تعلق خوبصورتی یا عالی نسبی سے نہیں ہے بلکہ جو شخص بھی علم دین میں

کمال اور فقہ میں مہارت پیدا کر لے گا وہ لوگوں کی نظر میں باعزت ہو جائے گا، تاریخ کے ہر دور میں اس کی بے شمار مثالیں پیش کی جاسکتی ہیں۔ اس لئے ہر طالب علم کو بالخصوص دین میں اختصاص پیدا کرنے کی ہر ممکن کوشش کرنی چاہئے۔

محمد بن قاسم ابن خلاد کہتے ہیں کہ ”یہ بات معروف ہے کہ اسلام میں کسی کو کمتر سمجھنا جائز نہیں ہے، اسلام میں فضیلت اور شرافت کا معیار دین داری اور پرہیزگاری ہے، اور اگر اس پرہیزگاری کے ساتھ نسبی شرافت بھی مل جائے تو سونے پر سہاگر ہے“۔ (الفقیہ والمحفظہ ۲۰)

## عزت کا مقام تو یہ ہے

امیر المؤمنین حضرت معاویہؓ نے ایک مرتبہ مکہ کی وادی الطیح میں اپنی مجلس جماں اور جاج کی جماعتیں آپ کے سامنے سے گزرنے لگیں آپ کے ساتھ آپ کے بیٹے ”قرظہ“ بھی تھے، ایک قافلہ گذر اس میں ایک نوجوان شخص شعر گنگنا رہا تھا، حضرت معاویہؓ نے پوچھا یہ کون ہے؟ بتایا گیا کہ یہ عبد اللہ بن جعفرؑ ہیں، آپ نے فرمایا انہیں جانے دو، پھر دوسرا قافلہ گذر اس میں بھی ایک جوان اشعار پڑھ رہا تھا، معلوم کیا کہ یہ کون ہے؟ بتایا گیا کہ یہ عمر بن ابی ربيعہ ہیں، آپ نے ان کو بھی جانے کا حکم دیا، اس کے بعد ایک بڑی جماعت گذری جس میں ایک صاحب تھے جن سے لوگ حج کے مسائل پوچھ رہے تھے، کوئی کہہ رہا تھا کہ میں نے سرمنڈانے سے پہلے رمی کر لی؟ اور کوئی پوچھ رہا تھا کہ میں نے ری سے پہلے سرمنڈالیا؟ وغیرہ۔ (اور وہ سب کو جواب دے رہے تھے) حضرت معاویہؓ نے پوچھا کہ یہ کون صاحب ہیں؟ جواب ملا کہ یہ حضرت عبد اللہ بن عمرؓ ہیں۔ یہ سن کر حضرت معاویہؓ اپنے بیٹے کی طرف متوجہ ہوئے اور فرمایا کہ ”واللہ دنیا اور آخرت کی عزت و شرافت تو یہی ہے“، (کہ انسان کو دینی مرتعیت حاصل ہو جائے)۔ (الفقیہ والمحفظہ ۲۱)

اس لئے اس شرافت کو حاصل کرنے کے لئے جتنی بھی تنگ و دادا و جدوجہد کی جائے وہ کم ہے۔

کسی شاعر نے کیا خوب کہا ہے:

فَعِلْمُ الْفِقْهِ أَوْلَى بِاعْتِزَازٍ

إِذَا مَا اعْتَزَّ ذُو عِلْمٍ بِعِلْمٍ

**فَكَمْ طِيبٌ يَفْوُحُ وَلَا كَمِسْكٌ**  
 ترجمہ: اگر کوئی علم والا کسی علم سے عزت حاصل کرے تو علم فقه عزت دلانے میں سب سے زیادہ کارگر ہے، اس لئے کہ کتنی ہی خوبیوں میں پھیلتی ہیں لیکن مشک کی طرح نہیں ہوتیں، اور کتنے ہی پرندے اڑتے ہیں مگر شکرہ کی طرح نہیں اڑتے۔

اور دوسرے شاعر نے کہا:

**يَكُونُ إِلَى كُلِّ الْعُلُومِ تَوَسْلاً**  
**وَخَيْرُ عُلُومٍ عِلْمٌ فِقْهٌ لِأَنَّهُ**  
**عَلَى الْفِيْضِ ذِي رُهْدٍ تَفَضَّلَ وَاعْتَلَى**  
**فَإِنَّ فَقِيهًا وَاحِدًا مُتَوَرِّعًا**

ترجمہ: علوم میں سب سے بہتر علم فقه ہے کیوں کہ وہ تمام علوم تک پہنچنے کا ذریعہ ہے (اس لئے کہ فقیہ کے لئے لغت و اشتہاق سے لے کر تفسیر و حدیث اور دیگر علوم کا جاننا لازم ہے) اور اس لئے کہ ورع و تقوی سے متصف ایک فقیہ ایک ہزار نرے زاہدوں سے بڑھ کر فضیلت رکھتا ہے۔ (در

مختار مع الشافعی ۱/۱۲۲-۱۲۳)

نیز یہ اشعار بھی قابل لحاظ ہیں جو امام محمد گی طرف منسوب ہیں:

**إِلَى الْبَرِّ وَالثَّقَوْيِ وَأَعْدَلُ قَاصِدٍ**  
**تَفَقَّهَ فَإِنَّ الْفِقْهَ أَفْضَلُ قَائِدٍ**  
**مِنَ الْفِقِهِ وَأَسْبَحَ فِي بُحُورِ الْفُوَادِ**  
**وَكُنْ مُسْتَفِيدًا كُلَّ يَوْمٍ زِيَادَةً**  
**أَشَدُّ عَلَى الشَّيْطَانِ مِنْ الْفِيْضِ عَابِدٍ**  
**فَإِنَّ فَقِيهًا وَاحِدًا مُتَوَرِّعًا**

ترجمہ: (۱) تفقہ حاصل کرو کیوں کہ فقہ نیکی اور تقوی کی طرف لے جانے والا بہترین رہنمای اور آسان راستہ ہے۔

(۲) اور ہر روز فقه سے استفادہ میں زیادتی کر کے علمی فوائد و اطائف کے سمندروں میں غوطہ زدنی کیا کرو۔

(۳) اس لئے کہ ایک صاحب ورع و تقوی فقیہ شیطان پر ایک ہزار نرے عبادت گزاروں پر بھاری ہے۔

مذکورہ اشعار میں جو باتیں بیان کی گئی ہیں وہ مبنی برحقیقت ہیں اس لئے کہ تمام علوم اسلامیہ کا منتہی اور مررجع "علم فقہ" ہے، بقیہ تمام علوم تفقہ حاصل کرنے کے ذرائع کی حیثیت رکھتے ہیں۔ لغت نحو اور اشتقاق سے لے کر حدیث و تفسیر کا علم اسی لئے حاصل کیا جاتا ہے کہ حلال و حرام کے بارے میں امتیاز ہو جائے اور دینی اعتبار سے کیا عمل صحیح ہے اور کیا غلط ہے؟ اس کا پتہ چل جائے۔ اور یہ بات فقہ ہی سے حاصل ہو سکتی ہے، نیز یہ بات بھی قابل غور ہے کہ دیگر کسی علم کے لئے فقہ میں مہارت ضروری نہیں لیکن کامل فقیدہ بننے کے لئے دیگر علوم میں مہارت بھی لازم ہے۔ فقیہ صحیح معنی میں وہی ہو سکتا ہے جو نہ صرف علوم عربیہ پر دستگاہ رکھتا ہو بلکہ اس کے لئے ضروری ہے کہ وہ حدیث و تفسیر، آثار صحابہ اور اقوال سلف پر بھی گہری نظر رکھنے والا ہو، یعنی علوم نقلیہ و عقلیہ کا جامع ہوا سی پر درحقیقت "فقیہ" کا اطلاق کیا جا سکتا ہے، اس کے برخلاف جو صرف ناقل کے درجہ میں ہو وہ "فقیہ" نہیں بلکہ "ناقل فقہ" ہے۔

## علوم کے چند مراتب

معلومات حاصل کرنے کے چند مراتب ہیں:

(۱) **فرض عین**: جن مسائل کا جانا نا عقائد کی درستگی اور اعمال کی صحیح کے لئے ضروری ہے اتنی حد تک معلومات کا جانا ہر مسلمان پر فرض ہے، مثلاً اسلام کے بنیادی عقائد، وحدانیت، رسالت، آخرت، تقدیر وغیرہ اور نماز، روزہ وغیرہ کے اہم مسائل جن سے ہر مسلمان کو واسطہ پڑتا ہے، اسی طرح زکاۃ دینے والے کے لئے زکاۃ کے مسائل جانا اور حج کو جانے والے کے لئے حج کے مناسک کا ضروری علم حاصل کرنا یہ فرض ہے، اگر معلومات نہیں کرے گا تو گندگا رہو گا۔

(۲) **فرض کفایہ**: جن علوم و مسائل کے جاننے کی عام لوگوں کو ضرورت کبھی کبھی پڑتی ہو، مثلاً غسل جنازہ کے مسائل، یا احکام مساجد، مسائل وقف، یا جن علوم کے جاننے پر قرآن و حدیث کا سمجھنا مختصر ہو جیسے علم صرف و نحو، لغت، اشتقاق، یا جن علوم کو جاننے سے صحیح علم تک رہنمائی ہوتی ہو مثلاً ناسخ منسوخ کا علم، یا رواۃ حدیث کے معتبر یا غیر معتبر ہونے کا علم جسے علم اسماء الرجال کہا جاتا ہے الی

آخرہ۔ اس طرح کے علوم کا جاننا فرض کفایہ ہے یعنی کچھ افراد ان علوم کے حاملین امت میں ضرور رہنے چاہئیں، جن کی طرف بوقت ضرورت رجوع کیا جاسکے۔ اگر کوئی نہ رہے گا تو پوری امت گنہ گار ہو گی، اور چند افراد بھی اس ذمہ داری کو اور ٹھیں گے تو پوری امت گناہ سے محفوظ رہے گی۔

(۳) **مستحب:** علاوہ ازیں علم فقہ میں کمال حاصل کرنا، اور اخلاقی اصلاح کی صورتوں پر مطلع ہونا، استحبابی درجہ رکھتا ہے، یعنی جو علمی تحریک پیدا کرے گا وہ بڑے اجر و ثواب کا مستحق ہو گا۔

(۴) **حرام:** جادوگری، کہانت، مل و جعفر علم فلسفہ کے بعض اجزاء کا جاننا شرعاً حرام ہے۔

(۵) **مکروہ:** ایسے غزلیہ اشعار اور افسانوں کا علم جن میں عشق و محبت کی فرضی داستانیں بیان کی جائیں مکروہ ہے۔

(۶) **مباح:** ایسے اشعار و واقعات یا علوم کا جاننا جس سے کسی دوسرے کی حق تلفی یا اور کوئی شرعی مفسدہ لازم نہ آتا ہو شرعاً مباح ہے۔ آج کل کے جدید علوم: سائنس، انجینئرنگ وغیرہ بھی اسی دائرہ میں آتے ہیں کہ اگر انہیں منکرات و معاصی سے بچتے ہوئے حاصل کیا جائے تو کوئی حرج نہیں بلکہ اسلام اور انسانیت کی خدمت کی نیت سے ان کا سیکھنا اجر و ثواب کا باعث بھی ہو گا؛ لیکن بہر حال خلاف شرع امور سے بچنا لازم ہے۔ (درستار العالی اردو ۱۳۶۷ء)

## تفقہ کے لئے ذہنی یکسوئی ضروری ہے

سلیمان بن وکیع کہتے ہیں کہ میرے سامنے ایک شخص نے حضرت امام ابوحنیفہ سے سوال کیا کہ فقہی معلومات کو ذہن میں محفوظ اور راست کرنے کے لئے کسی چیز سے مدد حاصل کی جائے؟ آپ جواب دیا کہ یکسوئی سے مدد لی جائے (یعنی طبیعت میں یکسوئی پیدا کرنے کی کوشش کی جائے جبھی فقد میں کمال حاصل ہو گا) پھر اس شخص نے پوچھا کہ تعلقات اور خیالات سے چھکارا کیسے پایا جائے؟ تو امام صاحبؒ نے فرمایا کہ ضرورت سے زائد کوئی چیز حاصل مت کرو (یعنی دنیا کا ہر کام اور ہر ضرورت بقدر حاجت رہے اس میں زیادتی نہ کی جائے)۔ (الفقیہ والحقیقتہ ۱/۳۸۵)

آج کے طلبہ میں استعداد کی کمی کی ایک بڑی وجہ یہ ہے کہ دنیا بھر کی مصروفیات اور تعلقات کی

وجہ سے انہیں ہنی میکسوئی میسر نہیں آتی، جس کے نتیجہ میں حافظہ اور استعداد میں کمزوری رہ جاتی ہے۔  
امام شافعیؒ نے فرمایا کہ طبیعت زمین ہے اور علم بیچ کے مانند ہے، اور علم کے لئے طلب اور  
شوق لازم ہے۔ پس جب طبیعت علم کی طرف مائل ہوتی ہے تو علم میں اسی طرح برگ وبار آتے  
ہیں جیسے زمین کی نرمی سے بیچ بار آور ہوتا ہے۔ (الفقیرہ والمسقیۃ) (۳۸۵)

## کم عمری میں تفقہ کا مشورہ

امیر المؤمنین سیدنا حضرت عمر بن الخطابؓ نے ارشاد فرمایا: تفقہہوا قبل أن تسودوا، یعنی  
سرداری حاصل کرنے سے پہلے ہی تفقہ کی صفت اپنے اندر پیدا کرنے کی کوشش کرو، پھر اسی کی تشریح  
کرتے ہوئے فرمایا کہ ”اگر تم نے نو عمری میں علم نہ سیکھا تو بڑے ہونے کے بعد تمہیں کسی کی شاگردی  
کرتے ہوئے شرم آئے گی اور تم جاہل کے جاہل ہی رہ جاؤ گے اور اگر اپنے سے کم عمر سے مسئلہ پوچھو گے  
تو اس کی وجہ سے تمہاری عزت پر حرف آئے گا، اور لوگ اس پر طعنہ دیں گے۔“ (الفقیرہ والمسقیۃ) (۳۶۰)

حضرت عمرؓ کا یہ مشورہ بالکل بحق ہے اور تجربہ اور مشاہدہ پر مبنی ہے، اصل محنت کی عمر تو  
ابتدائی جوانی کی ہی ہوتی ہے، اسی زمانہ کی محنت کا شمارہ آدمی زندگی بھر کھاتا رہتا ہے۔ اور جس نے اس  
قیمتی زمانہ کو ضائع کر دیا تو وہ ہمیشہ کف افسوس ہی ملتا رہے گا، اور اس کی مراد یہ ہرگز پوری نہ ہوں گی۔



۲

## سرمایہ کتب

احقر جب دارالعلوم دیوبند میں شعبۂ افتاء کا طالب علم تھا تو استاذ معظم فقیہ الامت حضرت مولانا مفتی محمود حسن گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک روز ارشاد فرمایا کہ تیرے پاس فقہ کی کون کون سی کتابیں ہیں؟ احقر نے عرض کیا اس وقت فتاویٰ شامی (رالمحتر علی الدر المختار) فتاویٰ عالمگیری اور البحر الرائق ہیں۔ حضرت نے فرمایا: ”بہت اچھا! جس مفتی کے پاس ذاتی کتابیں نہ ہوں اس کی مثال ایسی ہے جیسے میدانِ جنگ میں بلا ہتھیار کا سپاہی، پھر فرمایا کہ: ”نظر میں گیرائی کے لئے فتاویٰ شامی کا مطالعہ بہت مفید ہے، جب کہ حسن ترتیب کے اعتبار سے ”بدائع الصنائع“ کا کوئی جواب نہیں ہے، دلائل کے تتعین کے لئے ”فتح القدیر“ بنے نظیر کتاب ہے، اور جزئیات تلاش کرنے کے لئے ”البحر الرائق“ اور ”عالمگیری“ وغیرہ کا مطالعہ کرنا چاہئے۔“ (مفہوم)

اس وقت حضرت الاستاذ المعظم نے اپنے سالہا سال کے تجربہ کی روشنی میں جوبات ارشاد فرمائی تھی بعد میں جب بفضل خداوندی اس راہ میں خدمت کی سعادت حاصل ہوئی تو آپ کے ارشاد کی صداقت عیاں ہوتی چلی گئی۔ حضرت والا گاہ فرمانا کہ ”کتابوں کے بغیر مفتی کا حال ایسا ہے جیسے بہتھیار کے سپاہی،“ سو فیصد درست ہے۔ جو مفتی کتابوں کو اوڑھنا پکھونا نہ بنائے وہ علمی ترقی سے ہرگز بہرہ ورنہیں ہو سکتا، اس لئے طلبہ افتاء کو چاہئے کہ وہ طالب علمی کے دور سے ہی کتابوں کو جمع کرنے کی کوشش کریں۔ ذیل میں بطور مشورہ ان چند اہم کتابوں کا تذکرہ و تعارف درج کیا جاتا ہے جو مفتی کے لئے قدم قدم پر رہنمای ثابت ہو سکتی ہیں اور علمی تشفی کا سامان فراہم کر سکتی ہیں:

(۱) فتاویٰ شامی (رد المحتار علی الدر المختار): یہ اس وقت فقہ حنفی کا سب سے مقبول اور مستند مجموعہ ہے، جس میں تمام کتب متقدیں و متأخرین کا عطر اور نچوڑ آگیا ہے۔ تجربہ اور مشاہدہ سے یہ بات ثابت ہوئی ہے کہ اس کے مصنف علامہ محمد ابن عابدین شامی (المتوفی ۱۲۵۲ھ) نقل میں اثابت ہیں یعنی انہوں نے کتب فقہ سے جو عبارات و جزئیات اور حوالے نقل فرمائے ہیں وہ اصل کے موافق نکلے ہیں۔ اسی لئے اس کتاب کا وزن علماء احناف کی نظر میں سب سے زیادہ بڑھا ہوا ہے، اور اس ایک کتاب نے بہت سی کتب فقہ سے مستغفی کر دیا ہے۔ مفتیان کرام کو چاہئے کہ اگر وہ کوئی جزئیہ یا مسئلہ کسی اور کتاب میں دیکھیں تو اسے شامی سے ضرور ملا لیں، تاکہ آخری اور راجح قول کا علم ہو سکے۔ فتاویٰ شامی کے بہت سے مطبوعہ نسخے دستیاب ہے۔ بعض پانچ جلدیوں میں، بعض آٹھ جلدیوں میں اور بعض بارہ جلدیوں میں ہیں۔ اور اب ایک تحقیقی نسخہ مشق میں تیار ہو رہا ہے جو غالباً ۲۰-۲۲ رجولے تک پہنچے گا۔ اس لئے فتاویٰ شامی کا حوالہ دیتے وقت صفحہ کے ساتھ مطبع یا باب فصل بھی لکھنا چاہئے۔ فتاویٰ شامی پر ایک قیمتی حاشیہ علامہ عبد القادر الرافعی (المتوفی ۱۳۲۳ھ) کا تحریر فرمودہ ہے جو ”تقریرات الرافعی“ کے نام سے مشہور ہے، یہ الگ سے دو جلدیوں میں شائع شدہ ہے۔ شامی کا جو نسخہ ایم سعید کمپنی کراچی سے شائع ہوا ہے اس میں ہر جلد کے ساتھ رافعی کا متعلقہ حصہ لگادیا گیا ہے۔ اسی طرح ذکر کریا بک ڈپوڈ یونیورسٹی نے جب شامی کا نیا نسخہ شائع کرنے کا ارادہ کیا تو حضرت مولانا مفتی شیر احمد صاحب مفتی مدرسہ شاہی کے مشورہ پر اور موصوف ہی کی محنت سے ہر جلد کے ساتھ تقریرات رافعی کا لاحقہ حصہ لگادیا گیا ہے جس کی وجہ سے نسخہ کی اہمیت مزید بڑھ گئی۔

(۲) بدائع الصنائع: ملک العلماء علامہ علاء الدین ابو بکر بن سعود الکاسانی الحنفی (المتوفی ۷۵۸ھ) کی یہ کتاب فقہ حنفی کی کتابوں میں حسن ترتیب، حسن تعبیر اور جامعیت کے اعتبار سے اپنی امتیازی شان رکھتی ہے، جزئیات کے ساتھ ساتھ اختلاف ائمہ اور ہر فریق کے دلائل کی تفصیل اور پھر راجح مذہب کی ترجیح بہت آسان اور مرتب انداز میں کی گئی ہے۔ یہ کتاب علامہ محمد بن احمد علاء الدین السمرقندی (المتوفی ۵۵۳۹ھ) کے تحریر فرمودہ متن (تحفۃ الفقہاء) کی شرح ہے،

لیکن عبارت میں اتنی یکسانیت ہے کہ شرح اور متن کا فرق ہی کہیں نظر نہیں آتا۔ مشہور ہے کہ جب علامہ کاسانی نے یہ کتاب اپنے استاذ علامہ سمرقندی موصوف<sup>ؒ</sup> کی خدمت میں پیش کی تو وہ اس قدر رخوش ہوئے کہ اپنی عالمہ فاضلہ صاحبزادی فاطمہ بنت محمد کا نکاح علامہ کاسانی کے ساتھ کر دیا۔ یہ کتاب پہلے تین جلدوں میں چھپی تھی، اب نئی طباعت ”محمد عدنان بن یاسین درویش“ کی تحقیق و تخریج کے ساتھ بیروت سے ۶ جلدوں میں شائع ہوئی ہے جس کا عکس دیوبند کے کتب خانوں سے چھپ رہا ہے۔

(۳) البحر الرائق (شرح کنز الدقائق) : علامہ زین الدین بن نجیم الحنفی (المتوفی ۹۷۰ھ) کی یہ کتاب فقہ حنفی کے مشہور اور جامع متن ”کنز الدقائق للعلامة الحنفی“ (المتوفی ۱۰۷۰ھ) کی تفصیلی شرح ہے، اقوال فقهاء اور جزئیات کے احاطہ کے اعتبار سے یہ کتاب اپنی نظیر آپ ہے۔

(۴) فتاوی عالمگیری : یہ کتاب مغل بادشاہ اور نگ زیب عالمگیر کے حکم پر حضرت ملا نظام الدین نے فقہ حنفی کے متعدد علماء کے تعاون سے مرتب فرمائی ہے۔ جس میں معترکتب فتاوی سے بے شمار جزئیات بہت سلیقہ سے جمع کی گئی ہیں، جزئیات کی کثرت کے اعتبار سے یہ کتاب ممتاز حیثیت رکھتی ہے۔ کتاب چھ جلدوں پر مشتمل ہے اور عام طور پر کتب خانوں میں دست یاب ہے۔

(۵) فتاوی خانیہ : فتاوی عالمگیری کی اولین تین جلدوں کے حاشیہ پر علامہ نصر الدین اوزجندی (المتوفی ۲۹۵ھ) کی تالیف درج ہے جو ”فتاوی خانیہ“ کے نام سے معروف ہے، اس کتاب میں مذہب حنفی کے راجح اور مفتی بے مسائل کو جمع کیا گیا ہے اور مذہب میں اس کا درجہ بہت بلند ہے۔

(۶) الجامع الوجيز (معروف بہ ”فتاوی بزاڑیہ“) : یہ کتاب فتاوی عالمگیری کے آخری تین جلدوں کے حاشیہ پر شائع ہوئی ہے، جو علامہ حافظ الدین محمد ابن محمد المعروف بابن البراز (المتوفی ۷۸۲ھ) کی تالیف کردہ ہے، جس میں بہت مرتب انداز میں مسائل فقہ جمع کئے گئے ہیں اور کہیں کہیں دلائل سے بھی بحث کی گئی ہے۔

(۷) الفتاوی التاتر خانیہ : ہندوستان کے مسلم بادشاہ فیروز شاہ تغلق کے دور میں

ایک با اثر علم دوست امیر ”تاتار خاں“ کے حکم پر دہلی کے وسیع انظر حنفی عالم، علامہ عالم بن العلاء الانصاری الدہلوی (المتوفی ۸۷۲ھ) نے محیط برہانی، ذخیرہ برہانی، فتاویٰ خانیہ اور فتاویٰ ظہیریہ کے فقہی مسائل کو ایک مجموعہ میں مرتب انداز میں جمع فرمایا اور امیر مذکور کے نام پر اس مجموعہ کا نام ”فتاویٰ تاتار خانیہ“ رکھا۔ یہ کتاب عرصہ دراز تک مخطوطہ کی شکل میں رہی، ۱۳۰۲ھ میں ہندوستان کی وزارت برائے فروغ انسانی و مسائل (وزارت تعلیم) کی طرف سے حضرت مولانا قاضی سجاد حسین صاحب (المتوفی ۱۳۱۱ھ) صدر مدرس مدرسہ عالیہ فتح پوری کو اس کتاب کی تحقیق و تعلیق کی ذمہ داری دی گئی، اور حکومت کے خرچ پر دائرة المعارف العثمانیہ حیدر آباد سے اس کی اشاعت شروع ہوئی، مگر ۶ دھنیم جلدیوں میں کتاب البيوع تک اشاعت کے بعد یہ سلسلہ رک گیا۔ اس کی ۵ جلدیں قاضی صاحب کی حیات میں ہی چھپ گئی تھیں، جو اہل علم تک پہنچ گئیں، مگر چھٹی جلد بعد میں شائع ہوئی اور وہ عام نہیں ہوسکی۔ معلوم ہوا ہے کہ حضرت قاضی صاحب کے ورثاء کے پاس آگے کی جلدیوں کا مسودہ بھی تیار ہے اگر اس کی اشاعت کی کوئی صورت نکل آئے تو یہ بڑا عظیم کام ہوگا۔ جزیات کی جامعیت کے اعتبار سے یہ کتاب بے مثال ہے، اور مسائل کی ترتیب بھی بہت خوب ہے۔

(۸) **الفتاویٰ الولوالجیہ** : یہ کتاب علامہ ابوالفتاویٰ ظہیر الدین عبد الرشید ابن ابی حنیفہ الولوالجی (المتوفی ۵۴۰ھ) کی تصنیف فرمودہ ہے، جس کا شمار فقهی کی بنیادی کتابوں میں ہوتا ہے اور اکثر کتابوں میں اس کا حوالہ ملتا ہے، اس کتاب کے معتمد ہونے کی وجہ یہ ہے کہ مصنف نے مذهب کی معتبر ترین کتابوں سے استفادہ کا اور مسائل کی تخلیص کا خاص اهتمام کیا ہے اور کتب ظاہر الروایہ سے لے کر کتب فتاویٰ و واقعات سے بھر پور استفادہ کیا ہے، یہ کتاب مخطوطہ کی شکل میں تھی، ۱۳۲۲ھ میں اسے پہلی مرتبہ دارالكتب العلمیہ بیروت سے خوب صورت کپیسوٹر کتابت کے ساتھ شائع کیا گیا ہے۔

(۹) **جمع الأنهر** : ملتقی الابجر کی شرح ہے جسے علامہ عبد الرحمن بن الشیخ محمد بن سلیمان المدعو بشیخ زادہ (المتوفی ۸۷۸ھ) نے تحریر فرمایا ہے، یہ کتاب بھی اہل افتاء کے لئے بہت مفید اور جامع ہے، اسے اپنے مطالعہ میں ضرور رکھنا چاہئے، یہ کتاب دار احیاء التراث العربي بیروت سے دھنیم جلدیوں میں شائع ہوئی ہے۔

(۱۰) مبسوط سرخسی : یہ کتاب علامہ حاکم شہید (المتوفی ۳۳۷ھ) کی تالیف ”الكافی“ کی مبسوط شرح ہے، جسے شمس الائمه شمس الدین ابو بکر محمد السرخسی (المتوفی ۴۹۰ھ) نے تحریر فرمایا ہے، یہ ضمیم کتاب پہلے اکیس جلدوں میں شائع ہوئی تھی اور اب پندرہ جلدوں میں دار الفکر بیروت نے بہت خوبصورت رنگین عنوانات کے ساتھ اس کو شائع کیا ہے۔ اہل افتاء کے لئے اس کتاب کا مطالعہ علم میں گہرائی اور نظر میں وسعت کے لئے بہت مفید ہے۔

(۱۱) فتح القدیر (شرح الہدایۃ) : علامہ برہان الدین المرغینانی (المتوفی ۵۹۳ھ) کی کتاب ”الہدایۃ شرح بدایۃ المبتدی“، فقہ حنفی کی بنیادی کتابوں میں شمار ہوتی ہے۔ علماء احناف نے اس کتاب کی بہت سی شروحات لکھی ہیں، ان میں سب سے امتیازی شرح علامہ کمال الدین ابن الہمام (المتوفی ۲۸۱ھ) کی ”فتح القدیر“ ہے، جس میں فاضل مصنف نے اپنے تبحر علمی کا کھل کر مظاہرہ فرمایا ہے۔ اس کتاب کے مطالعے سے فقہی اسرار و رموز سے پرداہ اٹھتا ہے، اور فکر و نظر میں گیرائی اور گہرائی پیدا ہوتی ہے، فقہ و فتاویٰ سے وابستہ افراد کے لئے یہ کتاب بہترین رہنمای کی حیثیت رکھتی ہے۔ یہ کتاب دار الفکر بیروت سے ۱۰ جلدوں میں شائع ہوئی ہے۔ اس کے حاشیہ پر علامہ اکمل الدین محمد بن محمود الباری (المتوفی ۸۷۶ھ) کی شرح ”العنایۃ علی الہدایۃ“ اور علامہ سعدی آفندي (المتوفی ۹۲۵ھ) کا حاشیہ بھی شائع شدہ ہے۔ واضح ہو کہ فتح القدیر کامل ہدایۃ کی شرح نہیں ہے بلکہ صرف کتاب الوکالت تک ہے جو ۷ رجeldoں میں آتی ہے، اس کے بعد کی ۳ جلدیں علامہ قاضی زادہ (المتوفی ۹۸۸ھ) نے تکملہ کے طور پر لکھی ہیں، جس کا نام ”نتائج الافقاری کشف الرموز والاسرار“ ہے۔

(۱۲) الأشباه والنظائر : علامہ ابن نجیم مصری (المتوفی ۷۶۰ھ) کی یہ شہرہ آفاق اصولی کتاب فقہ حنفی کی بے شمار جزئیات کو شامل ہے، اس کا صرف فن اول ہمارے یہاں مدارس کے شعبہ افتاء میں داخل نصاب ہے جو اس پوری کتاب کا صرف تہائی حصہ ہے پوری کتاب سات فنون پر مشتمل ہے اور ہر حصہ فقہی معلومات کا بے نظیر مجموعہ ہے۔

(۱۳) **المحيط البرهانی**: علامہ برہان الدین محمود بن صدر الشریعت البخاری (المتوفی ۶۱۶ھ) کی یہ کتاب فقہ حنفی کے بنیادی مصادر میں شمار ہوتی ہے، جس میں کتب اصول، نوادر اور فتاویٰ و واقعات کے مسائل بہت عمدگی کے ساتھ جمع کئے گئے ہیں۔ فقہی جزئیات کا یہ عظیم موسومہ ابھی تک غیر مطبوعہ شکل میں تھا، اب محقق الحصر حضرت مولانا مفتی محمد تقی عثمانی صاحب مدظلہ کی نگرانی میں موصوف کے بھانجے مولانا نعیم اشرف نور احمد کی ان تحک کاوش سے ”ادارۃ القرآن و العلوم الاسلامیہ کراچی پاکستان“ سے ۲۵ حصیم جلدوں میں شائع ہو گیا ہے، اور شاہقین کی آنکھوں میں نور اور دلوں میں سرور پیدا کر رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ کتاب کے شائع کرنے والوں کو جزاۓ خیر سے نوازیں، آمین۔ علماء احناف کے لئے یہ دورِ حاضر کا بے نظیر تھا ہے، اس منصوبہ کو بروئے کارلانے میں مجلس علمی ڈا بھیل و ساؤ تھا افریقہ کا گراں قدر تعاون حاصل رہا ہے، شروع میں مولانا نعیم اشرف نور احمد کا مقدمہ بہت جامع اور معلوماتی ہے، جو بجائے خود ایک مستقل کتاب کہے جانے کے لائق ہے۔

(۱۴) **شرح منظومة ابن وهبان (تفصیل عقد الفرائد بتکمیل قید الشوارد)**: علامہ عبد الوہاب بن احمد المعروف بے ”ابن وهبان“ الدمشقی (المتوفی ۷۲۸ھ) نے فقہ حنفی کے نادر اور غریب مسائل کو تقریباً ایک ہزار اشعار میں جمع فرمایا تھا؛ تاکہ انہیں یاد کرنے میں سہولت ہو۔ یہ مسائل موصوف نے ۳۶۰ فقہی کتابوں سے اخذ کئے اور اس نظم کا نام ”قید الشارائد و نظم الفرائد“ رکھا تھا، جس نے بعد میں ”منظومة وهبانية“ یا ”منظومة ابن وهبان“ کے نام سے شہرت پائی، اور اسے فقہ حنفی کی معتمد علیہ منظومات میں شمار کیا گیا۔ علامہ حسکفی نے ”در مختار“ میں اور علامہ شامی نے ”رد المحتار“ میں بطور استشهاد اس منظومہ کے حوالے دئے ہیں جس سے اس کی اہمیت کا اندازہ لگایا جاسکتا ہے۔ بعد میں اس منظومہ کی شروحات بھی لکھی گئیں، ان میں سب سے مشہور اور جامع شرح علامہ عبد البر ابن احمد المعروف بے ”ابن الشحنة الحلمی“ (المتوفی ۹۲۱ھ) نے دو جلدوں میں تحریر فرمائی جس کا نام ”تفصیل عقد الفرائد بتکمیل قید الشوارد“ رکھا، جو طبقہ علماء میں ”شرح منظومة ابن وهبان“ سے معروف ہے، اب تک یہ شرح غیر مطبوعہ تھی۔ مقام مسرت ہے کہ حضرت الاستاذ مولانا سید ارشد

صاحب مدینی دامت بر کا تمکن کی تحقیق و تعلیق کے ساتھ یہ قیمتی سرمایہ اب کمپیوٹر کتابت اور دورنگی طباعت کے ساتھ ایک جلد میں منظر عام پر آگیا ہے، طلبہ افقاء کو بالخصوص اس کتاب سے استفادہ کرنا چاہئے۔

(۱۵) **غنية المتمملی شرح منیۃ المصلی** : یہ کتاب علامہ ابراهیم حلیٰ (المتوفى ۹۵۶ھ) کی تالیف کردہ ہے جس میں صرف نماز کے مسائل اور جزئیات کو جمع کیا گیا ہے، اس کو ”کبیریٰ“ اور ”حلیٰ کبیر“ بھی کہتے ہیں، نماز سے متعلق مسائل کے سلسلہ میں اس کتاب کو مرتبی حاصل ہے۔ ”سہیل اکیدیٰ“ لاہور پاکستان نے اسے بہت عمدہ انداز میں شائع کیا ہے، کیا اچھا ہوتا کہ ہندوستان میں بھی اس کی اشاعت ہو جاتی تو عام لوگوں کے لئے اس کا حاصل کرنا آسان ہو جاتا۔

(۱۶) **حاشیۃ الطھطاوی علی مراقب الفلاح** : علامہ شربل الی (المتوفى ۱۰۶۹ھ) کی مشہور کتاب ”مراقب الفلاح شرح نور الایضاح“، پر علامہ طھطاویٰ (المتوفى ۱۲۳۱ھ) کے اس تفصیلی حاشیہ کا شمار فقهی کی مستند کتابوں میں ہوتا ہے، اس میں زیادہ تر جزئیات نماز کے مسائل و احکام سے متعلق ہیں، اس کتاب کے پرانے نسخے مصری ٹائپ کا عکس لے کر شائع کئے جا رہے تھے، اب یہ نسخہ بیروت سے نئے کمپیوٹر ٹائپ پر شائع ہوا ہے جس میں متن اوپر ہے اور حاشیہ نیچے ہے، اسی نسخہ کا عکس اب دیوبند کے کتب خانوں سے شائع ہو رہا ہے۔

(۱۷) **حاشیۃ الطھطاوی علی الدر المختار** (چار جلد) : فقہ کی جامع ترین کتاب ” الدر المختار“ پر علامہ طھطاویٰ (المتوفى ۱۲۳۱ھ) کا یہ بنے نظیر حاشیہ ہے۔ جو اپنے اختصار کے باوجود بہت سے علمی و فقہی نکات کو شامل ہے اس میں درمختار کی مغلق اور جمل عبارتوں کے حل کی نہایت کامیاب کوشش کی گئی ہے، یہ کتاب پاکستان سے شائع ہوتی تھی مگر اب عام طور پر دست یاب نہیں ہے اس کی اشاعت کی سخت ضرورت محسوس ہوتی ہے۔

## اردو فتاویٰ

مذکورہ بالاعربی کتابوں کے علاوہ طالبین افقاء کو چاہئے کہ وہ موجودہ قریبی زمانہ کے اکابر علماء و مفتیان کی آراء سے بھی واقف ہوں، اس کے لئے انہیں مطبوعہ فتاویٰ کی کتابوں کا مطالعہ کرنا

ہوگا، اس لئے ذیل میں چند اہم مجموعہ ہائے فتاویٰ کی طرف رہنمائی کی جا رہی ہے، تمام شائع شدہ فتاویٰ کا تعارف اور احاطہ مقصود نہیں ہے؛ بلکہ صرف اہم کتب فتاویٰ کو ذکر کیا جا رہا ہے:

(۱) **فتاویٰ رشیدیہ** : فقیہ انفس حضرت مولانا رشید احمد صاحب گنگوہی (المتوفی ۱۳۲۳ھ) کے فتاویٰ اولًاً تین حصوں میں شائع ہوئے تھے پھر ان کو یکجا کر کے ایک جلد میں شائع کیا گیا، اب دیوبند کے کتب خانوں سے اس کی اشاعت ہو رہی ہے۔ نیز ادارہ اسلامیات لاہور نے ”تالیفات رشیدیہ“ کے نام سے ایک جلد میں فتاویٰ کے ساتھ حضرتؐ کے مختلف علمی و فقہی رسائل کو شامل کر کے شائع کیا ہے، اور معلوم ہوا ہے کہ معروف محقق جناب مولانا نور الحسن راشد کانڈھلوی مدظلہ العالی حضرت گنگوہیؐ کے متفرق فتاویٰ جمع کرنے کا کام کر رہے ہیں اگر یہ کام مکمل ہو گیا تو حضرتؐ کے فتاویٰ کا بڑا نادر ذخیرہ عام لوگوں کو دست یاب ہو جائے گا۔

(۲) **عزیز الفتاویٰ / امداد المفتیین** : دارالعلوم دیوبند کے مفتی اعظم حضرت مولانا مفتی عزیز الرحمن صاحب عثمانی رحمۃ اللہ علیہ (المتوفی ۱۳۷۷ھ) کے تقریباً پندرہ سو منتخب فتاویٰ اس مجموعہ میں شامل ہیں، پہلے اسے حضرت مولانا مفتی محمد شفیع صاحب دیوبندی (المتوفی ۱۳۹۵ھ) نے اپنے مجموعہ فتاویٰ ”امداد المفتیین“ کے ساتھ ملا کر شائع کیا تھا۔ لیکن اب پاکستان سے دونوں مجموعوں کو الگ الگ شائع کیا گیا ہے، ان دونوں مجموعوں کو ”فتاویٰ دارالعلوم قدیم“ بھی کہا جاتا ہے۔

(۳) **فتاویٰ دارالعلوم (جدید)** : حضرت مولانا مفتی عزیز الرحمن صاحبؐ (المتوفی ۱۳۷۷ھ) کے فتاویٰ کی تدوین کا کام بعد میں حکیم الاسلام حضرت مولانا قاری محمد طیب صاحبؐ سابق مہتمم دارالعلوم دیوبند (المتوفی ۱۴۰۳ھ) کے حکم سے حضرت الاستاذ مولانا مفتی ظفیر الدین صاحب مفتاحی دامت برکاتہم نے شروع فرمایا تھا جس کی ۱۲ حصیم جلدیں شائع ہو چکی ہیں، ہنوز یہ کام تثہیہ تکمیل ہے۔ خدا کرے یہ سلسلہ آگے بڑھے اور اہل علم کے لئے اس سے استفادہ کا موقع نصیب ہو، آمین۔

(۴) **امداد الفتاویٰ** : یہ حکیم الامت حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ (المتوفی ۱۳۶۲ھ) کے فتاویٰ کا انتہائی قیمتی مجموعہ ہے جس سے موجودہ دور میں کوئی بھی مفتی مستغنب نہیں ہو سکتا۔ حضرتؐ کے یہ فتاویٰ اکثر ماہنامہ ”النور“ میں چھپتے تھے اور اسی دوران ان کی تنتیخ

تحقیق بھی ہوتی رہتی تھی۔ اور ترجیح الرانج کے کالم میں غیر راجح فتاویٰ سے رجوع کا سلسلہ بھی جاری رہتا تھا، بعد میں ان سب فتاویٰ کو حضرت مولانا مفتی محمد شفیع صاحب مفتی اعظم پاکستان نے فقہی ابواب کی ترتیب پر مرتب فرمایا جس کی اس وقت چھٹھیم جلدیں شائع شدہ ہیں۔ اس پر حضرت الاستاذ مولانا مفتی سعید احمد صاحب پالن پوری دامت برکاتہم نے حاشیہ لگانے کا کام شروع کیا تھا مگر افسوس ہے کہ وہ پہلی جلد کے بعد جاری نہ رہ سکا، اگر یہ حاشیہ مکمل ہو جاتا تو اس میں مزید چار چاند لگ جاتے۔ بہر حال مسائل کی تحقیق اور دلائل کی جستجو اور راجح قول کی تلاش کے لئے اس مجموعہ فتاویٰ کا مطالعہ بے حد مفید ہے۔

(۵) **کفایت المفتی** : ذہانت، معاملہ نہیٰ اور اہل زمانہ و مصالح کی رعایت کے معاملہ میں مفتی اعظم حضرت مولانا مفتی کفایت اللہ صاحب دہلوی رحمۃ اللہ علیہ (المتوفی ۱۳۷۲ھ) اپنے ہم عصروں میں امتیازی مقام پر فائز تھے، آپ کی انہی امتیازی خوبیوں کا رینگ واضح طور پر آپ کے فتاویٰ میں جھلکتا نظر آتا ہے جنہیں آپ کی وفات کے بعد آپ کے صاحبزادے مولانا حفیظ الرحمن واصف نے ۹ رخصیم جلدوں میں بڑی خوبی کے ساتھ مرتب کیا ہے، حضرت مفتی صاحب نے جدید مسائل و معاملات میں امت کے لئے تسهیل کا پہلو نکالنے کی سمجھ فرمائی ہے۔ آپ کے فتاویٰ کی زبان نہایت چست، بھل اور حشو وزوائد سے بالکل پاک ہے، طلبہ افقاء کو بالخصوص اس کا مطالعہ کرنا چاہئے اور اپنے فتویٰ میں یہی زبان استعمال کرنے کی مشق کرنی چاہئے۔ کفایت المفتی میں ہر ہر فتویٰ پر الگ عنوان درج نہیں ہے؛ اس لئے جزوی مسائل تلاش کرنے میں قدرے دشواری ہوتی تھی۔ مولانا مفتی عبدالقيوم راجحوی استاذ جامعہ تعلیم الدین ڈا جہیل نے کفایت المفتی کی ایک تفصیلی فہرست شائع کی ہے، جس میں ہر ہر فتویٰ پر عنوانات لگا کر مسئلہ نمبر کے اعتبار سے ان کی نشاندہی کر دی ہے، اور اس کے ذریعہ مسائل کی تلاش میں بہت سہولت ہو گئی ہے۔ فجز اہم اللہ احسن الجزاء۔

(۶) **امداد الاحکام** : اس مجموعہ فتاویٰ میں حضرت مولانا ظفر احمد عثمانی (المتوفی ۱۳۹۳ھ) اور حضرت مولانا مفتی عبد الکریم مکھلوی (المتوفی ۱۳۶۸ھ) کے فتاویٰ شامل ہیں۔ اور ان میں اکثر فتاویٰ حکیم الامت حضرت تھانوی کے تصدیق فرمودہ ہیں، اس لئے اسے اگر "امداد

الفتاویٰ، کاتمہ کہا جائے تو بے جانہ ہوگا، کیوں کہ انداز تحریر میں بہت زیادہ یکسانیت پائی جاتی ہے، یہ فتاویٰ چار جلدوں پر مشتمل ہیں اور دیوبند کے کتب خانوں سے شائع ہو رہے ہیں۔

(۷) فتاویٰ خلیلیہ (فتاویٰ مظاہر علوم): محمد شیخ بیگ، فقیہ وقت حضرت اقدس مولانا خلیل احمد سہارن پوری (المتوفی ۱۳۳۶ھ) کے فتاویٰ بجا طور پر علمی تحقیق اور فقہی بصیرت کے شاہ کار کی حیثیت رکھتے ہیں، ان کا منتخب مجموعہ کئی سال قبل مظاہر علوم سہارن پور نے شائع کیا تھا، جسے مولانا مفتی سید محمد خالد صاحب سہارن پوری نے مرتب کیا ہے۔

(۸) فتاویٰ شیخ الاسلام: شیخ الاسلام حضرت مولانا سید حسین احمد مدینی نور اللہ مرقدہ (المتوفی ۱۴۲۷ھ) نے اپنے مکتوبات میں جن فقہی سوالوں کے جوابات دئے ہیں انہیں اس مجموعہ میں فقہی ابواب کے مطابق ایک جلد میں جمع کر دیا گیا ہے، اور حاشیہ میں فقہی عبارات بھی درج کر دی گئی ہیں، جانشین شیخ الاسلام حضرت مولانا سید اسعد صاحب مدینی دامت برکاتہم کے حکم کی تعمیل میں اس خدمت کی سعادت راقم الحروف کو حاصل ہوئی فالحمد للہ علی ذلک، یہ مجموعہ مکتبہ دینیہ دیوبند سے شائع ہوا ہے۔

(۹) فتاویٰ محمودیہ: فقیہ الامت حضرت الاستاذ مولانا مفتی محمود حسن گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ (المتوفی ۱۴۲۷ھ) نے پوری زندگی فقہ و فتاویٰ کے مشغله میں گذاری، سہارن پور، کان پور اور دارالعلوم دیوبند کے زمانہ قیام میں آپ کے قلم سے ہزاروں فتاویٰ تحریر کئے گئے، اور بے شمار خلق خدا نے آپ کی ذات عالی سے دینی رہنمائی حاصل کی۔ عمر کے آخری مرحلہ تک آپ نے کبھی سوچا بھی نہ تھا کہ آپ کے فتاویٰ جمع ہو کر شائع ہوں گے اور ہتھی دنیا تک کے لئے صدقہ جاریہ بن جائیں گے مگر بلاشبہ یہ آپ کے اخلاص کی برکت تھی کہ آپ کے خصوصی شاگرد اور فیض یافتہ حضرت مولانا مفتی محمد فاروق صاحب میرٹھی مدظلہ نے اس جو کھم بھرے کام کا یہاں اٹھایا چنانچہ موصوف نے نہ صرف حضرتؒ کے فتاویٰ جمع کئے بلکہ لفظاً لفظاً انہیں حضرت والا کو سنایا اور حضرتؒ ہی سے معلوم کر کے ہر فتویٰ پر عنوانات لگائے، بفضلہ تعالیٰ یہ مجموعہ ۲۰ جلدوں میں شائع ہو کر مقبول بن چکا ہے۔ تاہم اس میں نئی ترتیب اور حوالوں کی تحریک کی ضرورت تھی چنانچہ اب یہ کام بھی حضرت مولانا مفتی محمد فاروق

صاحب کی مگر انی میں بعض نوجوان اور مختلط فضلاء کے تعاون سے مکمل ہو چکا ہے اور اب ۲۲ جلدیں میں اس کی اشاعت کا منصوبہ ہے، خدا کرے کہ جلد اس کی اشاعت ہو جائے، آمین۔

مطبوعہ فتاویٰ محمودیہ میں چوں کہ ایک ہی باب کئی کئی جلدیں میں آگیا ہے اور مسائل متفرقہ ہو کر مختلف جلدیں میں پھیلے ہوئے ہیں؛ اس لئے مطلوبہ فتاویٰ کی تلاش میں دقت پیش آتی ہے۔ اللہ تعالیٰ مولانا مفتی عبدالقیوم راجحکوٹی استاذ جامعہ ڈاکٹر بھیل کو جزاۓ خیر دے کہ موصوف نے فتاویٰ محمودیہ کی ایک یکجاںی تفصیلی فہرست ایک ضخیم جلد میں شائع کر دی ہے، جس سے استفادہ بہت آسان ہو گیا ہے۔

(۱۰) **منتخبات نظام الفتاویٰ:** حضرت اقدس مولانا مفتی نظام الدین صاحب نور اللہ مرقدہ (المتوفی ۱۴۲۰ھ) دارالعلوم دیوبند کے دارالاوقاف کے صدر تھے، اور مسائل پر گہری نظر رکھتے تھے، اصول و کلیات سے مسائل کی تحریج کا آپ کو ملکہ حاصل تھا۔ جس کا اندازہ آپ کے فتاویٰ کے مطالعہ سے لگایا جاسکتا ہے، آس موصوف نے خود اپنی حیات میں اپنے منتخب فتاویٰ دو جلدیں میں شائع فرمائے تھے، بعد میں انہیں حضرت مولانا قاضی مجاهد الاسلام صاحب قاسمی (المتوفی ۱۴۲۳ھ) نے اسلامک فقہ اکیڈمی کے زیر اہتمام مزید تصحیح کے ساتھ شائع کیا اور اس کی تیسرا جلد بھی جلد ہی شائع ہونے والی ہے۔

(۱۱) **فتاویٰ رحیمیہ:** یہ مفتی گجرات حضرت مولانا مفتی عبدالرجیم صاحب لاچپوری (المتوفی ۱۴۲۲ھ) کے مبسوط فتاویٰ کا مجموعہ ہے، جو اصلاً اردو میں تھا بعد میں اس کے گجراتی اور انگریزی میں بھی ترجمہ ہو چکے ہیں، یہ مجموعہ ۱۲ جلدیں پر مشتمل ہے، اور عوام و خواص میں اسے مقبولیت حاصل ہے۔

(۱۲) **احسن الفتاویٰ:** یہ حضرت مولانا مفتی رشید احمد صاحب لدھیانوی رحمۃ اللہ علیہ (المتوفی ۱۴۲۲ھ) کے علمی و تحقیقی فتاویٰ کا نہایت معتبر اور مستند مجموعہ ہے جو ۸ جلدیں میں شائع ہوا، چوں کہ اس کی ترتیب و تہذیب خود صاحب فتاویٰ نے کی ہے اس لئے اس میں تکرار بالکل نہ ہونے کے برابر ہے اور تحقیق و تحریج پر پہلے ہی سے توجہ دی گئی ہے، مفتی صاحب موصوف کا مزاج مدل گفتگو کرنے کا ہے اس لئے یہ مجموعہ علماء و مفتیان کی نظر میں بہت قبل اعتماد اور با وزن سمجھا جاتا ہے۔

(۱۳) **آپ کے مسائل اور ان کا حل:** شہید اسلام حضرت مولانا محمد یوسف

صاحب لدھیانوی رحمۃ اللہ علیہ (المتومنی ۱۴۲۱ھ) عرصہ دراز تک پاکستان کے معروف ”روز نامہ جنگ“ میں دینی مسائل کے جوابات دیتے رہے اور اس سلسلہ کو نہایت قبولیت حاصل ہوئی، بعد میں مولانا مفتی محمد جبیل خاں صاحب شہید (المتومنی ۱۴۲۵ھ) کی توجہ سے یہ مسائل فقہی ابواب کے اعتبار سے مرتب ہو کر شائع ہوئے جس کی دس جلدیں چھپ چکی ہیں اور ہندو پاک میں اس کی اشاعت جاری ہے۔ تاہم چوں کہ یہ فتاویٰ عموماً اخباری ضرورت ہی کو منظر رکھ کر لکھے گئے ہیں اس لئے ان میں حوالہ جات کا کما حقہ اہتمام نہیں رکھا جاسکا، اسی طرح ترتیب میں مکرر مسائل بہت آگئے ہیں۔ ضرورت ہے کہ نئی ترتیب، تلحیص اور تحقیق کے ساتھ اس کو شائع کیا جائے تاکہ اہل علم و افتاء کی نظر میں اس کا وزن مزید بڑھ جائے، پھر بھی جزوی مسائل اور موجودہ دور میں ذہن و دماغ میں اٹھنے والے سوالات اور ان کے معتدل اور مناسب جوابات کا یہ عظیم الشان ذخیرہ ہے، جس کے مطالعہ سے شائعین افقاء اپنی معلومات میں وسعت پیدا کر سکتے ہیں اور اگر وہ بطور تمرین اس مجموعہ کے فتاویٰ کی تخریج اپنی کاپی میں کرنے کا معمول بنالیں تو ان کے علم میں جلا پیدا ہو جائے گی۔

(۱۴) **كتاب الفتاوى** : حال ہی میں ”كتاب الفتاوى“ کے نام سے معروف صاحب نظر عالم اور مفتی حضرت مولانا خالد سیف اللہ رحمانی بانی و ناظم المعهد العالی الاسلامی للدراسات الاسلامیہ حیدر آباد کے فتاویٰ پچھیم جلدیوں میں شائع ہوئے ہیں، یہاں فقہی مسائل کے جوابات کا مجموعہ ہے جو موصوف کے قلم سے ”روزنامہ منصف“ حیدر آباد — جو ملک کا سب سے کثیر الاشاعت اردو روزنامہ ہے — کے جمعہ ایڈیشن میں کئی سال تک شائع ہوتے رہے۔ انہیں مفتی عبداللہ سلیمان مظاہری نے بڑے سلیقہ سے مرتب کر دیا ہے، بلاشبہ یہ ”كتاب الفتاوى“ دور حاضر کا قبل قدر علمی و فقہی کارنامہ ہے۔ اللہ تعالیٰ محض اپنے فضل سے اس مجموعہ کو قبولیت سے نوازیں، آمین۔

## متفرق فقہی رسائل

فتاویٰ کی نکورہ ببسی طے کتابوں کے علاوہ ہر زمانہ میں اہل نظر علماء و مفتیان کرام حسب ضرورت فقہی رسائل بھی تحریر فرماتے رہتے ہیں جن میں کسی خاص مسئلہ یا اس کے کسی خاص گوشے

پر بحث کی جاتی ہے ایسے رسائل کی تعداد بے شمار ہے۔ مثلاً: □ بوادر النوا در ۲ رجلد (جس میں حضرت تھانویؒ کے نادر رسائل کو بہت عمدہ ترتیب کے ساتھ شائع کر دیا گیا ہے) □ الحکیمة الناجزہ (اس رسالہ میں پریشان حال شادی شدہ عورتوں کے مادے کے لئے فقہ ماکلی سے چند رسائل لے کر ان پر عمل کرنے کا مشورہ دیا گیا ہے) □ جواہر الفقہ (یہ حضرت مولانا مفتی محمد شفیع صاحبؒ کے بیش قیمت فقہی مقالات کا مجموعہ ہے، جسے عوام و خواص میں قبولیت حاصل ہے) □ فقہی مقالات ۲ رجلدیں (یہ حضرت مولانا مفتی محمد تقیٰ صاحب عثمانی کے علمی و تحقیقی مقالات کا مجموعہ ہے) □ جدید فقہی رسائل ۲/۶ حصے (یہ حضرت مولانا خالد سیف اللہ رحمانی کے فقہی مقالات و مضامین کا بیش قیمت مجموعہ ہے) □ الیضاح النوا در (حضرت مولانا مفتی شیر احمد صاحب مفتی مدرسہ شاہی کی کتاب جدید رسائل تجارت پر یہ کتاب ایک جامع دستاویز کی حیثیت رکھتی ہے جس میں حوالہ کے ساتھ جدید تجارتی معاملات کی صورتیں اور ان کے احکامات درج کردئے گئے ہیں) □ الیضاح المسائل (حضرت مولانا مفتی شیر احمد صاحب کا یہ رسالہ متفرق ضروری پیش آمدہ رسائل پر مشتمل ہے اور کافی مقبول ہے اس کے ذریعہ سے اصل مصادر تک پہنچنا آسان ہے) □ الاوزان الحمودہ (اس قیمتی کتاب کے مؤلف مولانا مفتی ابوالکلام شفیق القاسمی المظاہری استاذ مدرسہ مظاہر علوم سیلم تمل ناؤ وہیں جس میں موصوف نے پوری دیدہ ریزی سے قدیم شرعی اوزان مسافت اور مساحت وغیرہ کو موجودہ دور میں راجح اوزان اور پیمانہائے مساحت و مسافت سے تطبیق دینے کی کامیاب کوشش کی ہے۔ احرar کی نظر میں اس موضوع پر اردو زبان میں یہ سب سے جامع کتاب ہے۔ ہر طالب علم کو اسے حاصل کرنے کی کوشش کرنی چاہئے) علاوہ ازیں مولانا قاری رفعت صاحب قاسمی استاذ دارالعلوم دیوبند نے اردو فتاویٰ سے جمع و تخلیص کر کے الگ الگ عنوانات پر رسائل و کتب شائع کرنے کا سلسلہ شروع کر رکھا ہے اس سے بھی استفادہ کیا جا سکتا ہے۔

۳

## معاون کتابیں

فتاویٰ نویسی میں اصول تو یہی ہے کہ فقہی کتابوں کے مباحث اور جزئیات کو بنیاد بنا�ا جائے، لیکن چوں کہ استفتاء میں ہر طرح کے سوالات پوچھے جاتے ہیں اور ان کی تحقیق کے لئے متعلقہ کتابوں سے مراجعت کی ضرورت پڑتی ہے، اس لئے چند کتابوں کے نام ذیل میں درج کئے جاتے ہیں۔

**تفسیر عربی:** (۱) تفسیر ابن کثیر : *تفسیر القرآن بالقرآن اور تفسیر القرآن بالاحادیث والآثار* اس کتاب کی خصوصیت ہے۔ علامہ ابن کثیر (المتونی ۷۲۷ھ) نے ہر آیت سے متعلق احادیث اور ان کے طرق کو جمع کرنے کی کامیاب کوشش فرمائی ہے۔

(۲) *الجامع لأحكام القرآن (للقرطبي)*: امام قرطبی (المتونی ۶۶۸ھ) کی یہ تفسیر مضامین کے تنوع اور حسن ترتیب کے اعتبار سے بے مثال ہے لیکن عام تفسیروں کی طرح اس میں بہت سی اسرائیلی باتیں اور ضعیف اقوال و روایات بھی جمع کردی گئی ہیں جن سے محظا طارہنے کی ضرورت ہے۔

(۳) *تفسير کبیر (للرازی)*: اس کتاب میں علامہ رازی (المتونی ۶۰۳ھ) نے اپنے وسیع الشان علم کا استعمال فرمایا ہے، اور مضامین کے پھیلاوے کے اعتبار سے یہ کتاب مثالی نمونہ قرار دی جاتی ہے۔

(۴) *تفسیر مظہری*: حضرت قاضی شاء اللہ پانی پی (المتونی ۱۲۲۵ھ) کی یہ تفسیر اپنی

ترتیب اور جامعیت کے اعتبار سے بہت سی تفسیری کتابوں پر فائق ہے، بالخصوص فقہ حنفی سے متعلق مباحث نہایت قابل قدر ہیں۔

(۵) روح المعانی : علامہ محمود الالوی بغدادی (المتوفی ۱۲۷۰ھ) کی اس معرکۃ الآراء تفسیر کو علماء راحمین کی نظر میں مردھیت کا مقام حاصل ہے۔ یہ تفسیر، حدیث، لغت، نحو و صرف، بلاغت اور تصوف وغیرہ سے متعلق انتہائی گراں قدر مباحث کو شامل ہے۔

(۶) أحكام القرآن (الأبی بکر الجصاص الرازی المتوفی ۱۳۷۰ھ) : اس کتاب میں صرف آیات احکام سے بحث کی گئی ہے، اور ثابت کیا گیا ہے کہ فقہائے احناف نے مسائل میں جو موقف اپنایا ہے وہ آیاتِ قرآنی کے عین موافق ہے، یہ کتاب اپنے موضوع پر بہت معرکۃ الآراء کتاب سمجھی جاتی ہے۔

(۷) أحكام القرآن (دلائل القرآن علی مسائل النعمان) : حکیم الامت حضرت مولانا اشرف علی تھانوی (المتوفی ۱۳۶۲ھ) نے اپنے فیض یافتگان علماء اعیان کی مدد سے یہ عظیم الشان کتاب تیار کرائی ہے جس میں پورے قرآن کریم سے ان آیات کو یکجا کیا گیا ہے جن سے فقہ حنفی میں دلیل پکڑی جاتی ہے۔ اور ہر مسئلہ کی سیاق و سبق کے ساتھ مکمل وضاحت درج ہے، حنفی مفتیان و علماء کو اس کتاب کا مطالعہ ضرور کرنا چاہئے۔

**تفسیر اردو :** (۱) ترجمہ شیخ الہند مع فوائد عثمانی : شیخ الہند حضرت مولانا محمود حسن دیوبندی (المتوفی ۱۳۳۹ھ) نے حضرت شاہ عبدالقدار دہلوی (المتوفی ۱۳۳۰ھ) کے اردو ترجمہ کی تسهیل فرمائی ہے یہ دور حاضر کا مقبول ترین اردو ترجمہ قرآن پاک ہے اس کے ڈھائی پاروں کے مختصر اور جامع فوائد خود حضرت شیخ الہند کے تحریر فرمودہ ہیں، جب کہ آخر تک فوائد کی تکمیل کا فریضہ آپ کے جلیل القدر شاگرد حضرت علامہ مولانا شبیر احمد عثمانی (المتوفی ۱۳۶۹ھ) نے انجام دیا ہے۔

(۲) بیان القرآن : یہ حکیم الامت حضرت مولانا اشرف علی تھانوی (المتوفی ۱۳۶۲ھ)

کی زندگی کا شاہ کار کار نامہ ہے، جسے اگر تمام معتبر تفاسیر کا عطر اور خلاصہ قرار دیا جائے تو مبالغہ نہ ہوگا، یہ حشو وزوائد سے بالکل پاک ہے، اور جامعیت اور اعتماد کے معیار پر یہ تفسیر پوری طرح کھری اترتی ہے۔ اس انداز میں اس کی نظری عربی زبان کی تفسیروں میں بھی ملنی مشکل ہے۔

(۳) **معارف القرآن** : یہ کتاب دراصل حضرت تھانویؒ کی تفسیر بیان القرآن کی تفصیلی شرح ہے، جس میں نہایت خوبی کے ساتھ ہر موضوع کے ضروری مسائل مفید مضامین اور دعوتی مباحث جمع ہو گئے ہیں۔ اس کے جامع و مرتب حضرت مولانا مفتی محمد شفیع صاحب دیوبندی رحمۃ اللہ علیہ (المتومنی ۱۳۹۵ھ) کے خلوص کا یہ اثر ہے کہ آج یہ تفسیر اردو کی سب سے زیادہ پڑھی جانے والی تفسیر بن گئی ہے، اور برصغیر میں دسیوں اشاعی ادارے اسے چھاپ رہے ہیں اور مختلف زبانوں میں اس کا ترجمہ بھی ہو چکا ہے۔

یہ تو چند کتابیں بطور نمونہ لکھی گئی ہیں ورنہ تفسیر پر عربی، فارسی اور اردو میں عظیم ذخیرہ موجود ہے، جسے دینی لا بھری یوں اور کتب خانوں کی فہرستوں سے معلوم کیا جا سکتا ہے۔



۳

## ذخیرہ احادیث شریفہ

ایک مفتی کو چاہئے کہ اس کی نظر احادیث شریفہ پر کامل طور پر ہے، بالخصوص کسی حدیث کی تحقیق و تخریج یا اپنے متدل کو تلاش کرنے کے لئے اس کے پاس حدیث کے مصادر موجود رہنے چاہئیں، اس سے نہ صرف اشتغال بالحدیث کی سعادت ملے گی بلکہ علم میں جلا پیدا ہوگی۔ عام طور پر یہ دیکھنے میں آتا ہے کہ دورہ حدیث شریف سے فراغت کے بعد حدیث کے درس میں اگر اشتغال کا موقع نہ ملے تو کتب احادیث کا مطالعہ بالکل موقوف کر دیا جاتا ہے، اور حدیث سے کوئی مناسبت باقی نہیں رہتی حالاں کہ یہ بات قطعاً مناسب نہیں ہے، ہمیں بہر حال احادیث شریفہ سے اپنا تعلق باقی رکھنا چاہئے خواہ ہمیں درسِ حدیث کا موقع ملے یا نہ ملے، اس لئے خاص طور پر فرقہ و فتاویٰ میں مشغول حضرات سے گزارش ہے کہ وہ اپنے ذاتی یا ادارہ کے کتب خانہ میں حدیث کی کتابیں جمع کرنے کی طرف توجہ مبذول فرمائیں، جو کتابیں درس نظامی میں داخل ہیں جیسے صحاح ستہ (بخاری شریف، مسلم شریف، ابو داؤد شریف، ترمذی شریف، نسائی شریف، ابن ماجہ شریف) موطین، طحاوی شریف) وہ تو ہونی ہی چاہئیں ساتھ میں چند اہم کتابیں ذیل میں لکھی جاتی ہیں ان کو حاصل کرنے سے انشاء اللہ عالم میں وسعت اور برکت نصیب ہوگی۔ ملاحظہ فرمائیں:

(۱) مسنند الإمام احمد بن حنبل : حضرت الإمام احمد بن حنبل<sup>(م ۲۳۱ھ)</sup> کا مرتب فرمودہ یہ ذخیرہ احادیث شریفہ، سنت نبویہ کا عظیم خزانہ ہے، اس کتاب کو حضرت امام احمد بن حنبل<sup>(ن)</sup> نے ساڑھے سات لاکھ مرویات سے منتخب کر کے جمع فرمایا ہے، جو تقریباً سات سو صحابہ سے

مردی ہیں۔ اور مند کی کل روایات کی تعداد ستائیں ہزار پانچ سو انیں ہے۔ یہ کتاب عرصہ دراز تک مصر کے مطبع امیریہ سے چھپتی رہی اور تمام کتابوں میں اسی مطبع کا حوالہ دیا جاتا رہا۔ مگر اس کی ترتیب مسانید صحابہ پر تھی اور صحابہ کی ترتیب ان کے مراتب کے اعتبار سے رکھی گئی تھی جس کا علم عام طور سے اہل علم کو بھی نہیں ہوتا، اس لئے اس سے کما حقہ استفادہ دشوار تھا، اس لئے مصر کے ایک جید اور قابل فخر عالم شیخ احمد محمد شاکر نے اس کتاب کے دائرہ افادہ کو عام کرنے کا بیڑا اٹھایا، اور اپنی خدادادقابلیت، تحریکی اور زبردست محنت سے مند کو اس طرح مزین کرنا شروع کیا کہ اس میں چار چاند لگ گئے۔ موصوف نے مند کی ہر حدیث کی نہ صرف تخریج کی بلکہ اس پر اصلاحی حکم بھی واضح طور پر لگایا۔ مثلاً ”اسنادہ صحیح، اسنادہ حسن، اسنادہ ضعیف“، اور ساتھ میں علل کو بھی واضح کیا۔ اور نئے انداز میں اطراف اور موضوعات کی فہریں بنانے کا بھی منصوبہ بنایا، مگر ابھی یہ کام تشنیہ تکمیل تھا اور ابھی ۸۷/۸۷ء راحدیث پر ہی کام ہوا تھا کہ موصوف نے داعیِ اجل کو لبیک کہا، رحمہ اللہ تعالیٰ رحمۃ واسعة۔ مگر موصوف اس عظیم کام کی جو طرح ڈال گئے تھے اس پر بعد کے لوگوں کا چلناؤ کوئی بہت مشکل نہ تھا، چنانچہ آپ کے بعد شیخ حمزہ الزرین نے آپ کے مقرر کردہ نجح پر اس منصوبہ کی تکمیل کی سعادت حاصل کی، اور آخر میں شیخ احمد محمد شاکر کی خواہش کے مطابق موصوف نے ایک ایک جلد میں بالترتیب اطراف اور فہریں ابواب پر احادیث کی فہرست شامل کی ہے جو بڑے لفغ کا کام ہے۔ مند کا یہ تحقیقی نسخہ ۲۰/۲۱ صفحیں جلدیوں میں دارالحدیث القاہرہ سے شائع ہوا ہے۔ اس کے بعد اسی انداز کا کام مزید اضافہ کے ساتھ بعض دیگر حضرات نے بھی کیا اور ابھی تک یہ سلسلہ جاری ہے مگر شیخ احمد شاکر کو اس میں یقیناً اولیت کا مقام حاصل ہے، اور انکی محنت بہت ٹھوس اور قابل قدر ہے۔ تمام معاصر محدثین نے اسے نہایت قدر کی نگاہ سے دیکھا ہے، اور اس کی تحسین کی ہے۔ فجز اہم اللہ أحسن الجزاء۔

(۲) **شعب الإيمان للإمام البيهقي** : امام ابو بکر البيهقي (المتوفى ۴۵۸ھ) کی یہ معرکہ الآراء کتاب بڑی مقدار میں احادیث شریفہ، آثار صحابہؓ اور اقوال مسلم کو شامل ہے، بالخصوص اصلاحی موضوعات پر اس کتاب میں مرتب مواد موجود ہے اور بہت سی نادر روایات

اور حکمت کی باتیں بھی اس میں ملتی ہیں، یہ کتاب عرصہ دراز تک مخطوطہ کی شکل میں رہی، پھر بمبئی سے اس کی اشاعت ہوئی مگر وہ ناقص تھی اب بیروت سے ۹ جلدؤں میں شائع ہوئی ہے جس میں ایک جلد فہارس پر مشتمل ہے اس میں آمدہ کل روایات کی تعداد (۱۱۲۶۹) گیارہ ہزار دو سو انہتر ہے۔

(۳) الترغیب والترہیب للمنذری : علامہ عبدالعزیزم المندزیری (المتوفی ۱۵۶ھ) کی یہ کتاب بہت مقبول و معروف ہے۔ بالخصوص دعوت و اصلاح اور نصیحت و تذکیر کا بے مثال ذخیرہ ہے۔ پہلے یہ کتاب ہندوستان میں ایک ضخیم جلد میں چھپی تھی اب عالم عرب میں مختلف کتب خانوں سے عمدہ تحقیق و تعلیق کے ساتھ ۲۲ جلدؤں میں اس کی اشاعت ہو رہی ہے۔ ان تعلیقات کے ذریعہ الترغیب کی روایات کے اصل مصادر تک پہنچنا بہت آسان ہو گیا ہے، فجز اہم اللہ أحسن الجزاء۔

(۴) المصنف للإمام عبد الرزاق : محدث کبیر امام عبد الرزاق الصنعائی (المتوفی ۲۱۱ھ) کا جمع فرمودہ احادیث شریفہ کا یہ عظیم مجموعہ اپنی جامعیت اور وسعت کے اعتبار سے ممتاز حیثیت کا حامل ہے جو سب سے پہلی مرتبہ ۱۳۹۰ھ مطابق ۱۹۷۰ء میں مجلس علمی (ڈا بھیل کراچی، جنوبی افریقہ) کے تعاون اور محدث العصر حضرت امیر الہند مولانا حبیب الرحمن عظمی رحمۃ اللہ علیہ (المتوفی ۱۳۱۲ھ) کی تحقیق و تعلیق کے ساتھ منصہ شہود پر آیا۔ یہ کتاب تو اپنی جگہ اہم ہے ہی لیکن حضرت محدث العصر کی تعلیقات نے اس کی افادیت پر چار چاند لگادئے ہیں آپ کے تحقیقی فٹ نوٹ (حوالی) بلاشبہ فن حدیث کے شہ پاروں کی حیثیت رکھتے ہیں جن کے مطالعہ سے حضرت موصوفؐ کی وقت نظر، وسعت معلومات، اصابت رائے اور عبرتیت کا اندازہ لگایا جاسکتا ہے۔ بعد میں یہ کتاب بیروت کے بعض کتب خانوں سے بعض دیگر حضرات کی تعلیقات کے ساتھ شائع ہوئی مگر جو بات حضرت موصوفؐ کی تعلیق میں ہے وہ دوسری جگہ نہیں پائی جاتی۔ اس کتاب میں جمع شدہ احادیث و آثار کی تعداد ۲۰۳۳ ہے، اور اسے ۱۱ ضخیم جلدؤں میں خوبصورت ٹائپ پر شائع کیا گیا ہے۔

(۵) السنن الكبرى : یہ کتاب علامہ ابو بکر احمد بن حسین بن علی الیہیقی (المتوفی ۳۵۸ھ) کی گراس قدر تالیف ہے، جو پہلے دس جلدؤں میں دار المعرفۃ بیروت سے شائع ہوئی تھی

اور اس کے ساتھ علامہ ابن الترمذی (المتومن ۷۲۵ھ) کی مائی ناز کتاب ”الجوہر انقیٰ“ بھی شامل تھی مگر اب جو نسخہ دار الکتب العلمیہ نے شائع کیا ہے اس میں الجوہر انقیٰ نہیں ہے۔ اس میں روایات کی کل تعداد ۲۱۸۱۲ (اکیس ہزار آٹھ سو بارہ) ہے۔

(۶) **مجمع الزوائد و منبع الفوائد**: یہ علامہ ابو بکر اپیشی (المتومن ۷۸۰ھ) کی بے نظیر کتاب ہے، موصوف نے اولاً مسند احمد، مسند بزار، مسند ابی یعلیٰ اور طبرانی کی احادیث زوائد پر مستقل رسائل تالیف فرمائے تھے بعد میں اپنے استاذ گرامی علامہ زین الدین ابو الفضل العراقيٰ کے مشورہ سے اپنی سب تالیفات کوئی ترتیب و تہذیب کے ساتھ اس کتاب میں جمع فرمادیا اور ہر باب سے متعلق روایات ایک جگہ کر دیں، اور ساتھ میں ہر روایت کی سندی حیثیت اور روایوں کے مقام کو بھی واضح کر دیا، واقعۃ یہ کتاب اپنی نظر آپ ہے۔ اور احادیث شریفہ کا شاندار مجموعہ ہے، ہزاروں احادیث اس میں یکجا ہو گئی ہیں۔

(۷) **محصن ابن ابی شیبہ**: یہ علامہ ابو بکر عبداللہ بن محمد ابن ابی شیبہ (م ۲۳۵ھ) کی معرکۃ الاراء تالیف ہے، جو اولاً حیدر آباد کے دار الحیاء المعرف العجمانیہ سے شائع ہوئی تھی پھر اس کا عکس پاکستان سے شائع ہوتا رہا، اس کے بعد اب یہ کتاب ۱۹۹۵ء میں بیروت سے نئے ٹائپ اور عبد السلام شاہین کی تصحیح کے ساتھ ۷ رجدهوں میں شائع ہوئی ہے۔ فہرست کی دو جلدیں اس کے علاوہ ہیں، اس کتاب میں احادیث و آثار کی تعداد ۳۷۹۳۰ (سینتیس ہزار نو سو تیس) ہے۔

(۸) **كنز العمال فی سنن الأقوال والأفعال**: جن اساطین امت نے صحت وضعف کا خیال کئے بغیر متون حدیث کو جمع کرنے کی کوشش کی ہے، ان میں ایک نمایاں نام علامہ جلال الدین سیوطی (المتومن ۹۶۱ھ) کا ہے، انہوں نے دو عظیم کتابیں مدون کیں جن میں تقریباً سبھی امہات کتب حدیث و تاریخ کی احادیث کو مع جوال جمع کر دیا گیا ہے، ایک ”جمع الجواع“، جو جامع کبیر کی جاتی ہے اور دوسری ”الجامع الصغیر“، ثانی الذکر صرف قولی احادیث کا ذخیرہ ہے جس میں مختصر متون کو چھانٹ کر حروف تہجی کے اعتبار سے اطراف پر جمع کیا گیا ہے، اور اول الذکر احادیث قولی

فعلی دونوں کا مجموعہ ہے، قولی احادیث کو تو اطراف پر مرتب کیا گیا ہے لیکن فعلی احادیث کو صحابہ کی ترتیب پر جمع کیا گیا۔ صاحب کنز العمال علی بن حسام الدین المتقی (المتوفی ۵۹۷ھ) نے دونوں کتابوں کو جمع کرتے ہوئے ان کی حدیثوں کو مضامین علمیہ پر مرتب کر دیا، جس کی وجہ سے ان گروہ قدر عظیم مجموعوں کی افادیت بڑھ گئی اور آسانی سے حدیثیں تلاش کی جاسکتی ہیں، کنز العمال در حقیقت سیوطی کی جامع کبیر اور جامع صغیر کی ترتیب جدید ہے، تاہم یہ ایک ایسی انوکھی کتاب تیار ہو گئی کہ دیکھنے والے انگشت بدنداں رہ گئے، موصوف نے حروف ابجدي کے اعتبار سے موضوعات منتخب کر کے بالترتیب قولی فعلی احادیث و آثار کا انبار جمع کر دیا۔ اور سیوطی کے مقرر کردہ رموز سے ہر متن حدیث کا حوالہ بھی ساتھ میں درج کر دیا۔ پہلے اس کتاب کی اشاعت حیدر آباد سے ۱۲ جلدوں میں ہوئی تھی۔ اب بیروت کے دارالکتب العلمیہ سے ۸ جلدوں میں اشاعت ہوئی ہے، اس میں ذکر کردہ روایات کی تعداد ۳۶۶۱۶ (چھیالیس ہزار چھ سو سولہ) ہے۔

(۹) **المعجم الكبير للطبراني** : امام ابو القاسم سليمان بن احمد الطبراني (المتوفی ۳۶۰ھ) کی یہ کتاب حمدی عبد الجید الشافعی کی تعلیق کے ساتھ شائع ہوئی ہے، کتاب ۲۵ جلدوں پر مشتمل ہے، مگر بیچ کی ۱۳-۱۵-۱۶-۲۱ اور ۲۱ نمبر کی جلدوں کا مخطوطہ دستیاب نہ ہونے کی وجہ سے کتاب کی نامکمل اشاعت ہوئی ہے، اس میں شائع شدہ روایات و آثار کی تعداد ۲۱۳۹ تک پہنچتی ہے۔ ۱۲ جلدوں تک ترقیم مسلسل ہے اس کے بعد کی جلدوں میں ہر جلد کی ترقیم الگ الگ کی گئی ہے۔ یہ کتاب ہر طرح کی روایات کو جامع ہے۔ اسی لئے اس سے روایت نقل کرتے وقت سندی حیثیت سے اس کی تحقیق ضرور کرنی لینی چاہئے۔

(۱۰) **المعجم الأوسط للطبراني** : یہ کتاب دس جلدوں میں مکتبۃ المعارف الیاض سے ڈاکٹر محمود طحان کی تعلیق کے ساتھ شائع ہوئی ہے اس میں کل ۹۸۵ روایات نقل کی گئی ہیں۔ واضح رہے کہ یہ صرف ان احادیث کا مجموعہ ہے جن میں مصنف کو کسی بھی قسم کی غرابت کا علم ہوا، لہذا غریب مطلق اور غریب نسبی کی مشالیں دیکھنے کے لئے بھی یہ کتاب اہمیت رکھتی ہے۔

(۱۱) **المعجم الصغير للطبراني** : یہ کتاب صرف ایک جلد میں ہے اور اس میں کل روایات کی تعداد ۱۱۲۱ ہے۔

(۱۲) **الإحسان بترتيب صحيح ابن حبان** : یہ امام ابو حاتم محمد بن حبان (المتوفی ۳۵۲ھ) کی تالیف ہے جسے امیر علاء الدین ابو الحسن علی بن ملبان الفارسی المصری الحنفی (المتوفی ۳۹۷ھ) نے از سر نو مرتب کیا ہے۔ اس میں کل روایات ۵۰۳ ہیں۔ اور بہت سی ایسی روایات بھی ہیں جو اس کتاب کے علاوہ دوسری جگہ ملنی و شوار ہیں۔

(۱۳) **السنن الكبرى للنسائي** : امام ابو عبد الرحمن احمد بن شعیب النسائی (المتوفی ۳۰۳ھ) کی یہ کتاب ۷۰۰ پر مشتمل ہے، اور ۷۰ جملوں میں دارالكتب العلمیہ بیروت سے شائع ہوئی ہے، ایک جلد میں فہارس ہیں۔

(۱۴) **مسند ابی یعلی الموصلي** : الامام ابو یعلی احمد بن علی بن امشنی الموصلی (المتوفی ۳۰۷ھ) کی یہ کتاب شیخ مصطفیٰ عبد القادر عطاء کی تحقیق کے ساتھ ۷۰ جملوں میں شائع ہوئی، ایک جلد فہارس پر مشتمل ہے۔ روایات کی کل تعداد ۱۵۷ (سات ہزار پانچ سو سترہ) ہے۔

(۱۵) **المستدرک على الصحيحين** : الامام ابو عبد اللہ الحاکم النیسا پوری (المتوفی ۳۰۵ھ) نے اپنی دانست میں صحیحین (بخاری و مسلم) کی شرط پر جن روایات کو پایا، یا ان کی شرط پر ہونے کا گمان ان کو ہوا، انہیں اس عظیم الشان کتاب میں جمع فرمادیا ہے۔ اس کتاب میں ۸۸۰۳ روایات ہیں، بیروت سے ۱۰ جملوں میں تحقیق کے ساتھ اس کی اشاعت ہوئی ہے، اخیر کی دو جلدیں فہارس پر مشتمل ہیں۔

(۱۶) **مسند الدارمی** : یہ کتاب الامام ابو محمد عبد اللہ الدارمی (المتوفی ۲۵۵ھ) کی مشہور تالیف ہے، جس میں ۳۵۳۶ روایات جمع کی گئی ہیں، پہلے یہ کتاب لیتوپر چھپی تھی، اب بیروت سے نئی تحقیق کے ساتھ چار خیم جملوں میں شائع ہوئی ہے۔

(۱۷) **سنن الدارقطنی** : ۳۶۹۰ روایات و آثار پر مشتمل یہ عظیم مجموعہ حدیث

الامام علی بن عمر الدارقطنی (المتوفی ۳۸۵ھ) کا جمع فرمودہ ہے۔ اس کا ایک نسخہ ۲ جلدوں میں ”مجدی بن منصور بن سید الشوری“ کی بہترین تعلیق کے ساتھ دارالكتب العلمیہ بیروت سے شائع ہوا ہے۔ اس میں ہر حدیث کی سندی حیثیت معین کرنے کی کامیاب محنت کی گئی ہے۔

(۱۸) مشکوٰۃ المصابیح : یہ حدیث شریف کا انتہائی بافیض اور مقبول مجموعہ ہے، محب السنه علامہ ابو محمد حسین ابن مسعود البغوي (المتوفی ۵۱۶ھ) نے صحاح ستہ سے تقریباً پانچ ہزار احادیث منتخب فرمائی تھیں۔ اور فقہی ترتیب پر ابواب قائم کر کے ہر باب میں دو فصلیں مقرر کی تھیں، پہلی فصل میں احادیث صحاح اور دوسری فصل میں احادیث حسان رکھیں۔ بعد میں ابو عبد اللہ ولی الدین محمد ابن عبد اللہ المعروف بالخطیب التبریزی (المتوفی ۷۲۱ھ) نے ہر فصل میں اضافہ کے ساتھ الگ سے تیسرا فصل بھی قائم کی اور اس میں مزید احادیث درج کیں، اور اس پورے مجموعہ کا نام ”مشکوٰۃ المصابیح“ رکھا۔ نئی ترقیم کے اعتبار سے اس وقت مشکوٰۃ شریف کی روایات کی تعداد ۲۲۹۳ ہے۔ یہ کتاب اکثر مدارس میں داخل نصاب ہے، اور احادیث شریفہ کا بے نظیر مجموعہ ہے۔

(۱۹) جمع الفوائد من جامع الاصول و مجمع الزوائد : اس کتاب کے مصنف ”محمد بن سلیمان بن الفاسی المغربی“ (المتوفی ۱۰۹۳ھ) ہیں۔ علامہ ابن الاشیر کی مشہور کتاب ”جامع الاصول“ اور حافظ پیشی کی ”مجموع الزوائد“ سے روایات کا انتخاب کیا گیا ہے۔ یہ کتاب ابواب فقهیہ پر مرتب ہے، اور موضوع پر جامعیت کے اعتبار سے بے نظیر ہے۔

یہ حکیم الامت حضرت مولانا اشرف علی تھانوی نور اللہ مرقدہ کی پسندیدہ کتابوں میں تھی، آپ نے یعنی کمزور ہو جانے کے وقت جب اپنی آرام گاہ سے کتابوں کو مدرسہ منتقل کر دیا تھا تو ”جمع الفوائد“ کو اس وقت بھی اپنے پاس رکھا اور وقتاً فوقاً اس کو سننے کا اہتمام فرماتے رہے۔

یہ کتاب چار جلدوں میں ہندوستان اور بیروت سے شائع ہو چکی ہے، لیکن اغلاط کی بھرمار ہے۔ ضرورت تھی کہ کتاب پر باضابطہ کام کیا جائے اور دیگر نسخوں اور مخطوطات کو سامنے رکھ کر اغلاط سے پاک صاف کیا جائے۔ الحمد للہ اس کام کا آغاز حضرت مولانا زین العابدین صاحب صدر شعبۃ

شخص فی الحدیث جامعہ مظاہر علوم سہارن پور اور حضرت مولانا عبد اللہ صاحب معروفی استاذ دارالعلوم دیوبند کی زیرگرانی ہو چکا ہے، اور بہت جلد کتاب کی جلد اول مفید تعلیقات کے ساتھ منصہ شہود پر آنے والی ہے۔

## شروحاتِ حدیث

علمی و فقہی مباحثت کا بہت بڑا ذخیرہ احادیث کی شروحات میں موجود ہے۔ اس لئے طالب افتاء کو چاہئے کہ وہ ان مباحثت کو بھی اپنے مطالعہ میں رکھے۔ فتویٰ دیتے وقت شروحات کی عبارات کو بنیاد تو نہیں بنایا جائے گا (کیوں کہ ممکن ہے کہ شارح کی تحقیق مذہب کی مفتی برائے کے خلاف ہو) لیکن شروحات میں بیان کردہ مباحثت سے استفادہ میں دریغ نہ کیا جائے؛ کیوں کہ ان کے مطالعہ سے علم میں گیرائی، وقت نظر اور وسعت فکری جیسی صفات پیدا ہوتی ہیں۔ ذیل میں بعض ایسی شروحات کا ذکر کیا جاتا ہے جن سے اس دور میں فی الجملہ کوئی بھی صاحب نظر عالم مستغنی نہیں ہے اور جن کی قبولیت عند اللہ ظاہر و باہر ہے۔

(۱) فتح الباری شرح صحيح البخاری : یہ حافظ الحدیث علامہ ابن حجر العسقلانی (المتوفی ۸۵۲ھ) کی معرکۃ الآراء تالیف ہے۔ جس میں درج شدہ علمی جواہر پاروں کو دیکھ کر شاکرین کی آنکھیں خیرہ ہو جاتی ہیں، اور فاضل مؤلف کی علمی عظمت دل میں جا گزیں ہو جاتی ہے۔ موجودہ دور میں کوئی بھی شارح حدیث اس کتاب کو نظر انداز نہیں کر سکتا، حدیث کے معانی کی تعین اور باظاہر متعارض احادیث میں تطیق میں شارح علام کو یہ طویٰ حاصل ہے۔ بخاری شریف کی شروحات میں اس کتاب کو پورے عالم میں بے مثال مقبولیت میں جو مؤلف کے اخلاص کامل کی علامت ہے۔

(۲) عمدة القاری شرح صحيح البخاری : علامہ بدر الدین العینی (المتوفی ۸۵۵ھ) کی یہ شرح، حسن ترتیب، مضامین کی جامعیت، استدلال کی قوت اور گراں قدر افادات کے اعتبار سے دیگر بہت سی شروحوں پر فائق ہے۔ یہ شرح حافظ ابن حجر کی تالیف (فتح الباری) کی تتمیل کے پانچ سال بعد منصہ شہود پر آئی اس لئے اس میں علامہ عینی کی طرف سے حافظ ابن حجر

کے ذکر کردہ بعض مباحث اور استدلالات پر نقد بھی جا بجا نظر آتا ہے، اور فقه شافعی کے مقابلہ میں فقہ حنفی کی بہترین وکالت کے نمونے بھی دیکھنے کو ملتے ہیں، جن کو پڑھ کر علامہ عینیؒ کی بے مثال ذہانت و فطانت اور حاضر جوابی کا اندازہ لگایا جاسکتا ہے۔ اب یہ کتاب دارالفکر بیروت سے ۱۶ جلدیں میں ملوں چھپی ہے، اسی کا عکس دیوبند سے شائع ہو رہا ہے۔

(۳) **إرشاد الساري شرح صحيح البخاري** : یہ کتاب علامہ احمد بن محمد ابن ابی بکر العسقلانیؒ (المتوفی ۹۲۳ھ) کی تالیف فرمودہ ہے جو دارالفکر بیروت سے ۱۵ جلدیں میں شائع ہوئی ہے۔ شارح علام نے اس کتاب کی جمع و ترتیب میں فتح الباری اور عمدة القاری کو پیش نظر رکھا ہے، اور مباحث کی تلخیص کی کامیاب کوشش کی ہے۔

(۴) **لامع الدراری على جامع البخاری** : حضرت امام ربانی مولانا رشید احمد گنگوہیؒ (المتوفی ۱۳۲۳ھ) کے درسی امالي حضرت مولانا محمد یحییٰ صاحب کاندھلویؒ (المتوفی ۱۳۳۳ھ) نے نوٹ فرمائے تھے۔ اسی کو مزید ترتیب و تہذیب اور اضافات کے ساتھ بڑی تقطیع کی تین جلدیں میں حضرت شیخ الحدیث مولانا محمد زکریا صاحب کاندھلویؒ (المتوفی ۱۳۰۲ھ) نے عربی میں شائع فرمایا یہ کتاب اختصار کے باوجود نہایت جامع اور گرگھشا ہے۔ اور اکابر دیوبند کے تجزی علمی کی جیتنی جاگتی دلیل ہے۔

(۵) **فيض الباري** : بخاری شریف سے متعلق محدث عصر حضرت علامہ انور شاہ کشمیریؒ (المتوفی ۱۳۵۲ھ) کے درسی افادات کو آپ کے جلیل القدر شاگرد حضرت مولانا سید بدر عالم میرٹھیؒ (المتوفی ۱۳۸۵ھ) نے اس کتاب میں جمع فرمادیا ہے۔ یہ کتاب چار جلدیں میں شائع شدہ ہے اور نہایت قیمتی علمی افادات کو شامل ہے۔ کوئی بھی شارح حدیث اس سے مستغنى نہیں ہے۔

(۶) **إكمال المعلم بفوائد مسلم** (شرح مسلم للقاضی عیاض) : شراح حدیث میں ایک قابل اعتماد نام علامہ ابو الفضل عیاض بن موسی بن عیاض الحصی الملاکیؒ (المتوفی ۵۳۶ھ) کا ہے۔ انہوں نے علامہ مازریؒ (المتوفی ۵۳۶ھ) کے درسی نوٹ (المعلم) کو سامنے رکھ

کر مسلم شریف کی اولین شرح مرتب کرنے کی سعادت حاصل کی، یہ شرح بعد کی تمام شروحات مسلم کے لئے اصل ماذکی حیثیت رکھتی ہے۔ شرح النووی اور شرح ابی والسوی میں اس کے جامجاہوائے ملتهے ہیں، نیز دیگر کتابوں کی شروحات میں بھی قاضی عیاض<sup>ر</sup> کی آراء بڑے اہتمام سے نقل کی جاتی ہیں۔ یہ کتاب عرصہ سے نایاب تھی پہلی مرتبہ ۱۳۱۸ھ میں دارالوفاء قاہرہ مصر سے اس کی الدکتور یحییٰ اسماعیل کی بہترین تحقیق کے ساتھے رجندروں میں شاندار انداز میں اشاعت ہوئی ہے۔

(۷) **المنهاج فی شرح صحیح مسلم بن الحجاج (شرح النووی علی مسلم)**: علامہ مجی الدین یحییٰ بن شرف النووی (المتوفی ۲۷۶ھ) کا اسم گرامی بھی شارحین حدیث میں زریں حروف سے لکھے جانے کے قابل ہے، موصوف کی ”شرح مسلم شریف“، ”کو عوام و خواص میں بے نظیر قبولیت حاصل ہے۔ ہندوستانی نسخوں میں اس شرح کی اشاعت اصل مسلم شریف کے ساتھ ہوئی ہے، اس لئے اس کا دائرۃ افادہ بہت عام ہو گیا ہے۔ عالم عرب میں اس کے بہت سے نسخے بہترین کمپیوٹر نسخہ پر شائع ہوئے ہیں، بعض نسخوں میں تحقیق بھی شامل ہے، جن سے بہتر طور پر فائدہ اٹھایا جاسکتا ہے۔ بیت الافکار الدولیہ امریکہ سے ایک ضخیم جلد میں اس کا نیا نسخہ شائع ہوا ہے جس میں متن اور شرح کوئے انداز میں مرتب کر دیا ہے اور جو روایت بخاری شریف میں بھی ہے اس کا حوالہ ساتھ میں دے دیا ہے اور آخر میں اطراف کی جامع فہرست لگادی ہے، جس سے کتاب سے استفادہ اور عام ہو گیا ہے۔

(۸) **شرح الألبی والسنوسی لصحیح الإمام مسلم**: علامہ محمد بن خلیفہ الوستانی الابی (المتوفی ۲۷۷ھ) نے ”امال اکمال المعلم“ کے نام سے مسلم شریف کی شرح لکھی، جس میں شرح قاضی عیاض اور شرح نووی وغیرہ سے مضامین ملخص کر کے جمع کئے اور ہر ایک مضمون کا حوالہ اپنے مقررہ اشارہ سے دیا، پھر علامہ محمد بن محمد السنوسی (المتوفی ۸۹۵ھ) نے اس شرح کی تکمیل کرتے ہوئے ”مکمل اکمال الامال“ کے نام سے نئی شرح لکھی جس میں سابقہ شرح پر کچھ اضافات فرمائے، اب یہ دونوں شرحیں ایک ساتھ شائع ہو رہی ہیں، دارالکتب العلمیہ بیروت نے

اسے ۹ رجليوں میں بہت خوبصورت انداز میں شائع کیا ہے۔

(۹) المفہم لما اشکل من تلخیص کتاب مسلم : قرطبه کے زبردست عالم الحافظ ابوالعباس احمد بن عمر بن ابراہیم القرطبی (المتوفی ۶۵۶ھ) نے اولاً اپنے انداز پر مسلم شریف کی تلخیص فرمائی اس کے بعد اس مختصر کی مبسوط شرح کی جس کا نام ”المفہم لما اشکل من تلخیص کتاب مسلم“ رکھا، یہ شرح نہایت قیمتی افادات و مباحث پر مشتمل ہے۔ غریب الفاظ کی تشریح، علماء اور ائمہ کے اختلافی اقوال اور دلائل اس میں بہت عمدہ انداز میں جمع کئے گئے ہیں، اسی بنابر بعد کے شارحین اپنی تالیفات میں اس شرح سے استفادہ کرتے رہے ہیں۔ یہ کتاب ۷ رجليوں میں فہارس کے ساتھ دار ابن کثیر دمشق سے شائع ہو گئی ہے۔

(۱۰) الحل المفہم لصحیح مسلم : یہ امام ربانی محدث جلیل حضرت مولانا ناصر شید احمد گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ کے درسی افادات ہیں جنہیں حضرت مولانا محمد تیجی صاحب کاندھلویؒ (المتوفی ۱۳۳۲ھ) اور حضرت مولانا محمد حسن شاہؒ کی (صاحب غذیۃ الناسک) (المتوفی ۱۳۳۶ھ) نے اختصار کے ساتھ نوٹ فرمایا تھا۔ پھر حضرت شیخ الحدیث مولانا محمد زکریا صاحب کاندھلویؒ (المتوفی ۱۴۰۲ھ) کی ایما پر حضرت مولانا محمد عاقل صاحب مدت فیوضہم صدر المدرسین جامعہ مظاہر علوم سہارن پور نے اس میں مزید تعلیقات شامل فرمائیں اور حضرت شیخ الحدیثؒ کی علالت کے آخری ایام میں مدینہ منورہ زادہ اللہ شرفی میں اس حصہ کو سنانے کی سعادت حاصل کی یہ افادات و تعلیقات اگرچہ بہت مختصر ہیں لیکن شاکرین اس سے بڑے قیمتی اور نادر علمی نکات حاصل کر سکتے ہیں۔

(۱۱) فتح الملهم بشرح صحیح مسلم : شیخ الاسلام پاکستان حضرت علامہ شبیر احمد عثمانی (المتوفی ۱۳۶۹ھ) نے مسلم شریف کی مبسوط اور جامع شرح تالیف فرمائی، جو بلاشبہ سابقہ شروحات سے بہت حد تک مستغفی کر دینے والی ہے، اور اس میں نہایت سلیقہ سے متعلقہ مباحث مستند کتابوں کے حوالہ سے کیجا کردی گئی ہیں۔ بالخصوص فقہ حنفی کے مسائل دلائل کا بخوبی احاطہ کیا گیا ہے، مگر افسوس ہے کہ حضرت موصوفؐ کے قلم سے اس کی تکمیل نہ ہو سکی اور کتاب النکاح کے

بعد سے آپ کو آگے لکھنے کا موقع نہ مل سکا، تاہم جتنا حصہ بھی آپ کے اشہب قلم سے تیار ہوا وہ آپ کی بے نظیر علمی صلاحیت، وسعت مطالعہ اور ذہنی تعلق کی روشن دلیل ہے۔ یہ کتاب بڑی تقطیع کی تین صفحیں جلدیوں میں شائع ہوئی ہے، اور علماء و طلباء میں مقبول ہے۔

(۱۲) **تکملہ فتح الملهم** : عصر حاضر کے محقق اور صاحب نظر عالم و محدث حضرت مولانا مفتی محمد تقی عثمانی مدظلہ العالی شیخ الحدیث دارالعلوم کراچی نے ”فتح الملهم“، کا تکملہ لکھ کر علماء دیوبند کے فرض کفایہ کی گویا ادائیگی فرمائی ہے۔ یہ شرح فاضل علام کی زندگی کا شاہ کار کار نامہ ہے، موجودہ دور کے علمی اسلوب کو منظر رکھ کر یہ کتاب لکھی گئی اور نہ صرف فن حدیث بلکہ جدید فقہی مسائل اور تحقیقات نادرہ کے اعتبار سے بھی اس کو خاص امتیازی مقام حاصل ہے۔ حسن ترتیب، جامعیت، دلائل کی بہترات اور فکری اعتدال کی خوبیاں اس شرح میں جا بجا نظر آتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ مؤلف کو بے انتہاء اجر جزیل سے نوازے، آمین۔

(۱۳) **بذل المجهود فی حل أبی داؤد** : محدث جلیل حضرت مولانا خلیل احمد سہارن پوری رحمۃ اللہ علیہ (المتوفی ۱۴۳۶ھ) نے عرصہ دراز کی شبانہ روز کاوش سے اس بے نظیر شرح کی تکمیل فرمائی۔ آپ کے قابل اعتماد شاگرد رشید اور جانشین شیخ الحدیث حضرت مولانا محمد زکریا صاحب مہاجر مدفنی نوراللہ مرقدہ (المتوفی ۱۴۰۲ھ) نے سعادت سمجھ کر اس مبارک منصوبہ کی تکمیل میں بھر پور حصہ لیا، یہ کتاب ان دونوں اکابر کے لئے عظیم صدقہ جاریہ ہے۔ اولاً اس کی اشاعت بڑی تقطیع کی پانچ جلدیوں میں سہارن پور سے ہوئی۔ اس کے بعد ۲۰ جلدیوں میں لکھنؤ سے چھپی، اور اب اس کی مزید تتفییج و تحقیق کے ساتھ حضرت مولانا نقی الدین صاحب مظاہری ندوی (مقیم العین ابوظہبی) دامت برکاتہم کی توجہ سے بیروت سے اشاعت ہوئی والی ہے۔

(۱۴) **نخب الأفکار شرح معانی الآثار** : علامہ بدرالدین العینی (المتوفی ۱۴۵۵ھ) نے امام طحاوی (المتوفی ۱۴۳۱ھ) کی کتاب ”شرح معانی الآثار“ کی صفحیں شرح ”نخب الافکار“ کے نام سے تالیف فرمائی تھی۔ تاہم ابھی تک اس کی اشاعت کی نوبت نہ آئی تھی، اس کے

مخطوط نئے مصر اور ہندوستان کے بعض کتب خانوں میں موجود تھے۔ اللہ کا فضل ہے کہ دارالعلوم دیوبند کے ناظم تعلیمات حضرت الاستاذ مولانا سید ارشد صاحب مدینی دامت برکاتہم نے اس عظیم علمی سرمایہ کو تحقیق و تعلیق کے ساتھ منظر عام پر لانے کا تھیہ فرمایا، اور حوالہ جات کی تحریج اور مخطوط نسخوں کے مقابلہ پر مسلسل محنت کے ساتھ اس کی اشاعت شروع ہوئی اب تک اس کی ۷ رجدهیں شائع ہو چکی ہیں۔ حضرت مولانا موصوف اس کتاب کی تحقیق و تعلیق میں دو فاضل نوجوان مولانا مفتی عطاء الرحمن سہارپوری اور مولانا مفتی سید احمد مدینی زید علیہما سے کام لے رہے ہیں۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ جلد از جلد اس منصوبہ کو مکمل فرمائے، آمین۔

(۱۵) **معارف السنن شرح جامع الترمذی**: محدث جلیل حضرت مولانا محمد یوسف بنوری رحمۃ اللہ علیہ (المتوفی ۱۳۹۷ھ) نے اپنے استاذ گرامی محدث العصر حضرت علامہ انور شاہ کشمیری نور اللہ مرقدہ (المتوفی ۱۳۵۲ھ) کے جامع ترمذی سے متعلق درسی امامی کو گراں قدر اضافات کے ساتھ اس شرح میں جمع فرمایا۔ ایک عظیم علمی خدمت انجام دی ہے۔ مباحث کی ترتیب اور عربی زبان کی سلامت اور قوت استدلال کے اعتبار سے یہ بے نظیر شرح ہے۔ افسوس ہے کہ اس کی تکمیل نہ ہو سکی، اگر یہ مکمل ہو جاتی تو جامع ترمذی کی سب سے جامع اور مبسوط شرح قرار پاتی، فقه حنفی کے متدلات سے شغف رکھنے والوں کے لئے اس کتاب کا مطالعہ بے حد مفید ہے۔

(۱۶) **شرح الطیبی علی مشکاة المصابیح** (**الکاشف عن حقائق السنن**): یہ علامہ شرف الدین حسین بن محمد الطیبی (المتوفی ۱۴۳۷ھ) کی جلیل القدر تالیف ہے، جس میں مشکاة شریف کی احادیث کی شرح بہت آسان انداز میں کی گئی ہے۔ کراچی اور بیروت سے ۱۲ رجدوں میں اس کی اشاعت ہوئی ہے۔

(۱۷) **مرقاۃ المفاتیح شرح مشکاة المصابیح**: یہ مشکاة شریف کی شہرہ آفاق شرح ہے جسے علامہ علی بن سلطان محمد المعروف بے ”ملا علی القاری“ (المتوفی ۱۴۰۲ھ) نے نہایت عرق ریزی سے مرتب فرمایا ہے۔ یہ شرح تقریباً سبھی سابقہ شروحاتِ حدیث کا خلاصہ اور عطر ہے۔ فاضل

مؤلف نے نہایت جامعیت کے ساتھ اور بہت مرتب انداز میں مباحثت کی تلخیص کی ہے، اور لمبی لمبی بحثوں کو چند جملوں میں سمیٹ دیا ہے، فقہی مسائل میں حفیہ کے موقف کو بھی منصفانہ طور پر پیش کیا ہے لیکن بے جا تعصب کارگ کہیں نہیں آنے دیا، اسی لئے اس شرح کو ہر طبقہ میں قبول عام حاصل ہے۔

(۱۸) **أوجز المسالك في شرح مؤطلا الإمام مالك : ريجلة العصر شيخ الحديث**  
 حضرت اقدس مولانا محمد زکریا صاحب مہاجر مدینی نور اللہ مرقدہ (المتوفی ۱۴۰۲ھ) کی یہ شاہ کار تالیف بڑی بڑی شروعات پر بھاری ہے، یہ اگرچہ مؤطلا مالک کی شرح ہے، لیکن اس میں شرح حدیث سے متعلق تقریباً سمجھی مباحثت کا احاطہ کر لیا گیا ہے۔ اقوال علماء اختلاف ائمہ اور ان کے استدلالات کی تتفیق و تحقیق کا کام حضرت موصوف نے نہایت عمدہ انداز میں کیا ہے۔ پہلے یہ کتاب چھ جلدوں میں لیتھوو پر باریک کتابت کے ساتھ شائع ہوئی تھی اب محترم المقام حضرت مولانا تقی الدین مظاہری ندوی مدظلہ العالی (مقیم العین ابوظہبی) نے اس کو ۱۸ جلدوں میں انتہائی شاندار کمپوٹر کتابت کے ساتھ بیروت سے ملون شائع کرایا ہے۔ اس وقیع علمی کارنامہ پر مولانا موصوف پورے طبقہ علماء کی طرف سے شکریہ اور مبارک باد کے مستحق ہیں۔ شائقین علم کو ”اوجز“ کا یہ نیا سخن ضرور حاصل کر لینا چاہئے۔

## احادیث کی تلاش و جستجو

اگر استفتاء میں کسی حدیث یا اثر کی تحقیق مطلوب ہو تو اس کی تلاش کے لئے درج ذیل کتابوں سے استفادہ مفید ہوگا، اس لئے اگر یہ کتابیں اپنے پاس دستیاب ہو جائیں تو بہتر ہوگا۔

(۱) **المقاصد الحسنة في بيان كثير من الأحاديث المشتهرة على الألسنة** : یہ علامہ شمس الدین محمد بن عبد الرحمن السخاوی (المتوفی ۹۰۲ھ) کی مشہور تالیف ہے جس میں ۱۳۵۳ ازبان زد روایات کی تحقیق کی گئی ہے، اور ان کے صحت و ضعف کو واضح کیا گیا ہے۔ دار الکتب العلمیہ بیروت نے اسے ایک جلد میں بہت خوبصورت انداز میں شائع کیا ہے۔

(۲) **مفتاح کنوز السنۃ** : یہ کتاب اصلاً انگریزی میں لیڈن یونیورسٹی ہالینڈ کے غیر

مسلم مستشرق ”پروفیسر اے جے ونسک“ نے لکھی تھی، پھر اس کا ترجیح شیخ محمد فواد عبدالباقي مصری نے صحیح و تہذیب کے ساتھ کیا اور اس کا نام ”مفتاح کنوز السنۃ“ رکھا، اس میں حدیث کی چودہ کتابوں سے مفردات حدیث منتخب کر کے اصل متن کی طرف رہنمائی کی گئی ہے، اور مفردات کو حروف تھجی کے اعتبار سے رکھا گیا ہے۔ واضح رہے کہ یہ مفردات متنِ حدیث کے الفاظ نہیں ہیں بلکہ یہ متنِ حدیث کے موضوع کی نمائندگی کرتے ہیں۔

### (۳) كشف الخفاء ومزيل الإلباس عما اشتهر من الأحاديث على

**آل سنة الناس :** یہ علامہ سمعیل بن محمد الحجلونی الشافعی (المتوفی ۱۱۶۲ھ) کی نہایت اہم تالیف ہے، جس میں ۳۲۸۰ مشہور روایات کی تحقیق پیش کی گئی ہے، نہایت فتح بخش کتاب ہے۔

(۴) المعجم المفہرس لألفاظ الحديث : یہ سات (بلکہ آٹھ، آٹھویں جلد بعد میں تیار کی گئی ہے) سخنیم جلدؤں میں صحابہ، مسنداً رمی، موطاً ملک اور مسنداً حمین بن حنبل میں آمدہ احادیث کی عظیم الشان فہرست ہے، جسے ۱۹۳۶ء میں ہالینڈ کی کمپنی انج بریل نے تتفییج کے بعد شائع کیا، اس کی تیاری میں بین الاقوامی تحقیقی اکیڈمیوں کے اتحاد (الاتحاد الامی للجماع العلمیہ) نے تعاون کیا، اور تیاری و ترتیب میں حصہ لینے والوں کی اکثریت یورپین غیر مسلم مستشرقین سے تعلق رکھتی تھی۔ البتہ معروف محقق شیخ محمد فواد عبدالباقي نے بھی اشاعت کے دوران اس پر گہری نظر رکھی اور مفید مشورے دئے۔

(۵) موسوعة أطراف الحديث : یہ شیخ محمد سعید زغلول کی شاہ کار تالیف ہے، اس میں ڈیڑھ سو کتابوں کی احادیث کی حروف تھجی کے اعتبار سے تخریج کی گئی ہے۔ مرتب پہلے حدیث کا تکڑا ذکر کرتے ہیں اس کے بعد جہاں جہاں وہ حدیث آتی ہے اس کا حوالہ دیتے ہیں، ہر کتاب کے لئے خاص علامات متعین کر دی گئی ہیں جس کی صراحت کتاب کے مقدمہ میں کر دی گئی ہے۔

(۶) فيض القدير للمناوي : علامہ سیوطی (المتوفی ۹۱۱ھ) کی مشہور کتاب ”الجامع الصغير“ کی یہ مبسوط شرح ہے، جسے علامہ محمد عبد الرؤوف المناوی (المتوفی ۱۰۳۱ھ) نے مرتب فرمایا

ہے، اس کتاب سے نہ صرف احادیث کی تلاش و جستجو میں مدد ملتی ہے بلکہ معانی و مطالب اور متعلق مضامین کو سمجھنا بھی آسان ہو جاتا ہے۔ یہ کتاب ۶۰۰۳۱ ارروایات کی تحقیق و نشریخ کی گئی ہے۔

(۷) **جامع الاحادیث** : علامہ جلال الدین سیوطی<sup>رحمۃ اللہ علیہ</sup> (المتوفی ۹۶۱ھ) نے احادیث کی جمع و تدوین کا عظیم کارنامہ انجام دیا ہے، اس سلسلہ میں آپ کی تین کتابیں بہت مشہور ہیں: (۱) الجامع الصغیر (۲) زوائد الجامع الصغیر (۳) الجامع الکبیر۔ ان میں سے ”الجامع الصغیر“ عرصہ دراز سے شائع ہو رہی ہے لیکن ”الجامع الکبیر“ کی اشاعت کی نوبت نہ آئی تھی بفضل خداوندی شیخ احمد عبد الجواد نے اس کی اشاعت کا بیڑا اٹھایا، اور علامہ سیوطی کی مذکورہ کتابوں کو ترتیب ابجدي اور ترتیب سندی کے اعتبار سے ”جامع الاحادیث“ کے نام سے یکجا کر کے عمدہ انداز میں ۲۱ رجہ دلوں میں شائع کرنے کی سعادت حاصل کی، یہ کتاب ۷۰۰ سے زائد کتب احادیث کا عطر اور نچوڑ ہے۔ اور احادیث و آثار کا جامع ترین مجموعہ ہے اس میں ”مستدرک مناوی“ (الجامع الأزهر) بھی شامل ہے۔ ”جامع الاحادیث“ کی روایات کی کل تعداد ۳۲۲۲۰ (چوتیس ہزار دو سو بیس) ہے۔ پھر مرتب نے موضوعات کو الگ جلد میں شائع کیا ہے جن کی تعداد ۱۲۵۲ (بارہ سو چون) ہے۔ اور اس کے بعد مسانید و مراہیل کو حضرات صحابہ رض کے اسماء کے اعتبار سے جمع فرمایا، ایسی روایات کی تعداد ۲۰۱۳۳ (بیس ہزار ایک سو تین تالیس) ہوتی ہے، الغرض یہ کتاب بہت سی کتابوں سے مستغای کر دینے والی ہے، اور عظیم ذخیرہ پر مشتمل ہے۔

(۸) **تحفة الأشراف بمعرفة الأطراف** : یہ حافظ جمال الدین ابو الحجاج یوسف ابن عبد الرحمن المزرا (المتوفی ۷۴۲ھ) کی معرکۃ الآراء تصنیف ہے۔ اس میں کتب ستہ (صحیح بخاری، صحیح مسلم، سنن ابی داؤد، جامع ترمذی، سنن نسائی اور سنن ابن ماجہ) میں موجود روایتوں کے اطراف کو مختلف اسانید کے ساتھ جمع کیا گیا ہے۔ اس کتاب میں حدیث تلاش کرنے کے لئے روایت کرنے والے صحابی کے نام کا معلوم ہونا ضروری ہے، اس لئے کہ کتاب میں مسانید صحابہ کو حروف ہجاء کی ترتیب پر ذکر کیا گیا ہے، پھر ہر صحابی سے نقل کرنے والے رواثت کو بھی اسی ترتیب

سے جمع کیا گیا ہے، مثلاً کتاب کا آغاز حرف الف سے ہوا ہے اور اس میں سب سے پہلے ”مند ابیض بن حمال الحمیری“ ہے پھر ان سے مردی حدیث کا طرف مذکور ہے اور یہ بتایا گیا ہے کہ یہ حدیث کتب ستہ میں سے کس کتاب میں کہاں اور کس سند سے ذکر کی گئی ہے۔

**نوٹ:** کتاب کے نئے ایڈیشن کے ساتھ ”فهرس أطراط الحديث“ کے نام سے دو جلدیں اور آگئی ہیں، اس میں اطراف کو بھی ”الف، با“ کی ترتیب پر مرتب کر دیا گیا ہے جس کی وجہ سے صحابی کا نام معلوم ہوئے بغیر بھی حدیث تک پہنچا جا سکتا ہے۔

علاوہ ازیں آج کل موجود ہے کتب حدیث شائع ہو رہی ہیں ان کے اخیر میں اطراف احادیث و آثار کا اشارہ بھی لگایا جاتا ہے، ان سے بھی استفادہ کیا جا سکتا ہے۔



(۵)

## مختلف ائمہ کے اقوال کی تلاش

دورانِ افقاء کبھی دوسرے ائمہ، عظام کی آراء کی تحقیق کی بھی ضرورت پڑتی ہے، ایسی صورت میں درج ذیل کتابوں سے رجوع کرنا مفید ہوگا:

(۱) مختصر اختلاف العلماء: حضرت امام طحاویؒ (المتوفی ۳۲۱ھ) نے علماء کے اختلافی اقوال پر مشتمل ایک کتاب "اختلاف العلماء" کے نام سے تحریر فرمائی تھی، جس کی ایک سو تینیں سے زیادہ جلدیں تھیں مگر اب یہ کتاب دنیا سے ناپید ہو چکی ہے، تاہم علامہ ابو بکر جاص رازیؒ (المتوفی ۳۷۰ھ) نے اس کتاب کی تلحیص "مختصر اختلاف العلماء" کے نام سے مرتب فرمائی جواب ۵ جملوں میں ڈاکٹر عبداللہ بن زیر احمد کی قیمتی تعلیق کے ساتھ دارالبیشائر الاسلامیہ بیروت سے شائع ہوئی ہے۔ یہ کتاب مختصر ہے مگر بہت مستند اور بڑی ذہن کشا ہے۔ اس میں اقوال کے ساتھ ساتھ کہیں دلائل اور ان کے جوابات کی طرف بھی اشارات موجود ہیں۔ اور تعلیق میں کوشش کی گئی ہے کہ ہر قول کا حوالہ اس مذہب کی معتبر کتاب سے ملا کر دے دیا جائے اس لئے اصل مراجع تک پہنچنا اس کے ذریعہ بہت آسان ہو گیا ہے۔

(۲) الموسوعة الفقهیہ: یہ عظیم الشان کتاب کویت کی وزارت الشؤون الدينیہ کی طرف سے سالہا سال کی تگ و دو اور انٹک مہنٹ کے بعد شائع ہوئی ہے، جس کی اب تک ۳۲ جلدیں شائع ہو چکی ہیں اور ابھی اس کی اشاعت اور تیاری کا سلسہ جاری ہے۔ اس شاہ کار کتاب کی تیاری میں عالم اسلام کے نہایت جلیل القدر علماء محققین کا تعاون شامل رہا ہے۔ حروف تہجی کے اعتبار سے فتحی موضوعات و متعلقات پر ائمہ اربعہ کی معتبر کتابوں سے نہایت قابل قدر مواد اس کتاب میں حسن ترتیب

کے ساتھ جمع کر دیا گیا ہے، جس سے علماء و مفتیان بھر پور فائدہ اٹھاسکتے ہیں۔ ہندوستان میں اسلام کی فقہہ اکیدیٰ کی طرف سے حضرت مولانا قاضی جاہد الاسلام صاحب رحمۃ اللہ علیہ (المتوفی ۱۴۲۳ھ) کی تحریک پر اس کتاب کا اردو ترجمہ کرایا گیا تھا، جواب غالباً تتمیل کے قریب ہے، مگرچوں کہ اس کتاب کا تعلق صرف اہل علم سے ہے اس لئے اس کے ترجمہ میں وہ افادیت نہیں ہو سکتی جو اصل کتاب سے مطلوب ہے۔ علماء و مفتیان اس کتاب کے ذریعہ اصل مصادر تک آسانی رسائی حاصل کر سکتے ہیں کیوں کہ اس کے حاشیہ میں عبارات فقہیہ کے حوالہ اہتمام کے ساتھ درج کئے گئے ہیں۔

(۳) **بداية المجتهد** : یہ علامہ ابن رشد حنبلی (المتوفی ۵۹۵ھ) کی مقبول و معروف کتاب ہے جس میں فقہی ابواب کی ترتیب پر مسائل جمع کئے گئے ہیں اور ائمہ اربعہ کے مذاہب و دلائل کو بیکجا کیا گیا ہے۔

(۴) **المغنى لابن قدامة** : علامہ ابن قدامة حنبلی (المتوفی ۶۲۰ھ) کی یہ کتاب اگرچہ مذہب حنبلی کی تشریح پر مشتمل ہے لیکن اس میں دیگر ائمہ کے اقوال اور ہمیں کہیں دلائل بھی مذکور ہیں، اور جزئیات کی کثرت اور احادیث و آثار سے استناد میں اس کتاب کو خاص امتیاز حاصل ہے، اس لئے اس کا مطالعہ ہر اعتبار سے مفید ہے۔

(۵) **الفقه على المذاهب الأربعة** : علامہ عبدالرحمن بجزیریؒ کی یہ کتاب اپنے موضوع پر بہت مشہور اور متدلیل ہے، اس میں منتخب مسائل میں ائمہ اربعہ کے موقف کی ترجمانی بہت اچھے انداز میں کرنے کی کامیاب کوشش کی گئی ہے۔

## مسائل حنفیہ کے دلائل کہاں تلاش کریں؟

مسائل حنفیہ کے نقلی و عقلی دلائل تلاش کرنے کے لئے ہدایہ، بدائع الصنائع اور حنفی علماء کی لکھی ہوئی شروحات حدیث مثلاً عمدة القاری، مرقاۃ المفاتیح، طبی، بذل الجہود، او جز المسالک اور فتح اللمحہم وغیرہ کا مطالعہ کرنا چاہئے، علاوہ ازیں خود اسی موضوع پر بھی کتابیں لکھی گئی ہیں ان میں سے چند کتابیں درج ذیل ہیں:

(۱) **تقریب شرح معانی الآثار** : امام طحاویؒ (المتومنی ۳۲۱ھ) کی معرکتہ الاراء کتاب ”شرح معانی الآثار“ فقہ حنفی کے بہت سے دلائل کو جامع ہے، اس کتاب میں ہر موضوع سے متعلق بے شمار احادیث و آثار جمع کردئے گئے ہیں۔ تاہم اس کتاب میں سندوں کی کثرت کی وجہ سے عام طلبہ کے لئے استفادہ میں ذرا دشواری پیش آتی تھی، اس دشواری کو دور کرنے کی غرض سے حضرت الاستاذ مولانا نعمت اللہ صاحب عظیمی دامت برکاتہم محدث دارالعلوم دیوبند نے بہت عمدہ انداز میں اس کی تلخیص فرمادی ہے۔ اور تلخیص ”تقریب معانی الآثار“ کے نام سے تین صفحیں جلدیوں میں مکتبہ نعمت دیوبند سے شائع ہو گئی ہے۔ اس کتاب سے ”شرح معانی الآثار“ سے استفادہ کا دائرہ مزید وسیع ہو جائے گا، انشاء اللہ تعالیٰ۔

(۲) **نصب الرایہ لأحادیث الہدایہ** : علامہ جمال الدین عبد اللہ بن یوسف الزیلیعیؒ (المتومنی ۲۲۷ھ) بڑے صاحب ورع و تقوی بزرگ اور صاحب نظر محدث اور فقیہ تھے۔ انہوں نے ”ہدایہ“ کی احادیث و آثار کی تخریج کا جو عدم انظر کارنامہ انجام دیا ہے وہ آب زر سے لکھے جانے کے لائق ہے۔ اس کتاب کی اہم خصوصیت یہ ہے کہ مصنف نے حنفی ہونے کے باوجود دلائل کی تحقیق میں کسی قسم کے مذہبی تعصب سے کام نہیں لیا ہے (جیسا کہ بہت سے فقہ حنفی کے مخالف مصنفوں کا دستور رہا ہے) اور بلاشبہ یہ کتاب دلائل احکام کا عظیم ”انسائیکلو پیڈیا“ کہلانے جانے کے لائق ہے۔ اس عظیم علمی ذخیرہ کو امام العصر حضرت علامہ انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ (المتومنی ۱۳۵۲ھ) کے توجہ دلانے پر مجلس علمی ڈا بھیل نے زرکش خرچ کر کے تحقیق تعلیق کے ساتھ چار صفحیں جلدیوں میں شائع کیا ہے۔ اسی کتاب کی تلخیص حافظ ابن حجر العسقلانیؒ (المتومنی ۸۵۲ھ) نے ”الدرایہ فی تلخیص نصب الرایہ“ کے نام سے کی ہے جو ہدایہ کے مطبوعہ شخصوں کے حاشیہ پر شائع شدہ ہے۔ مگر تلخیص حرف آخر نہیں کہی جاسکتی اس لئے محض اس پر اعتماد کرنے کے بجائے اصل کتاب نصب الرایہ کا مطالعہ کرنا چاہئے۔

(۳) **عقود الجواهر المنیفة فی أدلة مذهب الإمام أبي حنيفة** : یہ محدث عظیم السيد محمد مرتضی الزبیدیؒ (المتومنی ۱۲۰۵ھ) کی عظیم الشان تالیف ہے، جس میں مؤلف

موصوف نے فقہی ابواب کی ترتیب پر مسائل حنفیہ کے موافق احادیث و آثار جمع فرمائے ہیں۔ اور خاص طور پر اس کا اہتمام کیا ہے کہ مسئلہ کی سند اولاً امام ابوحنیفہ سے ثابت کی جائے اس کے بعد اس کے موافق اخبار و آثار دیگر کتابوں سے جمع کئے جائیں۔ اس اعتبار سے یہ فقہ حنفی کی عدمی الغیر کتاب ہے اور اس قابل ہے کہ افتاء کے ہر طالب علم کے مطالعہ میں رہے۔ یہ کتاب دو جلدیں میں مؤسسة الرسالہ بیروت نے شائع کی ہے۔

(۴) آثار السنن : علامہ شوق نیموی (المتوفی ۱۳۲۲ھ) کی اس کتاب میں ہر باب سے متعلق احادیث شریفہ کو بہت اچھے انداز میں جمع کیا گیا ہے، مگر افسوس کہ یہ صرف ایک جلد میں شائع ہو سکی اور منصوبہ مکمل نہ ہو سکا، مگر یہ جتنی بھی ہے وہ نفع سے خالی نہیں ہے، اسی لئے کئی مدارس میں اسے داخلِ نصاب بھی کیا گیا ہے۔

(۵) إعلاء السنن : حکیم الامت، مجدد الامت حضرت مولانا اشرف علی تھانوی نور اللہ مرقدہ (المتوفی ۱۳۶۲ھ) کی نگرانی میں آپ کے بھانجے حضرت مولانا ظفر احمد عثمانی رحمۃ اللہ علیہ (المتوفی ۱۳۹۲ھ) نے یہ کتاب مرتب فرمائی جو مختلف مراحل سے گذر کر ۱۸ اجزاء میں کراچی سے شائع ہوئی، اور دیکھتے ہی دیکھتے اسے فقه حنفی کے دلائل کے اعتبار سے اہم مرجع ہونے کا مقام حاصل ہو گیا، اس کتاب میں متن کی حیثیت سے ۲۱۱۹ ر احادیث و آثار درج ہیں، جب کہ تشریع میں شامل روایات و آثار کا کوئی شمار نہیں، اور بلاشبہ فقہی ابواب کی ترتیب سے ایسی مربوط مباحث کا کسی اور کتاب میں سمجھا ملنا دشوار ہے۔ اس کتاب کے مقدمہ کی حیثیت سے تین گراف قدر مقالات بھی حضرت علامہ ظفر احمد عثمانی رحمۃ اللہ علیہ نے تحریر فرمائے ہیں، جو اسی کے ساتھ ملحتی ہیں: (۱) قواعد فی علوم الحديث (۲) قواعد فی علوم الفقه (۳) أبو حنیفہ وأصحابه المحدثون۔ یہ تینوں مقالات اپنے موضوع پر حرف آخر ہیں، اور فقه حنفی پر طعن کرنے والوں کے مدل و مسکت جواب کی حیثیت رکھتے ہیں۔ اب یہ کتاب دارالکتب العلمیہ بیروت سے الاستاذ حازم القاضی کی تحقیق کے ساتھ نئے کمپیوٹر ٹائپ پر شائع ہوئی ہے، مگر اس میں صاحب تحقیق نے اپنی

تعلیقات میں جا بجا اپنی "سلفی ذہنیت" ظاہر کرنے کا کوئی موقع ہاتھ سے جانے نہیں دیا، اور اصل کتاب میں پیش کردہ موقف کو نزدیک کرنے کی ہر ممکن کوشش کی ہے۔

(۶) الفقه الحنفی وأدلته: عام طور پر غیر مقلدین کی طرف سے یہ اعتراض کیا جاتا ہے کہ حنفی مذهب کا دامن احادیث شریفہ اور نصوص سے خالی ہے، اور ان کا سارا سرماہی قیاس اور رائے پرمنی ہے، تو اس غلط فہمی بلکہ تلبیس کا جواب دینے کے لئے بہت سے علماء نے قلم اٹھایا، یہ پیش قیمت کتاب "الفقه الحنفی و ادلته"،<sup>۱</sup> جسی اسی سلسلہ کی ایک زریں کڑی ہے جسے شیخ اسعد محمد سعید الصاغرجی (مقیم مدینہ منورہ زادہ اللہ شرفاً) نے تین جلدیوں میں مرتب فرمایا ہے ان میں پہلی جلد فقہ العبادات پر مشتمل ہے جس میں مؤلف نے کتاب الاختیار کو اصل بنیاد بنا یا جب کہ آخری دو جلدیں فقہ المعاملات سے متعلق ہیں جن میں مؤلف نے "اللباب شرح الكتاب" کو بنیاد بنا یا ہے، یہ کتاب پہلی مرتبہ ۱۴۲۰ھ میں مدینہ منورہ کے صاحب ذوق اور علم دوست شخصیت فضیلۃ الشیخ السید عجیب محمود محمد مدفنی رحمۃ اللہ علیہ (المتوفی ۱۴۲۳ھ) (برادرزادہ حضرت شیخ الاسلام مولانا سید حسین احمد مدفنی نور اللہ مرقۃ) کے مالی تعاون سے دار الکلم الطیب بیروت اور دمشق سے شائع ہوئی۔

## غريب الفاظ کی تشریح کے لئے کتابوں سے مراجعت

بعض مرتبہ قرآن و حدیث اور فقہی کتابوں کے مطالعہ کے درمیان ایسے الفاظ آجاتے ہیں جن کا مفہوم سمجھ میں نہیں آتا، تو اس سلسلہ میں تحقیق کے لئے درج ذیل کتابوں کا مطالعہ مفید ہوگا:

(۱) مجمع بحار الأنوار فی غرائب التنزيل ولطائف الأخبار: شیخ محمد بن طاہر اپتیثی (المتوفی ۹۸۶ھ) کی یہ کتاب قرآن و سنت اور آثار صحابہ میں آمدہ مشکل الفاظ کی اطمینان بخش تشریح تحقیق پر مشتمل ہے، اور نابغہ روزگار کتابوں میں شمار ہوتی ہے، اب یہ کتاب مکتبہ دارالایمان مدینہ منورہ سے پانچ حصیم جلدیوں میں شائع ہوئی ہے۔

(۲) المُغرب فی ترتیب المعرف: الامام اللغوی ابوالفتح ناصر الدین المطرزی<sup>۲</sup> (المتوفی ۲۱۰ھ) نے اس کتاب میں کتب حفیہ میں آمدہ غریب الفاظ و اصطلاحات کی شرح فرمائی

ہے، اور یہ کتاب اپنے موضوع پر سب سے مستند اور جامع قرار پائی ہے، علامہ شامی وغیرہ نے بھی الفاظ کی تحقیق میں جا بجا س کا حوالہ دیا ہے، یہ کتاب ۲ جلدیوں میں شائع شدہ ہے۔

(۳) **طلبة الطلبة في الاصطلاحات الفقهية**: علامہ نجم الدین ابو حفص عمر بن محمد الشنفی (المتون ۵۳۷ھ) کی یہ مختصر کتاب بہت جامع اور نفع بخش ہے، اس کی ترتیب ابواب فقهیہ کی ترتیب پر ہے، ہر باب میں جواہم اصطلاحات اور الفاظ وارد ہوئے ہیں علامہ موصوف نے ان کی آسان تشریح فرمائی ہے۔ اور جا بجا جزئی مسائل بھی ذکر فرمائے ہیں۔ دارالکتب العلمیہ بیروت سے ایک جلد میں اس کی اشاعت ہوئی ہے۔

(۴) **مجمع المصطلحات والألفاظ الفقهية**: اس کتاب کو ڈاکٹر عبدالرحمن المعمم نے ۳۰ صفحہ جلدیوں میں مرتب کیا ہے جس میں ائمہ اربعہ کی فقہی کتابوں کے غریب اور مشکل الفاظ و اصطلاحات کی تشریح کی گئی ہے، اس اعتبار سے یہ کتاب بھی بہت نافع ہے۔

(۵) **مجمع لغة الفقهاء**: اس کتاب میں قدیم و جدید فقہی اصطلاحات کی آسان تشریح عربی اور انگریزی میں کی گئی ہے۔ ظہران یونیورسٹی ( سعودی عرب ) کے دو پروفیسروں: ڈاکٹر محمد رواش قلعہ جی، اور ڈاکٹر حامد صادق قینی نے اسے حروف تجھی کے اعتبار سے مرتب کیا ہے۔ اس میں ۲۳۷۰ ر اصطلاحات کی تشریح شامل ہے۔ یہ کتاب ایک جلد میں ادارۃ القرآن والعلوم الاسلامیہ کراچی سے شائع ہوئی ہے۔

(۶) **قواعد الفقه**: علامہ عیمیم الاحسان الحمدی البرکتی صدر مدرس مدرسہ عالیہ ڈھاکہ بگھہ دلیش کی یہ کتاب بہت سی فقہی نادر معلومات و قواعد و تعریفات کو جامع ہے۔ اس میں ۱۵ الگ الگ رسائل ہیں: (۱) **أصول الإمام الکرخی**: اس میں ۲۰ فقہی اصول بیان کئے گئے ہیں۔

(۲) **أصول المسائل الخلافیہ**: اس میں ۳۷ ر اصول ذکر کئے گئے ہیں جن پر ائمہ احناف کے درمیان اختلاف آراء کا مدار ہے۔ (۳) **القواعد الفقهیہ**: اس رسالہ میں ۲۶ ر اہم فقہی قواعد بیان کئے گئے ہیں۔ (۴) **التعریفات الفقهیہ**: اس حصہ میں ۲۷ ر ہزار کے قریب اصطلاحی الفاظ کی عمدہ تشریح کی گئی ہے۔ (۵) **أدب المفتی**: اس جزو میں شرح عقودرسم المفتی اور دیگر

کتب سے تلخیص کر کے فتویٰ نویسی اور استفتاء کے آداب جمع کئے گئے ہیں۔

الغرض یہ کتاب بہت جامع اور نافع ہے، دارالعلوم دیوبند میں تکمیل افتاء کے نصاب میں بھی یہ کتاب شامل ہے۔

علاوه ازیں کویت سے شائع ہونے والا "الموسوعة الفقهية" بھی الفاظ و اصطلاحات کی تحقیق میں بہت معاون ثابت ہوتا ہے۔

## احکام شریعت کے اسرار و حکم کی واقفیت

آج کل عام لوگوں کا مزاج بن گیا ہے کہ وہ شریعت کے ہر حکم کی عقلی دلیل اور مصلحت معلوم کرنا چاہتے ہیں، حالاں کہ ایک مسلمان کے لئے اصل چیز حکم خداوندی ہے، خواہ اس کی مصلحت کا علم ہو یا نہ ہو لیکن بعض موقع ایسے آتے ہیں کہ اگر مستقتنی کو حکمت اور مصلحت سے آگاہ نہ کیا جائے تو وہ ہرگز مطمئن نہیں ہوتا؛ اس لئے مفتی کو چاہئے کہ وہ عوام الناس کو مطمئن کرنے کے لئے شرعی احکام کے اسرار و حکم سے بھی بقدر ضرورت آگاہ رہے، بالخصوص جو مصالح خود نصوص سے مستنبط ہیں ان کا علم رکھے۔ حضرات علماء کرام نے جہاں مبسوط کتب تفسیر و حدیث میں جا بجا احکام شریعت کی مصالح و حکم کو تحریر فرمایا ہے وہیں بعض محققین نے اس موضوع پر مستقل کتابیں تحریر فرمائی ہیں ان میں سے چار کتابیں بالخصوص قابل ذکر ہیں:

(۱) احیاء علوم الدین : ججۃ الاسلام ابو حامد محمد بن محمد الغزالی الشافعی (المتوفی ۵۰۵ھ)

کی یہ معربۃ الآراء اور شہرۃ آفاق کتاب نہ صرف مواعظ و اصلاح نفس بلکہ شرعی اسرار و حکم کے بیان میں ممتاز حیثیت کی حامل ہے۔ یہ چار حصیم جلدیں پر مشتمل ہے اور عبادات، معاشرت، معاملات اور تذکیر آخرت کے مضمایں کا بے بہاذ خیرہ ہے۔ ترغیب و ترهیب سے متعلق احادیث میں چوں کہ ہر طرح کی روایات اس میں جمع تھیں اس لئے بعد کے فاضل علماء نے اس کتاب میں آمدہ احادیث کی تخریج کا کام انجام دیا جس میں حافظ زین الدین عبدالرحیم ابن الحسین العراقي (المتوفی ۸۰۶ھ) کا کام سب سے نمایاں ہے۔ موصوف نے اس موضوع پر دو کتابیں تالیف فرمائیں، پھر علامہ کے

شاعر شید حافظ ابن حجر العسقلانی (المتوفی ۸۵۲ھ) نے ان پر استدراک کرتے ہوئے کتاب لکھی، نیز علامہ قاسم ابن قطلو بغا (المتوفی ۸۷۹ھ) نے بھی استدراکات پر مشتمل کتاب لکھی۔ احیاء العلوم کا اردو ترجمہ حضرت مولانا محمد احسن صاحب صدقی نانوتوی (المتوفی ۱۳۱۲ھ) نے ۲۷ فتحیم جلدوں میں کیا ہے جو مستند اور قابل مطالعہ ہے۔

(۲) **حجۃ اللہ البالغة** : ججۃ الاسلام حضرت اقدس مولانا شاہ ولی اللہ محدث دہلوی (المتوفی ۱۷۶۱ھ) کی یہ نابغہ روزگار کتاب اپنے موضوع پر حرف آخر کی حیثیت رکھتی ہے۔ علماء راستخین نے اس کتاب کی عظمت کو تسلیم کیا ہے اور اسے اسلام کی صداقت کی ایک عظیم نشانی قرار دیا ہے۔ علم میں گیرائی، انشاء شریعت سے واقفیت اور شریعت کے اسرار و حکم کی معرفت کے لئے یہ کتاب بے مثال و بے نظیر ہے۔

(۳) **رحمۃ اللہ الواسعة شرح اردو حجۃ اللہ البالغة** : ”حجۃ اللہ البالغة“ کے مضماین اتنے عالی ہیں کہ عام طلبہ کو کجا بہت سے ذی استعداد علماء کے قابو میں نہیں آتے۔ اس لئے عرصہ سے ضرورت تھی کہ اس کتاب کی ایسی تشریح و تسهیل کی جائے کہ ہر شخص کے لئے اس کا سمجھنا آسان ہو جائے۔ الحمد للہ یہ عظیم کارنامہ دارالعلوم دیوبند کے ماہی ناز استاذ حدیث، متکلم اسلام حضرت الاستاذ مولانا مفتی سعید احمد صاحب پالن پوری دامت برکاتہم وعمت فیوضہم نے بحسن و خوبی انجام دیا۔ اور صرف چار سال میں پوری کتاب کی مبسوط شرح پانچ فتحیم جلدوں میں مکمل فرمائی شائع فرمادی۔ بلاشبہ یہ دو رہاضر عظیم ترین علمی تھفہ ہے، اور فرزندانِ دارالعلوم دیوبند کی شاہ کار علمی خدمات میں سے ایک ہے۔ حضرت الاستاذ موصوف نے علوم ولی اللہ کی تسهیل و تشریح کر کے شاکنین پرنا قابل فراموش احسان فرمایا ہے جسے برابر یاد رکھا جائے گا۔ اس عقلیت پسندی کے دور میں اس کتاب کا مطالعہ نہایت چشم کشا ثابت ہوگا، انشاء اللہ تعالیٰ۔

(۴) **المصالح العقلیہ للأحكام النقلیة** (احکام اسلام عقل کی نظر میں) : یہ کتاب حکیم الامم حضرت مولانا اشرف علی تھانوی نور اللہ مرقدہ (المتوفی ۱۳۶۲ھ) کی مرتب

فرمودہ ہے۔ جس میں فقہی ابواب کی ترتیب پر مسائل کی مصالح اور حکمتیں بیان کی گئی ہیں، یہ کتاب بھی اپنے موضوع پر نہایت جامع اور مفید قرار دی گئی ہے۔ اور عوام و خواص میں بے حد مقبول ہے۔

## مناسک سے متعلق بعض اہم کتابیں

حج کے متعلق مسائل بہت نازک اور باریک ہیں، ویسے تو سمجھی فقہی کتابوں میں ابواب الحج کے تحت مسائل کا ذخیرہ جمع ہے لیکن اختلاف اقوال کے وقت ترجیح دینے میں کافی دشواری پیش آتی ہے؛ اس لئے تحقیق واطمیان کے لئے لئے بالخصوص ان کتابوں کا مطالعہ کرنا ضروری ہے جو خاص حج کے موضوع پر لکھی گئی ہیں۔ ذیل میں چند ایسی ہی کتابوں کی طرف رہنمائی کی رہی ہے:

(۱) **مناسک الملا علی قاریٰ**: شیخ رحمۃ اللہ سندھی کی کتاب ”باب المناسک“ کی یہ شرح ہے جسے حضرت ملا علی قاریٰ (المتونی ۱۰۱۳ھ) نے مرتب فرمایا ہے۔ مناسک کے سلسلہ میں اس کتاب کو مرتعیت کا مقام حاصل ہے، ادارۃ القرآن والعلوم الاسلامیہ کراچی سے اس کی نئی اشاعت ہوئی، اس کا حاشیہ بھی بڑا مفید ہے۔

(۲) **غنية الناسك**: ہماری نظر سے حج کے مسائل پر فتح حنفی میں عربی میں اس سے زیادہ جامع اور مرتب کتاب نہیں گذری، یہ کتاب جلیل القدر صاحب نظر عالم حضرت مولانا شیخ محمد حسن شاہ مہاجر گنگوہی (المتونی ۱۳۳۶ھ) تلمیز رشید حضرت امام ربانی مولانا رشید احمد گنگوہی کی تالیف ہے۔ موصوف نے فقہ کی تمام اہم کتابوں سے جزیئات و مباحث نقل فرمائے ہیں اور اپنی حد تک تحقیق میں کوئی کسر نہیں چھوڑی ہے۔

(۳) **زبدۃ المناسک مع عمدة المناسک**: قطب عالم امام ربانی حضرت مولانا رشید احمد گنگوہی نور اللہ مرقدہ نے حج کے مسائل پر ایک رسالہ ”زبدۃ المناسک“ کے نام سے تحریر فرمایا تھا، اسی رسالہ کی جامع ترین شرح اپنے زمانہ کے امام المناسک حضرت مولانا شیر محمد سندھی مہاجر مدینی نے تحریر فرمائی۔ یہ کتاب اردو میں شائع شدہ حج کی کتابوں میں سب سے زیادہ جامع اور مستند ہے، مفتی عظیم حضرت مولانا مفتی محمد شفیع صاحبؒ نے ارشاد فرمایا کہ: ”میری قطعی رائے یہ

ہے کہ آج کل احکام حج وغیرہ کے لئے اس سے زیادہ جامع، مستند اور معتبر کوئی کتاب اردو میں معروف نہیں ہے، یہ حجاج وزائرین کے لئے بڑی نعمت ہے۔ (زبدہ: ۲)

اس لئے حج کے مسائل کی تحقیق اور مفتی بقول کی تلاش کے لئے اس کتاب کا مطالعہ ضرور کرنا چاہئے۔

(۴) **علم الحجاج** : حضرت مولانا مفتی سعید احمد صاحب اجر اڑوی رحمۃ اللہ علیہ (المتوفی ۷۷۳ھ) مفتی اعظم جامعہ مظاہر علوم سہارن پور کی یہ تالیف عوام و خواص میں بے حد مقبول ہے۔ حضرت والانے اس تالیف میں غذیۃ الناسک کو بنیاد بنا لیا ہے، گویا یہ غذیۃ الناسک کا اردو ایڈیشن ہے۔ سالہا سال سے حجاج کرام اس لفظ بخش کتاب سے فائدہ اٹھا رہے ہیں۔ اور دسیوں ایڈیشن اس کے چھپ چکے ہیں۔

مذکورہ کتابوں کے علاوہ □ احکام حج (از: حضرت مولانا مفتی محمد شفیع صاحب) □ تخفیف الحج (از: حضرت مولانا مفتی محمد عاشق الہی بلند شہری مہاجر مدینی) □ انوار مناسک والیضاح المناسک (از: حضرت مولانا مفتی شبیر احمد قاسمی مفتی مدرسہ شاہی مراد آباد) □ اور مسائل حج و عمرہ (از: مولانا قاری محمد رفت صاحب قاسمی استاذ دارالعلوم دیوبند) وغیرہ کتابیں بھی جامع اور اہم ہیں، ان کے ذریعہ اصل مصادر تک رسائی آسان ہوگی۔ نیز مزید معلومات اور بعض نئے مسائل و فتاویٰ کے لئے ماہنامہ ندای شاہی کے ”حج و زیارت نمبر“ کا مطالعہ بھی مفید ہے، انشاء اللہ تعالیٰ۔

**ضروری نوٹ** : احرقر نے اپنے ناقص علم و مطالعہ کے اعتبار سے مذکورہ کتابوں کی انشان دہی کر دی ہے، تمام ہی کتابوں کا احاطہ نہ تو مقصود تھا اور نہ ہی یہ ممکن ہے۔ اس لئے عین امکان ہے کہ کوئی اہم جدید و قدیم کتاب تذکرہ سے رہ گئی ہو، تو اس میں کسی انتیاز کو دخل نہیں بلکہ احرقر کی علمی یا ذہول ہی اس کا سبب ہے۔ تاہم اگر طلبہ و قارئین کو کتابیں جمع کرنے اور مطالعہ کرنے کا شوق ہو جائے گا تو انشاء اللہ خود بخود مزید کتابوں کی طرف رہنمائی ہوتی رہے گی۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے فضل سے زیادہ سے زیادہ علمی اشتغال کی توفیق مرحمت فرمائیں، آمین۔

۶

# کمپیوٹر سی، ڈی [C-D] میں ذخیرہ کتب

جدید دور میں کمپیوٹر سائنس میں محیر العقول انقلاب آیا ہے اور جو باتیں پہلے ناممکن تھیں اب وہ حقیقت بنتی جا رہی ہیں، انہی میں ایک اہم چیز کمپیوٹر کی ”سی ڈیاں“ ہیں، جن میں ہزاروں کتابوں کو سمیٹ دیا گیا ہے اور روز بروزان سی ڈی پروگراموں کے نئے ایڈیشن بازار میں آ کر مقبول ہو رہے ہیں۔ ”مرکز الترااث لأبحاث الحاسوب الالى“ اور ”شركة العريش للكمبيوتر“ وغیرہ نے اس میدان میں اپنی بیش قیمت خدمات پیش کی ہیں جن سے باذوق یقیناً فائدہ اٹھاسکتے ہیں۔ الموسوعة الذهبية، الألفية في السنة النبوية، موسوعة الحديث النبوى الشريف، موسوعة الفقه الاسلامى، سلسلة الأحاديث الصحيحة، سلسلة الأحاديث الضعيفة، وغيرها عنوانات سے دسیوں سی ڈی پروگرام موجود میں آچکے ہیں، جن میں سے بعض پروگرام ۲۳-۲۴ ہزار جلوں اور سیکڑوں کتب و رسائل کو شامل ہیں، گویا ایک ایک کتب خانہ ایک پروگرام میں سموایا گیا ہے۔ ان پروگراموں میں احادیث اور آثار، اسماء الرجال، علمی و فقہی عنوانات و موضوعات کو کم وقت میں بآسانی تلاش کرنے کی سہولت موجود ہے۔ اسی طرح ان کتابوں کے کل یا جزء کا پرنٹ آؤٹ بھی اپنے کمپیوٹر سے نکال سکتے ہیں۔ بہت سی ایسی کتابیں جو بڑے بڑے اداروں کے کتب خانوں میں بھی دستیاب ہونی مشکل ہوتی ہیں وہ کتابیں ان سی ڈیوں میں محفوظ ہیں۔ اور ان سے بآسانی استفادہ کیا جاسکتا ہے۔ بالخصوص جو اہل علم زیادہ تر سفر میں رہتے ہیں اور ان کے لئے مطالعہ کی کتابیں اپنے ساتھ لے جانا سخت دشوار ہے اگر وہ اپنے ”لیپ

ٹاپ کمپیوٹر، کے ذریعہ ان سی ڈیوں سے استفادہ کریں تو انہیں بہت سہولت ہو گی۔ یہی ڈیاں عموماً لبنان میں تیار شدہ ہیں، اور خالجی ممالک کی یونیورسٹیوں کے کتب خانوں کے علاوہ مکہ معظمہ اور مدینہ منورہ کی بعض مخصوص دو کانوں پر دستیاب ہیں، اور ذیل میں شرکتہ التراث اور شرکتہ العریس کا پتہ لکھ دیا جاتا ہے تاکہ شاکرین براہ راست کمپنی سے رابطہ کر کے یہ ذخیر حاصل کر سکتے ہیں۔

### (۱) مرکز التراث لأبحاث الحاسب الالي

پوسٹ بکس: ۴۰۳۵۴ عمان ۱۱۱۴۱

المملكة الأردنية الهاشمية

ایمیل کا پتہ: Turath@gocom

### (۲) شركة العريس للكمبيوتر بيروت، لبنان

ایمیل: Info@elariss.com

ویب سائٹ: W.W.W elariss.com

**ضروری تنبیہ:** یہاں یہ بات ملحوظ رکھنی ضروری ہے کہ اصل علم کی برکت جو کتابوں کے مطالعہ سے حاصل ہوتی ہے وہ ان سی ڈیوں میں اشتغال سے حاصل ہونی مشکل ہے، اس لئے ایسی سی ڈی پروگراموں سے ضرورت کے وقت استفادہ کرنے میں تو حرج نہیں لیکن اپنی علمی و مطالعاتی سرگرمیاں محض سی ڈیوں تک محدود کرنے میں علمی نقصان کا اندیشہ زیادہ ہے، اس لئے کہ کمپیوٹر پر بیٹھ کر بہت سا وقت ادھر ادھر کے پروگرام کا جائزہ لینے میں ہی ضائع ہو جاتا ہے۔ اس لئے ان سی ڈیوں کو تفریح اور وقت گذاری کا ذریعہ نہ بنایا جائے بلکہ ان سے فائدہ اٹھانے پر ہی اصل دھیان مرکوز رکھنا چاہئے۔ (مرتب)

(۷)

## حوالہ جات کی درجہ بندی

اپنے فتاویٰ اور فقہی تحریروں کو باوزن بنانے کے لئے ضروری ہے کہ ہم کتابوں کا حوالہ دیتے وقت درجہ بندی کا لحاظ رکھیں۔ مثلاً:

**پہلا درجہ:** فقہ کی اصل کتابیں (مثلاً شامی، بدائع اور بحروف غیرہ)

**دوسرा درجہ:** وہ رسائل جو کسی خاص موضوع کی تحقیق پر مبنی ہوں (مثلاً رسائل ابن عابدین، رسائل ابن نجیم، جواہر الفقہ، فقہی مقالات)

**تیسرا درجہ:** فتاویٰ و مسائل کے عام مجموعے (مثلاً فتاویٰ رشیدیہ، امداد الفتاویٰ، کلفیۃ المفتی وغیرہ)

**چوتھا درجہ:** فتاویٰ سے منتخب مجموعے جو آج کل عام طور پر کتب خانوں میں دستیاب ہیں (مثلاً رسائل نماز، رسائل زکاۃ وغیرہ)

**پانچواں درجہ:** رسائل و جرائد میں چھپنے والے مضامین۔

ان پانچوں درجوں میں ”پہلا درجہ“ سب سے باوزن ہے اور بقیہ درجے دراصل اسی درجہ کی کتابوں سے مأخوذه ہیں، اس لئے ایک مفتی کی نظر اصالۃ اسی اول درجہ کی کتابوں پر ہونی چاہئے۔ اگر وہ کوئی مسئلہ کسی اور درجہ کی کتابوں میں پائے تو کوشش کرنی چاہئے کہ اس کی اصل تک رسائی ہو جائے، اور اس کا فتویٰ باوزن ہو جائے، چنانچہ پہلے درجہ کا اگر حوالہ مل جائے تو پھر دوسرے کسی درجہ کے حوالہ کی ضرورت باقی نہیں رہتی۔ مثال کے طور پر اگر کوئی حدیث بخاری شریف میں مل جائے تو پھر کسی اور کتاب سے اس حدیث کا حوالہ دینے کی ضرورت باقی نہیں رہ جاتی، ہاں اگر دیدیں تو یہ ایک اضافی فائدہ ہوگا۔ اسی طرح اگر کوئی جزئیہ شامی یا کسی اور معتبر فقہی کتاب میں مل جائے تو پھر اردو

فتاویٰ سے اس جزئیہ کا حوالہ دینے کی ضرورت باقی نہیں رہتی، تاہم اگر پہلے درجہ کے ساتھ بطور تائید دوسرے درجہ کے حوالہ بھی لکھ دئے جائیں تو حرج نہیں لیکن اصل تک پہنچنے کی کوشش ضرور کرنی چاہئے۔ اگر ہم اس کا انتظام کریں گے تو ہماری نظر میں یقیناً وسعت اور گیرائی پیدا ہو گی، اور ہم اپنے اندر خود اعتمادی محسوس کریں گے۔

آج کل علمی گیرائی کے فقدان کی ایک بڑی وجہ یہی ہے کہ ہم نے سہولت پسندی کی وجہ سے اپنے مطالعہ کا دائرہ بعد کی لکھی جانے والی کتابوں اور اردو فتاویٰ و رسائل تک محدود کر لیا ہے، یہ رجحان ہرگز امید افزانہیں ہے۔ ہمیں جدید کتابوں اور فتاویٰ سے استفادہ تو ضرور کرنا چاہئے کیوں کہ ان کے مطالعہ سے نتیجے جزئیات اور دو رہاضر کے مطابق مسائل کا علم ہوتا ہے، اور ان کا حوالہ بھی دے دینا چاہئے کیوں کہ انصاف کا تقاضا یہی ہے کہ آدمی کو جو علمی نکتہ جہاں سے ملے وہ اسی کی طرف منسوب کرے لیکن ان پر انحصار نہیں کرنا چاہئے بلکہ ان کے مصنفین و مرتبین نے جن کتابوں سے استفادہ کیا ہے ان تک رسائی حاصل کرنی چاہئے، اور متعلقہ عبارتوں کے سیاق و سبق کا مطالعہ کر کے اپنے علم کو جلا دینی چاہئے، اس کے بغیر ہمارے اندر علمی رسوخ اور فقہی ملکہ پیدا نہیں ہو سکے گا۔

## بڑی خیانت

لیکن اگر کوئی شخص ایسا کرے کہ کسی جدید ہم عصر مصنف کی کتاب سے استفادہ کرے اور اس کتاب کا حوالہ نہ دیکر اس مصنف نے جن کتابوں کے حوالے دئے ہیں انہیں براہ راست نقل کر کے اپنے مضمون یا کتاب کو با وزن بنانے کی کوشش کرے تو یہ بہت بڑی بھاری علمی خیانت ہے۔ ہمیں اگر کوئی معمولی سے معمولی بات بھی اگر کہیں سے ملے خواہ وہ ہمارے ہم رتبہ حتیٰ کہ ہمارے کسی شاگرد کے مضمون میں ہو تو ہمیں اس کا حوالہ دینے میں گریز نہیں کرنا چاہئے، یہ کوئی بے عزتی کی بات نہیں ہے بلکہ اس طرز عمل سے علم میں وزن اور برکت ہوتی ہے اور لوگوں کے اعتماد میں اضافہ ہوتا ہے۔

# فتویٰ نویسی کے آداب

فقہاء کی کتابوں اور تجربات کی روشنی میں

فتویٰ نویسی کے متعلق چند ضروری ہدایات

نَهْمَةٌ وَنَسْلَدٌ عَلَى رَسُولِهِ الْكَرِيمِ، أَمَا بَعْدُ:



## (۱) فتویٰ دینے میں احتیاط

فتویٰ نویسی کا کام نہایت عظیم الشان اور باعثِ اجر و ثواب ہونے کے ساتھ ساتھ اپنے اندر نہایت نزاکت بھی رکھتا ہے، اس لئے کہ مفتی کی حیثیت اللہ تعالیٰ اور بندوں کے درمیان واسطہ کی ہے، اگر وہ صحیح مسئلہ بتائے تو اپنی ذمہ داری سے عہدہ برآ ہو کر مستحق اجر و ثواب ہو گا۔ اور اگر خدا نخواستہ غلط مسئلہ بتائے تو مستقتوی کے غلط عمل کا وباں بھی اسی پر ہو گا، اس لئے فتویٰ دینے میں نہایت احتیاط لازم ہے، جب تک مسئلہ پوری طرح معلوم نہ ہو ہرگز فتویٰ نہ دے، اور علمی کے اظہار میں کوئی عارنہ محسوس کرے۔ چنان چہ:

○ آنحضرت ﷺ نے فرمایا ہے کہ ”جو شخص بغیر علم کے فتویٰ دے اس پر فرشتے لعنت بھیجتے

ہیں“۔ (الفقیہ والمسققہ ۲۵۸)

○ ایک دوسری روایت میں ہے کہ ”جو شخص بلا تحقیق فتویٰ دے تو اس کا گناہ مفتی پر

ہے“۔ (الفقیہ والمسققہ ۲۵۸)

○ حضرت عبد اللہ بن المبارکؓ سے پوچھا گیا کہ آدمی فتویٰ دینے کے لائق کب ہوتا ہے تو آپ نے جواب دیا کہ جب احادیث کا عالم ہو اور نظر میں با بصیرت ہو۔ (الفقیہ والمسققہ ۲۵۹)

○ بشر بن الحارث کا مقولہ ہے کہ جو شخص اس بات کا متممی رہے کہ اس سے مسئلے پوچھ جائیں تو یہی بات اس کی ناہلی کی دلیل ہے۔ (الفقیہ والمسققہ ۲۷۰)

○ ریبیعہ بن عبد الرحمن (ربیعۃ الرائے) جو مدینہ منورہ کے بڑے زبردست فقیہ اور محدث تھے فرماتے ہیں کہ مجھے قاضی ابن حلزہ نے نصیحت کی کہ میں دیکھ رہا ہوں کہ لوگ تمہیں (مسائل

پوچھنے کے لئے) گھیرے رہتے ہیں تو جب بھی تم سے کوئی شخص مسئلہ پوچھتے تو تمہاری فکر اسے بچانے کی نہیں ہونی چاہئے بلکہ فکر اولادی ہونی چاہئے کہ تم اپنی گردان کیسے بچاؤ گے۔ (الفقیہ والمسقہ ۲۷۰) یعنی فتویٰ دیتے وقت یہ سوچ لو کہ اللہ تعالیٰ کے دربار میں جواب دہی سے کیسے پوچھے گے؟

○ امام شعیؒ سے ایک مرتبہ کوئی مسئلہ پوچھا گیا تو آپ نے فرمایا: لا ادری (مجھے معلوم نہیں) تو کسی نے اعتراض کیا کہ آپ کو لا ادری کہتے ہوئے شرم نہیں آئی حالاں کہ آپ اہل عراق کے فقیہ ہیں، تو امام شعیؒ نے فرمایا: ”مگر فرشتوں کو سبھانک لاعلم لنا إلا ما علمتنا“ کہتے ہوئے تو شرم نہیں آئی۔ (الفقیہ والمسقہ ۲۷۶) یعنی جب فرشتوں کو اپنی علمی کے اظہار میں عار نہ آئی تو ہمیں شرم کرنے کی کیا ضرورت ہے۔

○ حضرت عبد اللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ اور حضرت عبد اللہ بن عباس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ انہوں نے فرمایا:

مَنْ أَفْتَى عَنْ كُلِّ مَا يُسْئَلُ فَهُوَ  
یعنی جو شخص ہر پوچھی گئی بات کا جواب دینا  
ضروری سمجھے وہ پاگل ہے۔  
مَجْنُونٌ.

○ امام شعیؒ سے منقول ہے کہ وہ لوگوں سے کہا کرتے تھے کہ تم لوگ بعض مرتبہ ایسے مسئلہ کے بارے میں خود ہی فتویٰ دے دیتے ہو کہ اگر اس جیسا مسئلہ سیدنا حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ کے سامنے پیش آتا تو وہ اس کا جواب معلوم کرنے کے لئے سارے اہل بدر کو جمع فرماتے اور اس کیلئے اپنی رائے پر اعتماد نہ فرماتے۔

○ بہت سے علماء کے بارے میں مروی ہے کہ وہ فتویٰ دیتے وقت خوف و خشیت کے مارے کا پنپنے لگتے تھے کہ کہیں مسئلہ بتانے میں غلطی نہ ہو جائے۔

○ حضرت سفیان بن عینیہؓ مشہور مقولہ ہے: اجسر الناس على الفتيا أقلهم علمًا۔ یعنی لوگوں میں فتویٰ دینے پر سب سے زیادہ جمارت و شخص کرتا ہے جو ان میں سب سے کم علم رکھتا ہو۔

○ امام اعظم حضرت امام ابوحنیفہؓ فرمایا کرتے تھے کہ اگر علم ضائع ہونے کا خوف اور اس

پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے گرفت کا اندیشہ نہ ہوتا تو میں ہر گز فتویٰ نہ دیتا۔

○ حضرت امام مالکؓ کے بارے میں آتا ہے کہ آپ سے ایک مجلس میں ۲۸ مسئلے پوچھے گئے جن میں سے ۳۰ مسئلے کے بارے میں آپ نے بلا تکلف فرمایا: لا ادری یعنی میں نہیں جانتا۔ اور کبھی کبھی آپ سے یک بارگی پچاس پچاس مسئلے پوچھے جاتے اور آپ ان میں سے کسی ایک کا بھی جواب نہ دیتے، اور ارشاد فرماتے کہ جب کسی شخص سے مسئلہ پوچھا جائے تو جواب دینے سے پہلے وہ اپنے کو جنت اور جہنم پر پیش کرے اور سوچ کہ جہنم سے چھٹکارا کیسے حاصل کرے گا، اس کے بعد ہی جواب دے۔

○ اسی طرح حضرت امام شافعیؓ اور امام احمد بن حنبلؓ سے بھی فتویٰ دینے میں نہایت احتیاط منقول ہے۔

○ علامہ صیریؓ اور خطیب بغدادیؓ نے لکھا ہے کہ جو شخص فتویٰ دینے کا مشتاق رہے اور اس کی طرف پیش قدمی کرے تو اس کی توفیق کم ہو جاتی ہے، اور اس کے معاملات پر اگندہ ہو جاتے ہیں، اس کے برخلاف جو شخص مجبوراً افتاء کے منصب پر فائز کر دیا جائے تو اللہ تعالیٰ کی توفیق اس کے شامل حال ہوتی ہے، اور اس کے جوابات اکثر صحیح ہوتے ہیں۔

الغرض منصب افتاء کی نزاکت کا خیال رکھتے ہوئے اس راہ میں ہر قدم انتہائی پھونک پھونک کر اٹھانا چاہئے، اور غفلت اور لا ابالی پن کا شائستہ بھی مفتی میں نہ ہونا چاہئے۔

## (۲) مفتی کا ورع و تقویٰ

ضروری ہے کہ مفتی ورع و تقویٰ، دیانت و امانت اور اخلاقِ فاضل سے متصف ہو، اور دنیا سے بے رغبت ہو، اور اپنی ذاتی زندگی میں معاصی و منکرات بلکہ خلاف اولیٰ سے بھی اجتناب کی کوشش کرتا ہو۔

## (۳) مفتی کے شرائط و اوصاف

مفتی میں درج ذیل اوصاف ہونے چاہئیں:

الف: عاقل بالغ مکلف ہونا۔

ب: درجہ ثقاہت پر فائز ہونا۔

ج: منکرات و معاصی سے پوری طرح اجتناب کرنے والا ہونا۔

د: بد اخلاقی اور بے مردمی سے محفوظ ہونا۔

ه: فقہی طبیعت، ذہن میں سلامتی اور غور و فکر کی صلاحیت ہونا۔

و: منفعتِ المزاج نہ ہونا۔

## (۴) سوال اچھی طرح پڑھئے

جب مفتی کے سامنے استفتاء پیش کیا جائے تو سب سے پہلے مندرجہ سوال کو پورے غور و فکر اور یکسوئی کے ساتھ پڑھنا چاہئے۔ اور سائل کی مراد اچھی طرح سمجھنے کی کوشش کرنی چاہئے، سوال میں اگر کوئی جملہ مجمل یا مشتبہ ہو تو پہلے سائل سے اس کی تحقیق کر لے، اسی طرح اگر تحریر میں کوئی فیش غلطی ہو تو اس کی تصحیح کے بعد جواب لکھئے۔

## (۵) سوال کے نتیجے میں اگر جگہ خالی ہو تو کیا کرے؟

اگر سائل نے سوال کی سطروں کے درمیان یا آخر میں اس طرح خالی جگہ چھوڑ رکھی ہے کہ وہاں بعد میں اضافہ کا احتمال ہے تو مفتی کے لئے مناسب ہے کہ وہ خالی جگہوں کو نقطوں یا لائنوں سے پُر کر دے، تاکہ آئندہ کسی سازش اور فتنہ کا شکار نہ ہو۔

## (۶) فتنہ کے اندر یشہ کے وقت زبانی جواب پر اکتفاء کرے

اگر مفتی کو معلوم ہو جائے کہ استفتاء کا جواب سائل کی غرض کے موافق نہیں ہے، اور وہ اسے کسی حالت میں تسلیم نہیں کرے گا، یا اس کے علاوہ کسی اور وجہ کی بناء پر وہ یہ سمجھے کہ فتویٰ کی تحریر فتنہ انگیزی کا باعث ہو سکتی ہے تو اسے چاہئے کہ مستفتی سے صرف زبانی گفتگو پر اکتفاء کرے، اور تحریر نہ لکھے۔

## (۷) ترتیب استفتاء کا لحاظ

جب مفتی کے پاس متعدد استفتاء جمع ہو جائیں تو آمد کی ترتیب سے جواب لکھنا چاہئے،

ہاں اگر کسی مسافر یا عورت یا ایسے شخص کا استفتاء ہو جسے تاخیر کی وجہ سے نقصان ہو سکتا ہے تو اس کا فتویٰ پہلے لکھنے میں بھی کوئی حرج نہیں ہے۔

## (۸) جواب لکھنے کی ابتداء اور انتہاء

الف: مناسب ہے کہ فتویٰ لکھنے سے پہلے تعوذ و تسمیہ حمد و صلاۃ، لاحول ولا قوۃ الا باللہ اور یہ دعا: رب اشرح لی صدری، زبانی پڑھ لے۔

ب: کاغذ کی دائیں جانب سے فتویٰ لکھنا شروع کرے۔

ج: سب سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم یا با اسمہ سبحانہ و تعالیٰ لکھے۔

د: تسمیہ کے بعد حامداً و مصلیاً یا الجواب وباللہ التوفیق جیسے الفاظ لکھے، اور اگر دونوں کو جمع کر لے تو نور علی نور۔

ه: جواب کے ختم پر فقط اللہ تعالیٰ اعلم، واللہ الموفق، وباللہ التوفیق جیسے الفاظ تحریر کرے۔

و: اخیر میں اپنے دستخط ثابت کرے۔

ز: دستخط کے نیچے تاریخ تحریر پر ضرور درج کرے۔

## (۹) تفصیل طلب مسئلہ کا جواب

اگر مسئلہ اپنے اندر مختلف جہتیں رکھتا ہو تو اس کا جواب مطلق نہ لکھے، بلکہ بہتر ہے کہ سائل سے معلوم کر لے کہ اس کو کیا صورت پیش آئی، پھر نئے کاغذ پر از سر نو صورتِ مسئلہ لکھوا کر جواب لکھے، اگر یہ نہ ہو سکے تو اس کو چاہئے کہ ہر صورت کا حکم الگ الگ بیان کر دے، تاکہ مستفتی اپنے پیش آمدہ واقعہ کا انطباق کر کے فتویٰ پر عمل کر سکے۔

## (۱۰) صورتِ واقعہ کا جواب

اگر مفتی کے سامنے کوئی ایسا استفتاء آئے جس کی حقیقت واقعہ کا علم مفتی کو ہو گروہ بات استفتاء میں نہ لکھی گئی ہو تو مناسب ہے کہ وہ اس استفتاء کا جواب نہ دے، بلکہ واقعہ کی تحقیق کے بعد

از سر نو صحیح صورت حال کے موافق استفتاء لکھوا کر اس پر جواب تحریر کرے، اس لئے کہ اس دور میں نزاعی معاملات میں فتاویٰ مخصوص دینیوی مفادات کے حصول کے لئے بھی حاصل کئے جاسکتے ہیں، اور اصل واقعہ کا علم ہونے کے باوجود مسئولہ استفتاء کے جواب میں فتنہ کا سخت اندازہ ہے۔ (مرتب)

## (۱۱) جواب قطعی ہو

عام لوگوں کے استفتاء کے جواب میں یہ نہ لکھا جائے کہ مسئلہ میں اختلاف ہے، یا اس میں دو قول ہیں، یا اس میں دو روایتیں ہیں، بلکہ قطعی جواب دینا چاہئے، تاکہ مستقی مطمئن اور یکسو ہو کرفتوی پر عمل کر سکے، اور اگر قطعی حکم معلوم نہ ہو تو توقف کرے یا کسی بڑے مفتی کی طرف رجوع کا مشورہ دے۔ البتہ اگر کوئی اہل شخص مسئلہ کی تحقیق کرنے کے لئے استفتاء کرے تو اس کے جواب میں مسئلہ کے متعدد اقوال نقل کرنے میں حرج نہیں، بلکہ مفتی بقول کی نشاندہی پھر بھی کر دینی چاہئے۔

## (۱۲) جواب واضح ہو

فتاویٰ کی عبارت واضح، فصح اور صحیح ہو، جسے عام طور پر لوگ بآسانی سمجھ سکیں۔

## (۱۳) جواب کی تحریر کیسی ہو

استفتاء کا جواب درمیانی خط میں لکھا جائے، جو نہ بہت باریک ہو اور نہ بہت زیادہ جملی، اسی طرح سطروں کے درمیان مناسب فاصلہ رہنا چاہئے، نیز ایک ہی فتویٰ میں مختلف قسم کے طرز تحریر اور متعدد رنگ کی روشنائیوں اور الگ الگ سائز کے قلموں کو جمع نہ کرے، اس لئے کہ اس میں تحریف وزیادتی کا احتمال ہے، اور مفتی کی بے ذوقی کی دلیل ہے۔

## (۱۴) جواب مختصر ہو

جہاں تک ممکن ہو جواب میں کم سے کم عبارت لکھی جائے، بشرطیکہ وہ سائل کے مقصود میں مخل نہ ہو، قاضی ابو حامدؓ سے منقول ہے کہ ان سے ایک مسئلہ پوچھا گیا جس کے آخر میں یہ الفاظ

تھے: یجوز ام لا۔ تو انہوں نے جواب دیا: لا۔ و باللہ التوفیق۔

### (۱۵) جواب میں دلیل لکھنا

اگر عامی یا بے علم آدمی کو جواب دینا ہے تو دلیل لکھنے کی زیادہ ضرورت نہیں، بلکہ سوال کے مطابق حکم لکھ دے، ہاں اگر مستفتی نے دلائل طلب کئے ہیں، اسی طرح اگر مستفتی عالم ہے اور استفتاء سے اس کا مقصد دلیلیں حاصل کرنا ہے تو دلائل اور حکم کے مأخذ لکھ دینے چاہئیں۔ اور اگر مستفتی خود اس درج کا نہ ہو کہ لوگ اس کی بات بلا دلیل مان لیتے ہوں تو اسے اپنے ہر فتویٰ میں دلائل لکھنے اور جزئیات نقل کر دینے کا ارتراام کرنا چاہئے، تاکہ لوگوں کی نظر میں اس کی بات با وزن ہو اور خود اس کے علم و مطالعہ میں چلا بیدا ہو سکے۔

### (۱۶) خصوصات میں نہ پڑے

مستفتی کے سامنے اگر کوئی ایسا مسئلہ آئے جس کا تعلق قضاۓ ہو یا اس کے بارے میں فریقین کے درمیان نزاع مشہور ہو یا اس فتویٰ کو غلط رخدے کر اسلامی تعلیمات کو موضوع بحث بنانے کا اندیشہ ہو تو مستفتی کو چاہئے کہ لٹائنف الحلیل کے ذریعہ اپنا دامن اس طرح کے مسائل میں الجھنے سے بچا لے۔

### (۱۷) معارض و معاند کو جواب نہ دے

اگر مستفتی کو معلوم ہو جائے کہ مستفتی کا مقصد کسی حکم شرعی کو معلوم کرنا نہیں بلکہ مستفتی پر اعتراض اور اس کا امتحان مقصود ہے تو ایسے شخص کو جواب نہ دے، کیوں کہ اس سے کسی دینی فائدہ کی امید نہیں ہے۔

### (۱۸) کن حالتوں میں فتویٰ نہ دینا چاہئے؟

جب دل پر بیشان ہو، طبع اطمینان نہ ہو، تکلیف یا غم کا موقع ہو۔ مثلاً: غصہ، بھوک، پیاس، اونگھ، سخت گرمی یا بول و براز کی حاجت۔ الغرض کسی بھی ایسی حالت میں فتویٰ نہ دے جس میں دل

یکسونہ ہو، کیوں کہ ان حالتوں میں غلطی کا امکان زیادہ رہتا ہے۔

## (۱۹) دستی فتویٰ فورآنہ لکھنے

اگر مستقتوں خود حاضر ہو کر اپنا استفتاء پیش کرے اور مسئلہ غور طلب ہو تو مناسب ہے کہ اسے دوسرے وقت آنے کو کہا جائے، اس لئے کہ جلد بازی میں ہاتھوں ہاتھ جواب لکھنے میں عموماً غلطی واقع ہو جاتی ہے، اور بعد میں اس کا تدارک مشکل ہوتا ہے۔

## (۲۰) وراثت کے مسائل لکھنے کا طریقہ

ترکہ کی تقسیم کے استفتاء عموماً پیچیدہ ہوتے ہیں، اور تقسیم کے جھگڑے کے دونوں فریق اپنی اپنی منشاء کے مطابق مستحقین اور ورثاء کی فہرست پیش کرتے ہیں۔ خاص کر جب مسئلہ قدیم ہوا اور اس میں مناسخہ کی ضرورت پیش آئے تو معاملہ اور نازک ہو جاتا ہے، اس لئے مفتی کو چاہئے کہ وراثت کے متعلق فتویٰ کے شروع میں درج ذیل تین قندوں کا اضافہ کرے: (۱) برقراری صحت واقعہ (۲) بعد ادائے حقوق متقدمہ علی الارث (۳) عدم موازع ارث (یا اس جیسے الفاظ) اس طرح مفتی عند اللہ و عند الناس گرفت سے بچ جائے گا۔ اس کے بعد قواعد کے مطابق مسئلہ کی تجزیع کرے، اور سب ورثاء کے سہام الگ الگ لکھ دے۔

## (۲۱) حوالہ جات لکھنے کا ادب

فتاویٰ میں حوالہ جات لکھنے وقت خاص طور پر درج ذیل امور کا لحاظ رکھیں:

الف: جس کتاب کا حوالہ یا عبارت نقل کی جائے اس کا صفحہ نمبر اور مطبع بھی لکھ دے۔

ب: اگر کتاب کے متعدد نسخے چھپے ہوں تو صفحہ مطبع کے ساتھ باب اور فصل بھی لکھیں۔

ج: جب تک مطلوبہ مسئلہ اور عبارت حوالہ کی اصل کتاب میں نہ دیکھ لیں تو کسی اور مصنف کے حوالہ سے اسے نقل نہ کریں۔ اگر بالفرض اصل کتاب نہ ملتی ہو تو جس کتاب سے حوالہ نقل کریں اس کا بھی ذکر کر دیں، مثلاً ”مطحاوی علی الدر بحوالہ اعلاءِ السنن ۳۲۸،“۔

## (۲۲) اگر سوال کے کاغذ پر پورا جواب نہ آئے

آداب افتاء میں سے یہ بھی ہے کہ اگر سوال کا پرچار ایسا ہو جس میں پورا جواب ایک طرف نہ آسکے تو ابتداء ہی سے نیا کاغذ استعمال میں نہ لائے، بلکہ سوال کے بعد متصلًا جواب شروع کر دے، اگر کاغذ کا پچھلا حصہ خالی ہو تو اس پر جواب لکھے، جب پچھلا حصہ بھی بھر جائے تواب نئے کاغذ کا استعمال کرے۔

## (۲۳) اہل مجلس کے سامنے فتویٰ سنانا

مفتي کے لئے ایک ادب یہ بھی ہے کہ وہ اپنے فتویٰ کو بطور مشورہ علماء اور اہل مجلس کے سامنے رکھے، اگرچہ وہ اس کے شاگرد ہی کیوں نہ ہوں، اور اگر فتویٰ میں کوئی بات باعثِ اشکال ہو تو اس پر نرمی اور انصاف کے ساتھ بحث و مباحثہ کرے، اور حق سامنے آجائے پر اسے قبول کرنے میں کوئی تأمل نہ کرے۔

## (۲۴) مستفتی کی کھجتی پر صبر

اگر مستفتی کم عقل اور خواہ مخواہ بحث کرنے والا ہو تو مستفتی کو چاہئے کہ ڈائنٹ پھٹکارنا کرے، بلکہ نرمی کے ساتھ پیش آئے، یہ بہت باعثِ اجر و ثواب ہے۔

## (۲۵) فتاویٰ کی نقل

اپنے فتاویٰ کی نقل رجسٹر میں محفوظ رکھنی چاہئے، یہ بہت سے فتنوں سے نجپنے کا ذریعہ اور اپنے علمی سرمایہ کی حفاظت کا بہترین انتظام ہے۔

## (۲۶) عورت اور بچہ کے ہاتھ سے استفتاء خود نہ لے

بعض علماء کا یہ معمول تھا کہ عورت اور بچہ کے ہاتھ سے خود استفتاء نہ لیتے تھے، بلکہ اپنے شاگردوں کو حکم کرتے تھے کہ وہ استفتاء وصول کر کے ان کے پاس لائیں، اس کے بعد جواب لکھتے تھے۔ ان کا یہ عمل علم کی تعظیم کی بنیاد پر تھا۔ (بحر) یہ نہایت اہم ادب ہے، اور اس فتنہ کے دور میں مفتی

کے لئے احتیاط کا تقاضا بھی یہی ہے۔

## (۲۷) راستہ میں فتویٰ پوچھا جائے تو کیا کرے؟

اگر مفتی سے سر راہ کوئی مسئلہ پوچھا جائے تو امام ابو بکر اسکاف<sup>ؓ</sup> نے فرمایا کہ اگر مسئلہ ظاہر ہو تو راستہ میں ہی جواب دے دے، اور اگر مسئلہ میں غور و فکر کی ضرورت ہو تو نہ بتائے، اور علامہ قاسم بن سلام<sup>ؓ</sup> کا معمول یہ تھا کہ وہ راہ چلتے ہرگز مسئلہ نہ بتاتے تھے، اور مستفتی کتنا ہی اصرار کرتا اسے ٹال دیتے تھے، اور فقیہ ابواللیث<sup>ؓ</sup> نے اس بارے میں یہ مشورہ دیا ہے کہ اولاً اسے راہ چلتے مسئلہ بتانے سے پہلو ہتھی کرنی چاہئے، لیکن اگر مستفتی زیادہ اصرار کرے تو بتا دینا چاہئے۔ (بج) یہی رائے انسب ہے۔

### تمرین:

- الف: سمجھی آداب حفظ یاد کریں، اور آپس میں مذاکرہ کرتے رہیں۔
- ب: تمرین افتاء کے دوران سمجھی آداب ملحوظ رکھیں۔

### مأخذ

مندرجہ بالا آداب کے مأخذ حسب ذیل ہیں:

(۱) البحر الرائق، کتاب القضاۓ فصل فی المفتی، فصل فی المستفتی

- ۲۶۵۱۶

(۲) فصل آداب الفتوى الخ عن شرح المهدب للإمام النووي۔ (یہ حصہ شرح

عقود رسم المفتی مطبوعہ سہارن پور کے شروع میں شامل ہے)

(۳) آداب افتاء، واستفتاء (ملفوظات: حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ، مرتبہ: مولانا محمد زید مظاہری)





## بعض مزید افادات

یہ افادات محقق العصر حضرت مولانا مفتی محمد تقی عثمانی صاحب زید مجدد ہم کے بعض امامی سے مأخوذه ہیں جو آس موصوف دارالعلوم کراچی میں درجہ تخصص فی الفقه کے طلبہ کو نوٹ کرتے ہیں۔ احقر کے پاس ان امامی کا ایک عکس ہے جو مولانا محمد صدیق ارکانی کا نقل کردہ ہے اور ۲۷ صفحات پر مشتمل ہے، اب یہ امامی ضروری تشریع کے ساتھ دو جلدوں میں ”المصباح“ کے نام سے شائع ہو گئے ہیں، جسے مولانا کمال الدین الراشدی بنگلہ دیشی نے ترتیب دیا ہے، اہل افتاء کے لئے یہ ایک مفید کتاب ہے۔ (مرتب)

### جدید مسائل میں فتویٰ کیسے دیا جائے؟

نئے زمانہ کے پیش آمدہ مسائل جن کا حکم متون اور شروحات وغیرہ میں صراحةً نہیں ملتا، ان کے متعلق فتویٰ دینے کے لئے مفتی مقلد کو درج ذیل طریقے اپنانے چاہیے:

- (۱) کتب فہریہ کا گہرائی سے مطالعہ کرے اور اگر کوئی جزئیہ مل جائے تو اس پر فتویٰ دے۔
- (۲) اگر صریح جزئیہ نہ مل سکے اور مفتی بالغ نظر بھی نہ ہو تو اسے مسائل جدیدہ میں خامہ فرسائی نہ کرنی چاہئے، بلکہ معاملہ بڑے مفتی صاحب کے حوالہ کر دینا چاہئے۔
- (۳) اگر مفتی بالغ نظر ہو اور اصول و قواعد سے بخوبی واقف ہو تو قواعد و نظائر کو سامنے رکھ کر مسئلہ کا حکم بیان کرے۔

(۴) اگر مسئلہ کے متعلق کوئی نظیر یا فقہی قاعدہ دستیاب نہ ہو تو بالغ نظر مفتی براہ راست نصوص شرعیہ سے حکم کا استنباط کر سکتا ہے۔

(۵) تاہم اس طرح کے مسائل میں ہم عصر علماء سے مشورہ کر لینا بہتر ہے، جلد بازی میں فتویٰ ہرگز نہ دیا جائے۔

## حکم کا مدار علت پر ہے حکمت پر نہیں

فتاویٰ دیتے وقت یہ بات پیش نظر رکھنی چاہئے کہ احکام شریعت کا مدار علت (یعنی وجود حکم کی علامت) پر رکھا جاتا ہے، اور حکمت (یعنی وہ فائدہ جو حکم شرعی سے حاصل ہو) پر حکم کا مدار نہیں ہوتا۔ بریں بنا اگر کسی جگہ علت پائی جائے مگر حکمت مفقود ہو تو حکم پایا جاتا ہے اور اگر حکمت موجود ہو لیکن علت نہ پائی جائے تو حکم کا بھی وجود نہ ہوگا، سمجھنے کے لئے دو مشالیں پیش نظر رکھیں:

(۱) سفر میں نماز قصر پڑھنے کی علت "سفر" ہے اور اس کی حکمت مشقت اور تنگی سے بچانا ہے، لہذا جب بھی سفر شرعی پایا جائے گا خواہ وہ کتنا ہی پر آرام کیوں نہ ہو قصر کا حکم ہوگا، اور مسافت سفر سے کم کا سفر خواہ کتنا ہی پر مشقت کیوں نہ ہو اس میں قصر کا حکم نہ ہوگا اس لئے کہ علت مفقود ہے۔

(۲) ایک عرفی مثال یہ ہے کہ بڑے چوراہوں پر ٹریک روکنے کے لئے ہری اور لال روشنیاں لگی رہتی ہیں، یہاں لال بتی ہونا رک جانے کی علامت ہے، اور گاڑیوں کو نکراوے سے بچانا حکمت ہے، بریں بنا جب بھی چوراہے پر لال بتی جل رہی ہو گی گاڑی رکنے کا حکم ہوگا خواہ تصادم کا اندیشہ ہو یا نہ ہو۔

## علت کے درجات

قوت و ضعف کے اعتبار سے علت کے مختلف درجات ہیں:

(۱) وہ علت جو صراحةً قرآن کریم میں ذکر کردی جائے، مثلاً رمضان المبارک کے دنوں میں رخصت افطار کی علت مرض اور سفر کو قرار دیا گیا، یہ علت کا سب سے مضبوط درجہ ہے۔

(۲) وہ علت جس کا ذکر احادیث شریفہ میں آیا ہو جیسے بدؤ صلاح سے قبل بچلوں کو بیچنے سے منع کیا گیا ہے اور اس کی علت یہ بیان فرمائی گئی کہ اُرأیتِ إن منع اللہ الشمرة بم يستحل مال أخيه اس سے معلوم ہوا کہ ممانعت کی اصل علت غرر ہے۔

(۳) وہ علت قرآن و سنت میں تومذکور نہ ہو لیکن فقهاء نے صراحةً اسے ذکر کیا ہو مشاً حنفیہ نے ربا الفضل کی علت قدر مع الجنس کو قرار دیا تو مقلدین احتفاظ کو اس علت کی پیروی کرنی لازم ہے۔

(۴) وہ علت جس کی فقهاء نے صراحتاً تو نہ کی ہو لیکن ان کے کلام سے مفہوم ہوتی ہو، مشاً فقهاء نے لکھا ہے کہ پرندے کے آیت سجدہ پڑھنے سے سجدة تلاوت واجب نہیں ہوتا، اس جزئیہ سے یہ علت مستفادہ ہوئی کہ سجدة تلاوت کے لئے انسان کا بال فعل تلاوت کرنا لازم ہے اور اسی سے یہ مسئلہ نکالا گیا کہ ٹیپ ریکارڈ میں آیت سجدہ سننے سے سجدة تلاوت واجب نہ ہوگا، لیکن یہ علت سب سے کمزور علت سمجھی جاتی ہے، اور اس میں اختلاف کی بہت گنجائش موجود ہے۔

## شرع منزَل اور شرع موَّال

یہ ایک خاص اصطلاح ہے جو شیخ ابو عبد اللہ الحسینی نے ایجاد کی ہے، ان کے نزدیک ”شرع منزَل“، ان احکامات شرعیہ کا نام ہے جو قرآن و سنت کی صریح نصوص میں مذکور ہیں، جب کہ ”شرع موَّال“، ان احکامات کو کہا جاتا ہے جو نصوص میں صراحتاً وارد نہیں ہیں بلکہ فقهاء نے اجتہاد کر کے ان کا استنباط کیا ہے۔ یہ دونوں قسم کے احکامات اگرچہ واجب العمل ہیں لیکن ان میں حیثیت اور مرتبہ کے اعتبار سے کچھ فرق ہے، وہ یہ کہ ”شرع منزَل“، اپنے الفاظ و معانی کے اعتبار سے دائیٰ ہے اور یہ احکامات اس عالم الغیب والشهادۃ کے عطا فرمودہ ہیں جس کا علم تمام عالم کی جزئیات کو محیط ہے اس لئے اس نے جو بھی حکم جاری کیا ہے وہ ماضی اور مستقبل کے تمام امور کو پیش نظر رکھ کر جاری کیا ہے۔ اس کے برخلاف ”شرع موَّال“، یعنی فقهاء کے مستنبط مسائل کے بارے میں یہ امکان موجود ہے کہ جس وقت انہوں نے کوئی مسئلہ تحریر کیا ہو تو اگرچہ اپنے زمانہ کے اعتبار سے تمام ممکنہ صورتوں کا استقصاء کر لیا ہو لیکن زمانہ مستقبل میں پیش آمدہ جدید صورتوں کا تصور ان کے خواب و خیال میں بھی نہ ہو تو

ایسی صورت میں ہو سکتا ہے کہ ہم آج کے کسی جدید مسئلہ کا حکم فقہاء قدیم کی کسی عام عبارت سے اخذ کریں حالاں کہ اس مسئلہ کا کوئی تصور فقہاء کے سامنے نہ رہا ہواں کی ہم تین مثالیں پیش کرتے ہیں:

## (۱) ہوائی جہاز میں نماز پڑھنے کا مسئلہ :

بعض علماء نے یہ کہہ کر ہوائی جہاز میں نماز پڑھنے کو منوع قرار دیا تھا کہ اس میں فقہاء کی تعریف کے مطابق سجدہ کا تحقیق نہیں ہوتا، اس لئے کہ فقہاء نے سجدہ کی تعریف اس طرح کی ہے: وضع الجبهہ علی الأرض أو على ما يستقر عليها او رہوائی جہاز نہ تو زمین ہے اور نہ اڑتے وقت زمین پر ٹکا ہوا ہے۔ لیکن اس دلیل کی بنیاد فقہاء کی بیان کردہ سجدہ کی تعریف پر ہے، حالاں کہ جس وقت فقہاء نے یہ تعریف کی ہے اس وقت ان کے ذہنوں دورتک میں بھی ہوائی جہاز کا مسئلہ نہیں تھا، اور انہوں نے اپنے زمانہ کے لحاظ سے ارض بول کر ایسی جگہ مراد لی تھی جس پر بآسانی چلا پھر اجا سکے، اور جو دب سکے اور چوں کہ اس زمانہ میں یہ اوصاف صرف زمین یا زمین پر بھی ہوئی چیزوں پر ہی پائے جاتے تھے اس لئے انہوں نے مذکورہ تعریف فرمائی تھی، لیکن ہوائی جہاز کے ایجاد کے بعد یہ پتہ چلا کہ یہ صفات ہوائی معلق چیز پر بھی پائی جاسکتی ہیں، لہذا ہوائی جہاز میں بھی سجدہ کا تحقیق ہو جانا چاہئے اور فقہاء کی قدیم تعریف کو عدم جواز کی دلیل نہیں بنانا چاہئے۔

## (۲) لا ڈا سپلیکر پر نماز کا مسئلہ :

اسی طرح بعض علماء نے لا ڈا سپلیکر پر نماز کو اس بناء پر منوع قرار دیا تھا کہ اسپلیکر کی آواز امام کی آواز سے الگ ہے اور یہ ایک خارج شخص کی اتباع کے مرادف ہے، لیکن ظاہر ہے کہ جب فقہاء نے خارج نماز شخص کی اتباع سے فساد صلاة کا حکم دیا تھا تو اس وقت ان کے ذہنوں میں لا ڈا سپلیکر کا تصور تک نہ تھا، لہذا شخص فقہاء کے بیان کردہ اس جزئیہ سے لا ڈا سپلیکر کی نماز کو فاسد نہیں قرار دیا جاسکتا۔ اور وجہ یہ ہے کہ لا ڈا سپلیکر خواہ امام کی عین آواز ہو یا غیر ہو، جب وہ آلمہ غیر مختار سے نکل رہی ہے تو اس کا انتساب اس آلہ کی طرف نہ ہو کر کے متكلم ہی کی طرف ہوگا۔ (یہی

بات ٹیپ ریکارڈ سے سنی ہوئی آیت سجدہ کے بارے میں بھی کہی جا سکتی ہے۔ مرتب)

### (۳) شیرز کمپنیاں :

فقہاء کے زمانہ میں شرکت کی صرف چار الگ الگ قسمیں متصور اور راجح تھیں: (۱) شرکت مفاوضہ۔ (۲) شرکت عنان۔ (۳) شرکت وجہ۔ (۴) شرکت صنائع۔ لیکن یہ چاروں قسمیں کتاب و سنت میں منصوص نہیں ہیں اور نہ یہ ثابت ہے کہ ان قسموں کے علاوہ اور کوئی قسم مشروع ہی نہیں، لہذا اگر فقہاء کے زمانہ کے بعد شرکت کی کوئی ایسی نئی قسم وجود میں آئے جو مذکورہ چار قسموں میں سے کسی قسم کے تحت داخل نہ ہو سکے تو اس وقت تک ناجائز نہیں کہا جا سکتا ہے جب تک کہ کوئی اور مانع شرعی اس میں نہ پایا جائے، اسی سے شیرز کے کار و بار کا حکم معلوم کیا جا سکتا ہے کہ اسے محض اس وجہ سے منوع قرار نہیں دیا جا سکتا کہ وہ فقہاء کی بیان کردہ شرکت کی کسی قسم میں پوری طرح داخل نہیں ہے۔ (آفادات: مولانا مفتی محمد تقی عثمانی زید مجدد)

(لیکن شیرز کا مسئلہ ابھی تک علماء و مفتیاں کے نزدیک زیر بحث ہے، اور اسٹاک ایکس چینج یا ائرنسیٹ پر بیٹھے بیٹھے شیرز کی خرید و فروخت زیادہ تر مشتبہ اور بہت سی صورتوں میں قطعاً ناجائز ہے، اس لئے کہ شیرز مارکیٹ میں بہت سی ایسی کمپنیوں کے شیرز بھی بکتے ہیں جن کی اصل کا صرف کاغذوں میں وجود ہوتا ہے حقیقت میں وجود نہیں ہوتا، اس لئے یہ موضوع بڑی تفصیل اور تحقیق کا مقاضی ہے) (مرتب)

اللَّهُمَّ وَفِقْنَا لِمَا تَحْبَبْ وَتَرْضَاهُ وَاعصَمْنَا عَنِ الْضَّلَالِ وَالْغَيْ وَالْمَيْلِ إِلَى الشَّيْطَانِ وَمَا يَهْوَاهُ۔ آمِينٌ يَا رَبَّ الْعَالَمِينَ بِرَحْمَتِكَ يَا أَرْحَمَ الرَّاحِمِينَ۔



# فتویٰ نویسی کے رہنماء اصول

علامہ ابن عابدین شامی رحمۃ اللہ علیہ (المتوفی ۱۲۵۲ھ) کی  
معارکۃ الآراء کتاب ”شرح عقودرسم المفتی“، کی تنجیص،  
اصولوں کی مثالوں سے تطبیق اور تمرینات



خاتم الفقهاء علامہ سید محمد امین عابدین بن عمر عابدین الحسینی الشامی (۱۲۵۲ھ)

## کا

# مختصر تعارف

## پیدائش اور تعلیم:

علامہ شامی کی پیدائش ۱۱۹۸ھ میں دمشق میں ہوئی، بہت کم عمر میں آپ نے قرآن کریم حفظ کر لیا، اور اس کے بعد آپ اپنے والد ماجد کی تجارت میں ہاتھ بٹانے لگے۔ ایک مرتبہ دوکان پر بیٹھے ہوئے آپ قرآن کریم پڑھ رہے تھے کہ ایک نامعلوم شخص کا وہاں سے گزر ہوا، اس نے جب آپ کو قرآن پڑھتے ہوئے سناتا بہت ڈانتا اور کہا کہ اولاً تو یہ بازار قرآن پڑھنے کی جگہ نہیں ہے، کیوں کہ تم پڑھتے ہی رہو گے اور لوگ اسے نہیں سنیں گے، جس کی وجہ سے وہ گناہ کے مرتكب ہوں گے، دوسرے یہ کہ تمہارے پڑھنے میں فخش غلطیاں پائی جاتی ہیں۔ یہ کہہ کروہ شخص تو چلا گیا اور علامہ شامی فوراً وہاں سے اٹھے اور اپنے زمانہ کے مشہور قاری شیخ سعید الحموی کی خدمت میں حاضری دے کر اولاً فن قراءت میں مہارت حاصل کی، اور اس کے بعد نحو و صرف اور فقہ شافعی کی کتابیں انہیں سے پڑھیں۔ بعد ازاں آپ نے علامۃ الدہرامام العصر سید محمد شاکر سالمی الحفنی کی شاگردی اختیار کی اور ان سے تمام علوم عقلیہ و نقلیہ، حدیث و تفسیر اور فقہ حنفی کو حاصل کیا، یہاں تک کہ اپنے استاذ کی زندگی ہی میں آپ کی علمی استعداد کی شہرت ہو گئی، دورانِ طالب علمی آپ نے بعض کتابوں کی شروعات بھی لکھی۔ ”شرح منار“ اسی زمانہ کی یادگار ہے، ابھی آپ کی عمر کل ۲۲ رسال کی تھی اور

آپ کی تعلیم کا سلسلہ جاری ہی تھا کہ آپ کے استاذ شیخ محمد شاکر گا وصال ہو گیا، اس وقت آپ اپنے استاذ محترم سے البحralائق، ہدایہ، اور اس کی شروحات پڑھ رہے تھے، شیخ محمد شاکر گی وفات کے بعد شیخ کے سب سے جلیل القدر شاگرد شیخ محمد سعید الحنفی کے سامنے آپ نے زانوئے تلمذ تھے کیا اور تعلیم کی تکمیل کے بعد آپ نے فقہ حنفی کی مشہور جامع ترین کتاب ”در مختار“ کا بے نظیر حاشیہ ”در المختار“ کے نام سے لکھنا شروع کیا، اور اس دوران بہت سے رسائل اور حواشی الگ سے تحریر کئے، جن میں سے بعض رسائل ”مجموعہ رسائل ابن عابدین“ میں شائع ہو چکے ہیں۔

### علمی انہماک :

علامہ شامیؒ پوری زندگی مکمل یکسوئی کے ساتھ علمی مشاغل میں مشغول رہے، آپ کی رات کا اکثر حصہ تالیف و تحریر میں گذرتا اور پورا دن درس و تدریس، افادہ و افتاء میں گزرتا تھا۔ کتابوں کو جمع کرنے کا آپ کو بہت شوق تھا، اور اس بارے میں آپ کے والد ماجد آپ کا ہر ممکن تعاون فرماتے تھے، انہوں نے کہہ رکھا تھا کہ جو کتاب بھی تمہیں چاہئے، خریدو، قیمت میں ادا کروں گا۔ چنانچہ آپ کا ذاتی کتب خانہ بے مثال اور عدیم النظیر تھا، پھر آپ کتابوں کو بہت غور و فکر سے پڑھتے تھے، اور مطالعہ کے دوران جو بھی اشکال و جواب یا تنبیہ کی بتائیں سامنے آتیں تو آپ حاشیہ میں اس پر نوٹ لگادیتے تھے اور کوئی ٹکٹک عبارت ہوتی تو اس کی وضاحت بھی لکھ دیتے اور کوئی غلط عبارت سامنے آتی تو اس کی اصلاح فرمائے اور مناسب افادہ بھی نوٹ فرماتے تھے۔

### علمی گیرائی :

اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو فقاہت کے بلند مرتبہ پر فائز کیا تھا، جس مسئلہ پر بھی آپ بحث فرماتے دیلیں سے اسے مضبوط فرمادیتے۔ علامہ شامیؒ کے ایک شاگرد علامہ محمد آفندی جاہیزادہ (جو خلافتِ عثمانیہ میں مدینہ منورہ کے قاضی تھے) کا بیان ہے کہ خلافتِ عثمانیہ کے مفتی اعظم شیخ الاسلام عارف عصمت بیگؒ نے ان سے اس خواہش کا اظہار کیا کہ ”میری یہ تمنا ہے کہ علامہ شامیؒ مجھے بطور برکت کے اجازت مرحمت فرمائیں“، آپ کے ایک شاگرد مفتی اعظم پیروت شیخ محمد آفندی الحلوانی

کا بیان ہے کہ ”میں نے علامہ شامی جیسا درس کسی کا نہیں سنا، میں آپ کے درس میں جانے سے پہلے تمام شروح و حواشی وغیرہ کا مطالعہ کر کے جاتا تھا اور اپنی دانست میں یہ سمجھ لیتا تھا کہ شاید ہر اشکال و جواب پر مجھے قابو ہو گیا ہے، لیکن جب علامہ شامی کے درس میں جاتا تو آپ ایسے عجیب و غریب فوائد و افادات سے مستفید فرماتے کہ ہمارے قلب و دماغ وہاں تک رسائی حاصل نہ کر سکتے تھے۔ یہی وجہ تھی کہ اطراف و اکناف سے بڑے بڑے علماء آپ سے شرف اجازت حاصل کرنے کی غرض سے آپ کی خدمت میں حاضری دیتے تھے، اور آپ کے تلمذہ کا دائرہ بہت وسیع تھا۔

### فقہی مقام :

آپ اپنے زمانہ کے مسلم مفتی اعظم تھے، اطرافِ عالم میں جو بھی نیا مسئلہ وجود پذیر ہوتا تو دیگر علماء و اکابر مفتیان کے ساتھ اس کے متعلق آپ سے بھی استقتاء کیا جاتا، آپ کے فتویٰ کی اہمیت اتنی زیادہ تھی کہ اگر کوئی قاضی غلط فیصلہ کر دیتا اور مظلوم علامہ شامی کا فتویٰ اپنے حق میں لے جاتا تو قاضی کو اپنا فیصلہ بدلا پڑتا۔ لوگوں کے قلوب میں آپ کی تحریر کی اس قدر عظمت تھی کہ اگر گاؤں دیہات میں بھی آپ کا فتویٰ پہنچ جاتا تو لوگ آپ کی بات پر خاموش ہو جاتے اور بلاچون وچرا اُسے تسلیم کر لیتے تھے۔

### اخلاق و عادات :

آپ نہایت باوقار، بردبار اور خوش اخلاق تھے، آپ کے ایک شاگرد جو سفر حج میں آپ کے رفیق تھے، کہتے ہیں کہ میں نے پورے سفر میں آپ سے کوئی ایسی نازیبیاں نہیں سنی جس سے آپ کے کسی رفیق سفر کونا گواری ہوئی ہو، الیہ کہ کوئی مکر شرعی آپ کے سامنے آتا تو آپ کے تیور بدل جاتے، آپ کے چہرہ سے ایمانی نور چمکتا نظر آتا تھا، اور بشاشت پھوٹ پڑتی تھی، جو بھی آپ سے ایک مرتبہ لیتا وہ آپ کی توضیح اور خوش کلامی کو ہمیشہ یاد رکھتا۔ آپ کی مجلس پر افادہ ہوتی تھی، جس میں ہر وار دو صادر کا حد درجہ اکرام کیا جاتا، اور نخش کلامی اور غیبت وغیرہ سے کلی اجتناب ہوتا تھا، آپ کی مبارک مجلس میں حاضر ہونے والا شخص یہ محسوس کرتا کہ علامہ کی نظر میں وہ ان کی حقیقی

اولاد سے زیادہ باعزت ہے، دین کے معاملہ میں آپ نہایت جری واقع ہوئے تھے، جوبات مسئلہ کے اعتبار سے غلط دیکھتے اس پر کھل کر نکیر فرماتے، اور اس بارے میں کسی کے طعن و تشنیع کا خیال نہ فرماتے، اور نہ کسی حاکم سے مرعوب ہوتے، تقوف و سلوک میں آپ کا تعلق سلسلہ قادریہ سے تھا۔

## ذوقِ عبادت :

علامہ موصوف رحمت اللہ علیہ مشاغل کے ساتھ ساتھ عبادت کے بھی حد درجہ شوqین تھے، رمضان المبارک میں ہرات پورا قرآن کریم کامل تدبر کے ساتھ ختم کرنے کا معمول تھا، اور ویسے بھی عام طور پر آپ کی راتیں تلاوت قرآن کریم اور گریدہ وزاری میں گذرتی تھیں، اور آپ ہمہ وقت باوضو رہنے کی کوشش فرماتے تھے، زمانہ طالب علمی میں ہندوستان کے مشہور بزرگ اور عالم ملا عبدالنبی (جو شام کے سفر پر گئے ہوئے تھے) نے آپ کو دیکھ کر فرمایا تھا کہ ”اس صاحب زادے کی پیشانی سے آل نبوت کا نور بھلک رہا ہے، اور یہ بچا پنے دور میں نہایت قابلِ عظمت ہوگا“۔

## ورع و تقویٰ :

آپ ورع و تقویٰ کے اعلیٰ مقام پر فائز تھے، پوری زندگی تجارت کے ایک مشترکہ کار و بار کی آمد نی پر گزر بس رکرتے رہے، اور لوگوں سے کامل استغناء کے ساتھ زندگی گزاری۔ ایک مرتبہ آپ کو ایک غیر راجح قول پر فتویٰ دینے کے لئے دراهم کے چچاں تھیلے دینے کی پیش کش کی گئی، لیکن آپ نے انہیں قبول کرنے سے صاف انکار کر دیا، نیز کبھی آپ نے کسی ضرورت مند سے ہدیہ قبول نہیں کیا، اسی طرح اوقاف کی تولیت سے بھی انکار کر دیا۔

## جود و سخا :

اللہ تعالیٰ نے آپ کو جود و سخا کی صفت سے بھی مالا مال فرمایا تھا، مستحق فقراء اور اعزاء پر آپ اکثر خرچ فرماتے رہتے، اور بالخصوص اہل علم کی خبرگیری فرماتے، مساجد و غیرہ کی تعمیر میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیتے، اور فقراء اور بیوگان کی امداد فرماتے رہتے، نیز اہل حاجات کی سفارش میں بھی در بغ

نہ فرماتے، عموماً آپ کی سفارشات سے ضرورت مندوں کو نفع ہوتا تھا۔

## والدین کے ساتھ حسنِ سلوک :

آپ اپنے والدین کے ساتھ انہائی حسنِ سلوک فرمانے والے تھے، آپ کے والد ماجد کا جب ۷۲۳ھ میں انقال ہو گیا تو آپ کا معمول تھا کہ روزانہ رات میں سوتے وقت والد صاحب کے لئے قرآن کریم کا کچھ حصہ پڑھ کر ایصالِ ثواب کرتے تھے۔ ایک مہینہ کے بعد آپ نے والد صاحب کو خواب میں دیکھا کہ وہ فرمار ہے ہیں: ”بیٹی! اللہ تمہیں ان تھالف پر جزاء خیر عطا فرمائے جو تم مجھے ہر رات پیش کرتے ہو“۔ آپ کی والدہ ماجدہ بھی بڑی عابدہ زادہ اور صابرہ خاتون تھیں وہ آپ کی وفات کے دو سال بعد تک زندہ رہیں اور اس عرصہ میں ان کا برابر معمول رہا کہ ہر ہفتہ ایک لاکھ مرتبہ سورہ اخلاص پڑھ کر اپنے صاحبزادے (علامہ شامی) کو ایصالِ ثواب فرماتی تھی۔ علامہ شامیؒ کے پچاشیخ صالح رحمۃ اللہ علیہ ایک صاحبِ کشف بزرگ تھے، انہوں نے ہی آپ کا نام آپ کی پیدائش سے پہلے رکھا تھا، وہ آپ کو اپنی گود میں کھلاتے تھے اور فرماتے تھے کہ ”میں تیرے سر پر سیادت کا تاج رکھوں گا۔“

## علمی آثار و باقیات :

آپ نے اپنے بعد لاائق شاگردوں کی ایک جماعت کے علاوہ مفید اور قیمتی تالیفات کا ذخیرہ بھی چھوڑا جو آپ کے لئے عظیم الشان صدقہ جاریہ ہے، ان تالیفات میں سب سے زیادہ مقبول اور منتداول کتاب ”رد المحتار حاشیۃ الدر المختار“ ہے جو اس وقت پورے عالم میں فقہ حنفی کی سب سے جامعاور مستند کتاب بھی جاتی ہے، اور جس کی قبولیت عند اللہ اظہر من الشیعہ ہے، بلاشبہ یہ آپ کے کامل اخلاق کی کھلی ہوئی نشانی ہے، آج کوئی بھی حنفی مفتی اس کتاب سے مستعنی نہیں ہے۔ اسی طرح ”شرح عقد درسم المفتی“ بھی نہایت مشہور اور مقبول کتاب ہے، آپ کے دیگر رسائل کی تفصیل اور شاگردوں کے اسماء گرامی رد المحتار کے تکملہ ”قرۃ عیون الالحیا“ میں ملاحظہ کئے جاسکتے ہیں۔

## وفات :

۲۱ مرربيع الثانی ۱۴۵۲ھ کو صرف ۵۶ رسال کی عمر میں علم و عمل اور فقہ و افتاء کا یہ آفتاب دمشق میں غروب ہو گیا، وفات سے ۲۰ ردن قبل علامہ موصوفؒ نے اپنی قبر خود ہی صاحب در مختار شیخ علاء الدین حکیمؒ اور شیخ صالح الحسینیؒ کے پہلو میں تیار کر دی تھی، جس میں آپ کو دفن کیا گیا، شیخ سعید الحلبیؒ نے آپ کی نمازِ جنازہ پڑھائی۔ جنازہ میں اتنا مجع تھا کہ جس کی نظیر نہیں ملتی۔ مجع کی کثرت کی وجہ سے لغش مبارک انگلیوں پر اٹھانی پڑی، اور مجع کو کنٹرول کرنے کے لئے فوجی انتظامات کا سہارا لینا پڑا۔ شہر اور علاقہ کے بڑے چھوٹے، مردوں عورت سب پر گریہ و بالا طاری تھا، زبردست بھیڑ کی وجہ سے ”جامع مسجد سنان پاشا“ میں آپ کی نمازِ جنازہ پڑھی گئی۔ پوری مسجد اور اس سے ملحقہ راستے نمازوں سے اٹے پڑے تھے، جب کہ دنیا کے مختلف علاقوں میں آپ کے لئے غالبہ نمازِ جنازہ بھی پڑھی گئی۔ رحمہ اللہ تعالیٰ رحمةً واسعةً ونفعنا بعلومنہ، آمين۔

(یہ مضمون علامہ شامیؒ کے صاحب زادے سید محمد علاء الدین آفندی کے ”مقدمہ تتملہ رد المحتار“، کی تخلیص ہے)





## فقہاء، ترجمانِ شریعت ہیں !

اس کتاب ”شرح عقود رسم المفتی“ کے مطالعہ سے آپ یا اندازہ لگائیں گے کہ اس میں فقہ حنفی سے تعلق رکھنے والے مفتیان کرام کو آخری حد تک فقہی کتابوں اور ان کی عبارات سے واپسی کا حکم دیا گیا ہے، اور کتاب میں بحث کے دوران بالخصوص فقہی عبارات ہی کو اصل نصوص کے درجہ میں رکھا گیا ہے، اور عموماً کتاب و سنت سے بحث نہیں کی گئی ہے۔

اسے دیکھ کر بادی النظر میں کسی کو یہ شبہ ہو سکتا ہے کہ فقہ حنفی کا سارا مدار فقہی عبارات پر ہے نہ کہ کتاب و سنت پر! تو اس سلسلہ میں یاد رکھنا چاہئے کہ ہمارے نزدیک فقہاء کو جو مقام حاصل ہے وہ ذاتی حیثیت سے نہیں ہے بلکہ اس حیثیت سے ہے کہ انہوں نے قرآن و سنت اور نصوص معتبرہ سے جس طرح دین کو سمجھا ہے اس پر ہمیں اعتماد ہے، تو اصل مأخذ تو بہر حال قرآن و حدیث ہی ہے اس سے کسی مسلمان کو انکار کی گنجائش نہیں لیکن نصوص شریعت پر کامل نظر اور راجح و مرجوح اور ناخ و منسوخ کا علم ہر ایک کو یکساں طور پر حاصل نہیں ہو سکتا، اس لئے لازم ہے کہ کم علم لوگ اپنے سے اوپر درجہ کے علماء کی فہم و بصیرت پر اعتماد کریں، دراصل اسی اعتماد کا نام ”تقلید“ ہے۔ جس طرح ایک عامی آدمی محلہ کی مسجد کے امام صاحب یا کسی معتبر مفتی سے کوئی شرعی مسئلہ پوچھ کر عمل کرتا ہے تو کوئی یہ شبہ نہیں کرتا کہ یہ شخص قرآن و سنت کو چھوڑ کر امام مسجد یا مفتی کی رائے پر عمل کر رہا ہے، کیوں کہ سب کو معلوم ہے کہ امام صاحب یا مفتی صاحب اپنی ذات کے اعتبار سے لاائق اتباع نہیں بلکہ ترجمانِ شریعت ہونے کے اعتبار سے لاائق اطاعت ہیں، بالکل یہی معاملہ فقہاء کا بھی ہے کہ وہ لوگ جو نصوص اور ان کے معانی پر پوری بصیرت نہیں رکھتے وہ با بصیرت فقہاء پر اعتماد کرتے ہوئے

شرعی مسائل میں ان کے بیان کردہ حکم کو بلا چون و چرا قبول کرتے ہیں اور وہ ان فقہاء کو شریعت کا سچا ترجمان سمجھتے ہیں۔ اور جو لوگ فقہاء اور متفقین میں علماء کے مقابلہ میں اپنی کم علمی کے معترض ہیں انہیں اپنے بڑوں کی اتباع کے علاوہ کوئی اور مشورہ بھی نہیں دیا جاسکتا، اس لئے کہ اگر ایسے لوگوں کو ”اتباع اکابر“ کے بجائے خود استنباط و اجتہاد کی ترغیب دی جائے گی تو یقیناً گمراہی پھیلے گی، اور دین کھیل تماشا بن جائے گا جیسا کہ ہر دور کے بزم خود مجتہدین اور جدت پسند انشوران قوم اس طرح کی بے جسارت کرتے آتے ہیں اور برابر کر رہے ہیں۔ اس لئے دین کو مذاق کا موضوع بنانے سے بچانے کے لئے لازم ہے کہ ہم اپنے بڑوں پر اعتماد کریں اور ان کی جامع اور دور اندیش آراء سے استفادہ کی کوشش کریں۔

اسی نظریہ کو ذہن و دماغ میں راستخ کرنے کی اس کتاب میں کوشش کی گئی ہے، مگر اس کا مطلب محض جمود یا اندھی تقليد نہیں ہے، چنانچہ اسی کتاب میں آپ پڑھیں گے کہ ضرورتِ زمانہ یا عرف کی تبدیلی کی بنیاد پر احکامات میں تبدیلی پر مبسوط بحث موجود ہے اسی طرح ضرورتِ مند کے لئے مجبوری کے وقت ضعیف قول اپنانے کی بھی گنجائش دی گئی ہے، نیز باصلاحیت علماء و فقہاء و مفتیان کو اپنے علم کی بنیاد پر تحریک و استنباط کی بحث بھی اسی وسیع الظرفی اور روشن خیالی کی دلیل ہے۔ الغرض فقہ اسلامی ذہنی جمود کی ہرگز قائل نہیں ہے جیسا کہ جدت پسندوں کی طرف سے پیدا پیغمندا کیا جاتا ہے، بلکہ قیامت تک جتنے بھی مسائل پیش آتے رہیں گے انہیں برابر فقہ کی روشنی میں شرعی حدود میں رہ کر حل کیا جاتا رہے گا۔ الحمد للہ یہ سلسلہ دراول سے آج تک بلا کسی انقطاع کے جاری ہے، آج بھی جب کوئی نئی صورت پیش آتی ہے تو علماء اس کے ہر پہلو پر غور کر کے حکم کا تعین کرتے ہیں۔ اور مسائل کے حل کے لئے انفرادی اور اجتماعی کوششیں کی جاتی ہیں۔ مگر یہ سب کوششیں اسی دائرہ میں رہ کر ہوتی ہیں جو شریعت نے متعین کیا ہے، جس سے تجاوز کرنے کی کسی کو جاہزت نہیں ہے۔

اللہ تعالیٰ ہم سب کو ہدایت پر استقامت نصیب فرمائیں، اور ہر قسم کی زلات اور کج روی سے محفوظ رکھیں، آمین۔

# فتویٰ نویسی کے رہنمای اصول

## (۱) فتویٰ صرف راجح روایت پر دیا جائے

مفتي پر ضروري ہے کہ اسی قول پر فتویٰ دے:

الف : جس کو علماء مذہب نے صراحةً راجح قرار دیا ہو۔

ب : یا جو قول ظاہر الروایہ (۱) میں مردی ہو (کیوں کہ متعدد اقوال میں سے کسی ایک کی صراحةً ترجیح نہ ہونے کی صورت میں ظاہر الروایہ خود بخود ترجیح کو متنضم ہوتی ہے)

## وضاحت

علامہ شامی<sup>ؒ</sup> نے اس اصول کے ضمن میں فرمایا ہے: کہ مقلد کے لئے (خواہ وہ مفتی ہو یا قاضی) کسی حال میں بھی غیر راجح قول پر فتویٰ دینا جائز نہیں اور فی الجملہ مجتہد کے لئے بھی اصل حکم یہی ہے، یعنی اگر دلائل متعارض نہ ہوں اور وہ ترجیح سے عاجز نہ ہو تو اس پر بھی اپنے نزدیک راجح قول ہی کی اتباع لازم ہے۔ ہاں اگر اس کے سامنے دلائل میں اتنا تعارض ہو کہ وہ ترجیح سے عاجز ہو جائے تو ایسی صورت میں مجتہد کے لئے گنجائش ہوتی ہے کہ وہ متعدد آراء میں سے جس رائے کو چاہے اختیار کر لے۔ علامہ قرافی مالکی<sup>ؒ</sup> (المتوفی ۶۸۲ھ) کے کلام سے یہی معلوم ہوتا ہے۔ علاوہ ازیں علامہ ابن حجر عسکری<sup>ؒ</sup> (المتوفی ۹۹۵ھ) علامہ ابن صالح<sup>ؒ</sup> (المتوفی ۶۲۳ھ) علامہ باجی مالکی<sup>ؒ</sup> (المتوفی ۷۴۲ھ) اور علامہ قاسم بن قطلو بغا<sup>ؒ</sup> (المتوفی ۸۲۹ھ) وغیرہ مشائخ سے بھی غیر راجح پر (۱) ظاہر الروایہ ان مسائل کو کہا جاتا ہے جو امام محمدؓ کی کتب ستہ مبسوط، زیادات، جامع صغیر، جامع کبیر، سیر صغیر اور سیر کبیر میں مذکور ہیں۔

فتوى دینی کی ممانعت منقول ہے، ان حضرات نے متفقہ طور پر نفسانیت کی نہمت اور غور و فکر کے بغیر محض اندازے سے کسی قول کا اختیار کرنے پر نکیر کی ہے۔ (اعلم بآن الواجب اتباع ما۔ س ۲۵۱۸ إلی قوله إنه لا يجوز. ص ۲۷۹)

## راجح پر فتویٰ کی مثالیں

### (۱) مسوک سنت ہے :

مسوک کے بارے میں فقہ میں دور و ابیتیں ملتی ہیں:

(۱) اول یہ کہ وہ مطلقاً مستحب ہے، علامہ زیلیعیٰ صاحب نصب الرایہ (المتوفی ۶۲ھ) اسی طرح علامہ ابن الہمام (المتوفی ۸۲۱ھ) نے اسی روایت کو حق کہا ہے۔

(۲) دوسرا قول مسوک کے سنت ہونے کا ہے اکثر فقهاء اور اصحاب متون نے اسی سنت کے قول کو ترجیح دی ہے، لہذا امفتی پر لازم ہوگا کہ وہ اکثر مشائخؒ کی ترجیحات کے پیش نظر مسوک کے سنت ہونے کا فتویٰ دے۔ ثم قيل أنه مستحب لأنه ليس من خصائص الوضوء وصححه الزيلعي وقال في الفتح أنه الحق لكن في شرح منية المصلى وقد عده القدورى والأكثرون من السنن وهو الأصح قلت وعليه المتون. (رد المحتار مع الدر

المختار ۱۱۳۱، شامی زکریا (۲۳۳۱)

### (۲) وتر واجب ہے :

حضرت امام ابوحنیفہ (المتوفی ۱۵۰ھ) سے وتر کے متعلق تین روایتیں مردی ہیں: (۱) فرض ہے۔ اس روایت کے راوی حماد بن زید (المتوفی ۱۰ھ) ہیں۔ (۲) واجب ہے۔ یہ روایت یوسف بن خالد اسمیٰ (المتوفی ۱۹۰ھ) نے نقل کی ہے۔ (۳) سنت موکدہ ہے۔ اس کے نقل کرنے والے نوح بن ابی مریم المرزوqi (المتوفی ۱۰۰ھ) ہیں، اور حضرات صاحبینؒ کا قول بھی یہی ہے۔ مگر مشائخ احتجاف نے ان تین روایتوں میں سے وجوب کی روایت کو ترجیح دی ہے، لہذا امفتی

اسی پرفتوئی دینے کا پابند ہو گا۔ فعند أبی حنیفة فیه ثلاث روایات: روی حماد بن زید عنہ أنه فرض. وروی یوسف بن خالد السمنی أنه واجب. وروی نوح بن أبی مريم المرزوی فی الجامع عنہ أنه سنة، وبهأخذ أبی یوسف و محمد رحمہما اللہ الخ. ونحن نقول إنها ليست بفرض ولكنها واجبة وهي آخر اقوال أبی حنیفة، والرواية الأخرى محمولة على ما قبل الوجوب. (بدائع الصنائع ۲۷۱۱)

### تیرین: ۱

- الف: مذکورہ بالامثالوں کی تائید کرنے والی فقہی عبارتیں کم از کم تین فقہی کتابوں سے نکال کر مشق کی کاپی میں نقل کریں۔
- ب: اس طرح کی مزید تین مثالیں تلاش کر کے لکھیں اور حوالہ کی عبارت نقل کریں۔

## ظاہر الروایہ پرفتوئی کی مثالیں

### (۱) قضاشدہ نمازوں کے لئے الگ الگ اذانوں کا مسئلہ :

امام محمد (المتون ۱۸۹ھ) سے ظاہر الروایہ اور حضرات شیخین کا مذہب یہ ہے کہ اگر متعدد قضا نمازیں جمع ہو جائیں تو ان میں سے پہلی نماز کے لئے اذان واقامت دونوں کہی جائیں گی اور بعد کی نمازوں میں اختیار ہے چاہے اذان واقامت دونوں کہیں یا صرف اقامت پر اکتفاء کریں، اس کے برخلاف حضرت امام محمد سے غیر ظاہر الروایہ میں یہ صراحت منقول ہے کہ پہلی نماز کے علاوہ بعد کی کسی بھی نماز کے لئے اذان نہ پڑھی جائے، تو یہاں مفتی ظاہر الروایہ پرفتوئی دے گا، غیر ظاہر الروایہ کو اختیار نہیں کرے گا۔ قال فی الہدایۃ: فَمَنْ فَاتَتْهُ صَلَوَاتُ اذْنِ الْأُولَى وَأَقَامَ لِمَا رَوَيْنَا وَكَانَ مُخِيَّرًا فِي الْبَاقِيِّ إِنْ شَاءَ اذْنَ وَأَقَامَ لِيَكُونَ الْقَضَاءُ عَلَى حِسْبِ الْأَدَاءِ وَإِنْ شَاءَ اقْتَصَرَ عَلَى الإِقْامَةِ لَأَنَّ الْأَذْنَ لِالسَّتْحَضَارِ وَهُمْ حَضُورٌ وَقَالَ وَعَنْ مُحَمَّدٍ أَنَّهُ يَقِيمُ لِمَا بَعْدُهَا وَلَا يَؤْذِنُ، وَفِي فَتْحِ الْقَدِيرِ قَوْلُهُ وَعَنْ مُحَمَّدٍ هُوَ فِي غَيْرِ

## (۲) مزارعات کی یہ صورت باطل ہے :

حضرات صالحینؐ سے ظاہر الروایہ میں یہ مذهب منقول ہے کہ اگر مزارعات میں ایک جانب ز میں اور بیل (یا ٹریکٹر وغیرہ) اور دوسری جانب نجح اور کام کی شرط لگائی تو یہ معاملہ باطل ہے۔ اور امام ابو یوسفؓ سے غیر ظاہر الروایہ میں یہ قول نقل کیا گیا ہے کہ اس صورت میں بھی گنجائش ہے، یہاں فتویٰ ظاہر الروایہ پر دیا جائے گا اور غیر ظاہر الروایہ کو چھوڑ دیا جائے گا۔ وإن کانت الأرض والبقر لواحد والبذر والعمل لأنخر فهـى باطلة وهذا الذى ذكرناه ظاهر الروایة وعن ابـی یوسف أنه یجوز أيضـاً۔ (هدایہ ۴۱۰۳)

### تمرين ۲:

- الف: دوسری مثال کی دلیل اپنے الفاظ میں لکھئے اور حوالہ میں ۳ رباعاتیں پیش کیجئے۔
- ب: ظاہر الروایہ پر فتویٰ کی ۳ مثالیں تلاش کر کے تحریر کیجئے۔

## (۲) غیر ظاہر الروایہ پر فتویٰ

اگر کوئی مسئلہ ایسا ہو کہ جہاں کسی علت کی بنا پر مذهب کی ظاہر الروایہ کو چھوڑ دیا گیا ہو اور معتبر علماء مذهب نے غیر ظاہر الروایہ پر فتویٰ دینے کی تصریح کی ہو تو اس وقت مفتی مقلد پر لازم ہے کہ وہ علماء مذهب کی اتباع کرتے ہوئے مذهب کی ظاہر الروایہ کو چھوڑ دے۔

### اصول نمبر ۲ کا مأخذ

یہ ضابطہ درج ذیل شعر سے مفہوم ہوتا ہے:

او کان ظاہر الروایة و لم یرجحوا خلاف ذاک فاعلم

اس شعر میں ظاہر الروایہ کو معمول بے بنانے کا حکم اس شرط کے ساتھ مشروط ہے کہ علماء مذہب نے اس کے خلاف کسی اور روایت کو ترجیح نہ دی ہو۔ لہذا جب یہ شرط نہ پائی جائے گی تو ظاہر الروایہ کی پابندی کا حکم بھی ختم ہو جائے گا۔ اس لئے کہ عبارات فقهیہ میں بالاتفاق مفہوم شرط کا اعتبار ہوتا ہے جس کی تفصیل آگے مفہوم کی بحث میں آنے والی ہے۔

## غیر ظاہر الروایہ پر فتویٰ کی مثالیں

(۱) کتاب القاضی کن امور میں معتبر ہے؟ :

ایک قاضی جو دوسرے قاضی کے نام تحریر لکھتا ہے اسے فقہی اصطلاح میں ”کتاب القاضی الی القاضی“ کہتے ہیں۔ زیر بحث مسئلہ یہ ہے کہ یہ تحریر کن امور میں مقبول ہو گی اور کن معاملات میں مقبول نہ ہو گی؟ اس سلسلہ میں مذہب کی چار روایتیں ہیں:

الف: ظاہر الروایہ یہ ہے کہ اشیاء منقولہ میں اس تحریر کا مطلقاً اعتبار نہ ہو گا۔

ب: حضرت امام ابو یوسف<sup>ر</sup> (المتومنی ۱۸۲ھ) کی ایک روایت یہ ہے کہ اشیاء منقولہ میں سے صرف بھگوڑے غلام کے بارے میں ضرورۃ کتاب القاضی کا اعتبار ہو سکتا ہے، لیکن باندی کے بارے میں اعتبار نہ ہو گا۔

ج: حضرت امام ابو یوسف<sup>ر</sup> کی دوسری روایت یہ ہے کہ باندی کے بارے میں بھی چند شرائط کے ساتھ یہ تحریر قبول کی جاسکتی ہے۔

د: حضرت امام محمد<sup>ؐ</sup> کی رائے یہ ہے کہ مطلقاً تمام اشیاء منقولہ میں ”کتاب القاضی الی القاضی“ کا اعتبار کیا جا سکتا ہے۔

اب مذہب کی کل چار روایتیں ہوئیں۔ اگر ان میں سے کسی ایک کی ترجیح نہ ہوتی تو ہم آنکھ بند کر کے ظاہر الروایہ کو مفتی بے بنادیتے لیکن اس مسئلہ میں چوں کہ حضرات متاخرین نے حضرت امام محمد<sup>ؐ</sup> کے قول پر فتویٰ دیا ہے۔ لہذا ظاہر الروایہ کو چھپوڑ دیا جائے گا، اور مشائخ کی ترجیح کا اعتبار کرتے

ہوئے امام محمدؐ کے قول پر فتویٰ دیا جائے گا۔ قال فی الہدایہ: ولا یقبل فی الأعیان المنسولة للحاجة إلی الإشارة، وعنه ابی یوسفؓ أنه یقبل فی العبد دون الأمة لغلبة إلی باق فیه دونها وعنه أنه یقبل فیها بشرط تعریف فی موضعه وعن محمدؐ یقبل فی جميع ما ینقل ویحول علیه المتأخرون۔ (ہدایہ ۱۲۲/۳، مثلہ فی الشامی کراچی ۴۳۲/۵، شامی (زکریا) ۱۳۴/۸)

## (۲) شفعہ میں طلب خصوصت کی تاخیر کا مسئلہ :

شفعہ میں طلب اشہاد کے بعد طلب خصوصت میں خواہ کتنی ہی تاخیر ہو جائے، ظاہر الروایہ کے بموجب شفیع کا حق شفعہ ساقط نہیں ہوتا۔ حضرت امام ابوحنیفہؓ اور امام ابو یوسفؓ کا مذہب یہی ہے، جب کہ امام محمدؐ اور امام زفرؓ کا کہنا یہ ہے کہ اگر طلب خصوصت میں ایک مہینہ کی تاخیر کردی تو حق شفعہ باطل ہو جائے گا۔ اس مسئلہ میں فتویٰ امام محمدؐ اور امام زفرؓ کے قول پر ہے، لہذا ظاہر الروایہ کو چھوڑ کر یہی قول اپنایا جائے گا۔ ولا تسقط الشفعة بتاخير هذا الطلب عند ابی حنیفة وهو روایة عن ابی یوسفؓ، وقال محمد: إن تركها شهراً بعد الاشهاد بطلت وهو قول زفرؓ۔ (الہدایہ ۳۷۸/۴) وقال الشامی: وفي الجامع الخانی الفتوى اليوم على قول محمد لغير أحوال الناس في قصد الاضرار وبه ظهر ان افتاءهم بخلاف ظاهر الروایة لغير الزمان فلا يرجح ظاهر الروایة عليه۔ (شامی (کراچی) ۲۲۶/۶، شامی (زکریا) ۳۳۰/۹ - ۳۳۱/۹)

## (۳) ظاہر کف عورت کے ستر میں داخل نہیں :

ظاہر مذہب یہ ہے کہ ظاہر کف عورت (تھیلی کا ظاہری حصہ) کے ستر میں داخل ہے، جب کہ قاضی خال نے لکھا ہے کہ وہ ستر نہیں ہے، شرح منیہ، محيط برہانی اور شرمنلا یہ وغیرہ میں اسی پر فتویٰ دیا گیا ہے، اور شرح منیہ میں تحریر ہے: فکان هو الأصح وإن كان غير ظاهر الروایة۔ (شامی ۲۰۶/۱) بہشتی زیور کے حاشیہ ۱۳/۲ میں تصحیح الاغلطات کے حوالہ سے بھی اسی قول پر فتویٰ نقل کیا ہے۔

تمرین ۳:

○ غیر ظاہر الروایہ پر فتویٰ کی مزید پانچ مثالیں کتب فقہ سے تلاش کر کے کاپی میں نقل کریں۔

(۳) تامل کے بغیر کسی ایک روایت پر فتویٰ دینا درست نہیں

جب کسی مسئلہ کے متعلق مذہب میں متعدد اقوال منقول ہوں تو وجہ ترجیح پر غور کئے بغیر کسی ایک قول پر فتویٰ دینا اجماع کے خلاف ہے۔

ماخذ: قال في كتاب الأصول لليعمرى ص: ۲۷ س: ۵، إلى قوله وخرق الاجماع ص: ۲۷ س: ۷۔

## ایک مسئلہ میں متعدد اقوال کی چند مثالیں

(۱) دوآدمیوں کو بیک وقت مشترک کہ طور پر ہبہ یا صدقہ کرنا :

کسی آدمی نے دوآدمیوں کو مشترک کہ طور پر ہبہ یا صدقہ دیا تو اس بارے میں حضرات صاحبین کا مذہب یہ ہے کہ یہ ہبہ اور صدقہ درست ہو جاتا ہے کیوں کہ تمیک پائے جانے کی وجہ سے شیوع کا تحقیق نہ ہوگا۔ اور امام صاحبؒ سے امام محمدؐ نے جامع صغیر میں یہ روایت نقل کی ہے کہ اس صورت میں صدقہ درست ہے اور ہبہ درست نہیں ہے۔ اور فرق کی وجہ یہ ہے کہ صدقہ میں اولاً تمیک اللہ تعالیٰ کے لئے ہوتی ہے جو اکیلا ہے، لہذا شیوع فی الملک نہ پایا جائے گا، اور ہبہ میں مقصود دو شخص ہوتے ہیں، لہذا ان دونوں کو ہبہ کرتے وقت ہبہ کا مشاعر ہونا لازم آئے گا، جو جائز نہیں ہے۔ جب کہ امام محمدؐ نے مبسوط میں امام صاحب سے روایت اس طرح نقل کی ہے کہ مسئولہ صورت میں ہبہ اور صدقہ دونوں ناجائز ہیں کیوں کہ دونوں کا اتمام بندے کے قبضہ پر موقوف ہے، اس لئے شیوع بہر حال رہے گا۔ الغرض یہاں امام صاحبؒ سے ایک ہی مسئلہ میں (یعنی دو شخصوں کو مشترک صدقہ دینے میں) دور روایتیں سامنے آگئیں۔ جامع صغیر کی روایت سے جواز اور مبسوط کی روایت سے عدم جواز معلوم ہوتا ہے، اب کسی مفتی کے لئے جائز نہیں ہے کہ وہ غور و فکر اور تأمل کے بغیر آنکھ بند کر کے کسی بھی روایت پر فتویٰ دے بلکہ اس پر لازم ہے کہ وجہ ترجیح اور دلائل پر غور

کرے اور ترجیحات مشائخ کا تتبع کرے، اور جو قول عقلًا اور نقلًا راجح ہوا ہی پر فتویٰ دے۔ چنان چہ زیر بحث مسئلہ میں جامع صیغر کی روایت راجح قرار دی گئی ہے یعنی دو فقیروں پر ایک چیز کا صدقہ درست ہے، البتہ دو مالداروں پر صدقہ یا ہبہ کچھ بھی درست نہیں کیوں کہ ان کو دیا ہوا صدقہ بھی ہبہ بن جائے گا۔ وقيل هذا هو الصحيح. (هدایہ ۲۷۲/۳)

## (۲) کیا حج کی ادائیگی علی الفور ضروری ہے؟ :

فرضیت حج کے تمام شرائط پائے جانے کے بعد کیا فوراً حج کو جانا ضروری ہے یا اس میں تاخیر کی بھی گنجائش ہے؟ تو اس بارے میں امام صاحبؒ سے دور روایتیں ہیں:

**الف :** پہلی روایت جسے امام محمدؐ نے اختیار فرمایا ہے یہ ہے کہ شرائط کے تحقق کے بعد فوراً حج کو جانا ضروری نہیں ہے۔

**ب :** دوسری روایت جو امام ابو یوسفؒ کی اختیار فرمودہ ہے اور جسے مشائخ نے اہم قرار دیا ہے، یہ ہے کہ شرائط پائے جانے کے بعد فوراً حج کو جانا ضروری ہے۔ دلائل پر غور کرنے سے یہی معلوم ہوتا ہے کہ دوسری روایت زیادہ مضبوط اور احوط ہے، لہذا اسی قول کو اختیار کیا جائے گا۔ (بدائع الصنائع ۱۹۲)

## تمرين ۳:

- الف: دونوں مثالوں کی عربی عبارتیں مع دلائل کتب فقہیہ سے نقل کریں۔
- ب: اسی انداز سے کم از کم ۵ مثالیں کاپی میں تحریر کریں۔

## (۳) قاضی اور مفتی میں فرق

راجح قول کا لاحاظ رکھنا نہ صرف مفتی بلکہ قاضی کے لئے بھی ضروری ہے، اور مفتی اور قاضی میں ظاہری فرق یہ ہے کہ مفتی صرف حکم کی خبر دینے والا ہوتا ہے، جب کہ قاضی حکم کی خبر دے کر اسے نافذ بھی کرتا ہے۔

**وضاحت :** یہاں مقصد یہ نہیں کہ مفتی اور قاضی میں سوائے اخبار اور الزام کے کوئی فرق ہی نہیں، بلکہ مقصود یہ ہے کہ راجح پر عمل کرنے میں دونوں کا حکم یکساں ہے اور مفتی راجح کی محض خبر دینے والا اور قاضی اسے نافذ کرنے والا بھی ہے۔

## تیرین: ۵

○ قاضی اور مفتی میں اصول اور شرات کے اعتبار سے کیا کیا فرق ہیں؟ کتب فقہ و اصول سے تلاش کر کے مفصل مضمون تحریر کریں۔

(۵) جس کے قول پر فتویٰ دیا جائے اس کا مرتبہ جانا ضروری ہے

مفتی کے لئے یہ بھی لازم ہے کہ وہ جس فقیہ کے قول پر فتویٰ دے اس کے درجہ روایت، مرتبہ درایت اور طبقہ فقاہت سے پوری طرح واقف ہو محض اس کا نام و نسب اور وطن جان لینا کافی نہیں اس لئے کہ مرتبہ تفقہ کو جانے بغیر اس کے قول اور دیگر علماء کے اقوال کے درمیان ترجیح کا مقصود حاصل نہ ہو سکے گا۔

ماخذ: فقد قال العلامة شمس الدين ص: ۲۷ س: ۱۱ - إلى قوله - بين

القولين المتعارضين ص: ۲۸، س: ۳

## طبقاتِ فقهاء :

علامہ ابن مکال پاشا (المتونی ۹۶۰ھ) کی تصریح کے مطابق فقهاء کے کل سات طبقات ہیں:

(۱) مجتهدین مطلق / مجتهدین فی الشرع: اس طبقہ کا اطلاق ان حضرات ائمہ پر ہوتا ہے جو برہ راست ادله اربعہ (قرآن و سنت، اجماع و قیاس) سے اصول و کلیات اور جزئیات و احکامات مستنبط کرتے ہیں، جیسے حضرات ائمہ اربعہ، امام ابوحنیفہ (المتونی ۱۵۰ھ) امام مالک (المتونی ۱۷۴ھ) امام شافعی (المتونی ۲۰۳ھ) امام احمد بن حنبل (المتونی ۲۳۱) اور ان کے درجہ کے مجتهدین۔

(۲) مجتهدین منتبین / مجتهدین فی المذهب: یہ نام ان حضرات فقهاء کو دیا جاتا ہے، جو قواعد و کلیات میں تو اپنے استاذ اور مجتهد مطلق کے پابند ہوتے ہیں، لیکن جزئیات اور فروعی مسائل میں استاذ کی تقلید چھوڑ دیتے ہیں، یہ حضرات اگرچہ اولہ اربعہ سے براہ راست استفادہ کی صلاحیت رکھتے ہیں، مگر اکثر اصولوں میں اپنے امام کی تقلید کی بنا پر ان کو مجتهد فی المذهب کے زمرہ میں رکھا جاتا ہے، مجتهد مطلق نہیں کہا جاتا، مثلاً حضرت امام ابو یوسف<sup>ر</sup> (المتوفی ۱۸۲ھ) امام محمد<sup>ر</sup> (المتوفی ۱۸۹ھ) اور امام صاحب<sup>ر</sup> کے دیگر شاگردان رشید۔

(۳) مجتهدین فی المسائل: مذهب میں کچھ مسائل ایسے بھی ہوتے ہیں جن کے بارے میں اصحابِ مذهب سے کوئی صراحةً منقول نہیں ہوتی، تو حضرات فقهاء مذهب کے قواعد و خصوصیات کو سامنے رکھ کر غیر منصوص مسائل کے احکامات معین کرتے ہیں، انہیں مجتهدین فی المسائل کا لقب دیا جاتا ہے۔ واضح ہو کہ یہ حضرات اصول یا فروع کسی چیز میں بھی اپنے امام سے الگ راہ اپنائے کا حق نہیں رکھتے، اس طبقہ کے حضرات میں امام احمد بن عمر خصف<sup>ر</sup> (المتوفی ۲۶۱ھ) امام ابو جعفر احمد بن محمد طحاوی<sup>ر</sup> (المتوفی ۳۲۱ھ) امام ابو الحسن الکرخی<sup>ر</sup> (المتوفی ۳۴۰ھ) شمس اللہ عبده العزیز الحلوانی<sup>ر</sup> (المتوفی ۴۳۸ھ) شمس اللہ عبده محمد بن سہل السرخسی<sup>ر</sup> (المتوفی ۴۸۳ھ) علامہ فخر الاسلام علی بن محمد بزد دوی (المتوفی ۴۸۲ھ) اور علامہ فخر الدین حسن بن منصور المعروف بـ تقاضی خاں (المتوفی ۵۵۲ھ) وغیرہ کے اسماء قبل ذکر ہیں۔

(۴) اصحاب التحریج: وہ فقهاء کرام جو اجتہاد کی صلاحیت تو نہیں رکھتے لیکن اصول و مأخذ کو محفوظ رکھنے کی بنا پر اتنی قدرت ضرور رکھتے ہیں کہ ذوق چہیں یا جمل قول کی تعین و تفصیل کر سکیں، اور نظر فقہیہ اور قواعد مذهب پر نظر کر کے اپنی ذمہ داری انجام دینے کے اہل ہوں تو انہیں اصحاب التحریج کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ اس طبقہ کے لوگوں میں امام احمد بن علی بن ابوبکر الجھاص الرازی<sup>ر</sup> (المتوفی ۴۷۰ھ) اور ان جیسے حضرات کا نام لیا جا سکتا ہے۔ ہدایہ میں جہاں کہیں کذا فی تحریج الرازی و کذا فی تحریج الکرخی جیسے الفاظ آتے ہیں وہ اسی قبیل سے ہیں۔

(۵) اصحاب الترجيح : اس طبقہ کے فقهاء کا کام یہ ہے کہ وہ مذہب کی بعض روایات کو دوسرا بعض روایات پر اپنے قول: هذا أولیٰ، هذا أصح، هذا أوضح وغیرہ کلمات کے ذریعہ ترجیح دیتے ہیں۔ علامہ ابن کمال پاشا نے اس طبقہ سے انتساب رکھنے والوں میں امام احمد بن محمد بن احمد ابو الحسن القدوری (المتون ۵۲۸ھ) اور صاحب ہدایہ علامہ علی بن بکر المرغینانی (المتون ۵۹۳ھ) کو شمار فرمایا ہے۔

(۶) مقلدین اصحاب تمییز : ان حضرات کا کام صرف اتنا ہے کہ وہ مذہب کی مضبوط اور کمزور روایات میں فرق و امتیاز کرتے ہیں، اور ظاہر الروایہ، ظاہر مذہب اور روایات نادرہ کی پیچان رکھتے ہیں۔ اکثر اصحاب متون اسی طبقہ سے وابستہ ہیں، مثلًا صاحب کنز علامہ عبد اللہ بن احمد النسفی (المتون ۱۰۷ھ) اور صاحب مختار عبد اللہ بن محمود الموصلی (المتون ۲۸۳ھ) اور صاحب وقایہ تاج الشریعۃ محمود بن صدر الشریعۃ (المتون ۲۷۷ھ) وغیرہ۔ یہ حضرات اپنی تصنیفات میں مردوں اور غیر معتبر اقوال نقل کرنے سے احتراز کرتے ہیں۔

(۷) غیر ممیز مقلدین : جو حضرات گذشتہ طبقات میں سے کسی بھی ذمہ داری کو اٹھانے کی اہلیت نہ رکھتے ہوں انہیں ساقویں طبقہ میں رکھا جاتا ہے، درحقیقت یہ لوگ فقیہ نہیں بلکہ حضن ناقل فتاویٰ ہیں۔ آج کل کے اکثر مفتیان کا تعلق اسی طبقہ سے ہے، اس لئے اس طبقہ کے لوگوں پر پوری احتیاط لازم ہے، جب تک مسئلہ مفتوح نہ ہواں وقت تک انہیں جواب دینے سے گریز کرنا چاہئے۔

ماخذ: فنقول إن الفقهاء على سبع طبقات الخ. ص: ۲۸ س: ۳ - إلى

قوله - لا يتجاسر عليه إلا كل جاهلٍ شقيٍّ. ص: ۳۴ س: ۶)

## ضروری یادداشت

واضح رہے کہ ائمہ اربعہ کے بعد امت میں کوئی ایسا مجتہد مطلق پیدا نہیں ہوا جس کے اجتہاد کو امت نے بالاتفاق قبول کر لیا ہو، اور مذہب حنفی و مالکی میں تیسری صدی کے بعد منکورہ صفت کا مجتہد فی المذہب کوئی پیدا نہیں ہوا، البته شوافع و حنابلہ میں نویں صدی تک مجتہدین فی المذہب پائے

جاتے رہے ہیں۔ (النافع الکبیر للعلامة المکھوی ۶) غور کیا جائے تو اب ان دونوں طبقوں کی چند اس ضرورت بھی باقی نہیں رہی، اس لئے کہ شریعت کے سبھی اصول و فروع کی تدوین مکمل ہو چکی ہے، البتہ بعد کے طبقات کا وجود اامت میں رہا ہے اور رہے گا۔ اور خود ضرورت اس بات کی متقاضی ہے کہ یہ طبقات تا قیامت موجود رہیں تاکہ غیر منصوص مسائل کی تخریج واستنباط کا کام انجام دیا جاتا رہے، اس لئے یہاں یہ نہیں سمجھنا چاہئے کہ طبقات فقهاء کے ضمن میں جن حضرات کے نام بطور مثال ذکر کئے گئے ہیں بس وہی ان طبقات کے مصدق ہیں، اور بعد میں کوئی شخص ان صفات کا حامل نہیں ہو سکتا، بلکہ یہ صلاحیتیں بعد کے فقهاء و مفتیان میں بھی حسبِ ضرورت پائی جاتی رہیں گی۔ پھر خود علامہ ابن کمال پاشا کی مذکورہ بالاطبقات کی تقسیم پر بعد کے فقهاء نے اشکالات کئے ہیں، کہ انہوں نے بعض فقهاء کا درجہ گھٹا دیا اور بعض کا درجہ بڑھا دیا ہے۔ چنانچہ حضرت مولانا عبدالحکیم لکھنؤی نے ہارون بن بہاء الدین مرجانی حنفی کے حوالہ سے ان سب اشکالات کو نقل کیا ہے، اور اخیر میں ان کے باوزن ہونے کا اعتراف کیا ہے، ان اشکالات کا خلاصہ ذیل میں درج ہے:

**الف:** حضرت امام ابو یوسف<sup>ؓ</sup> اور امام محمد<sup>ؓ</sup> مجتهد فی المذہب کے درجہ میں رکھنا صحیح نہیں ہے، اس لئے کہ ان میں مطلق اجتہاد کی صلاحیت تھی اور ان کا درجہ امام مالک<sup>ؓ</sup> امام شافعی<sup>ؓ</sup> وغیرہ سے بڑھا ہوا نہیں تو کمزور بھی نہیں ہے، اور انہوں نے اصول و فروع دونوں میں امام ابو حنفی<sup>ؓ</sup> سے اختلاف کیا ہے۔

**ب:** علامہ ابن کمال پاشا<sup>ؓ</sup> کا امام خاصف<sup>ؓ</sup>، امام طحاوی<sup>ؓ</sup> اور امام کرخی<sup>ؓ</sup> کے بارے میں یہ کہنا کہ وہ اصول و فروع کسی میں بھی امام صاحب<sup>ؓ</sup> کے خلاف رائے اپنانے کا حق نہیں رکھتے واقعہ کے خلاف ہے۔ انہوں نے بہت سے مسائل میں امام صاحب<sup>ؓ</sup> کے خلاف رائے اپنانی ہے۔

**ج:** امام ابو بکر جصاص رازی<sup>ؓ</sup> کو اس تقسیم میں درجہ اجتہاد سے بالکل خارج کر دیا گیا ہے، یہ ان کے ساتھ بہت بڑا ظلم ہے جس کا بخوبی اندازہ ان کی بلند پایہ علمی فقہی اور تحقیقی تصانیف سے لگایا جاسکتا ہے اور سمس الائمه حلوانی وغیرہ جن کو علامہ ابن کمال پاشا<sup>ؓ</sup> نے مجتہدین میں شامل کیا ہے، وہ سب ابو بکر جصاص<sup>ؓ</sup> کے شاگردوں کے شاگرد ہیں۔

**د:** اس تقسیم میں صاحب بڑا یہ (المتومنی ۵۹۳ھ) اور امام قدوری کو اصحاب ترجیح میں اور

قاضی خاں کو مجتہدین میں شمار کیا ہے حالاں کہ ان دونوں کا درجہ بہر حال قاضی خاں سے بڑھ کر ہے۔ (ملخص از النافع الکبیر لیمن یطابع الجامع الصغیر ۵-۷)

الغرض علامہ ابن کمال پاشا کی تقسیم طبقات میں مذکورہ اسماء حوتی اور آخری نہ سمجھنا چاہئے، بلکہ اس میں ترمیم و تبدیل اور اضافہ کی گنجائش موجود ہے، اب رہنی اشکالات کی بات، تو مذکورہ اشکالات میں اخیر کے تین اشکالات کا حل تو یہ ہے کہ آپ ناموں میں روبدل کر دیں۔ لیکن پہلے اشکالات کے حل کے لئے بہتر صورت وہ ہے جو حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلویؒ (المتوفی ۲۷۱۴ھ) نے اختیار فرمائی ہے، آپ نے مجتہدین کے تین طبقات بیان کئے ہیں جو افادہ کے لئے نقل کئے جاتے ہیں۔

## طبقاتِ مجتہدین

**الف: مجتہد مطلق مستقل:** یعنی وہ شخص جو فقاہت نفس، سلامتی طبع، بیدار مغزی، دلائل کی معرفت، استنباط کی صلاحیت اور جزئیات پر تعمق جیسی بلند پایہ صفات سے متصف ہو جیسے حضرات ائمہ اربعہ۔

**ب: مجتہد مطلق منتبہ:** یعنی وہ مجتہد جو ائمہ متبوئین میں سے کسی امام کی طرف نسبت کرتا ہو، لیکن وہ مذهب اور دلیل میں اس کا نرا مقلد نہ ہو، بلکہ محض اجتہاد میں اپنے امام کا طریقہ اختیار کرنے کی بنا پر اس کا انتساب اس مذهب کی طرف کیا جاتا ہو جیسے امام ابو یوسفؓ، امام محمدؓ اور امام ابو حنفیؓ کے دیگر شاگردان رشید۔

**ج: مجتہد فی المذهب:** یہ ایسا شخص ہے جو کسی امام کی تقلید کا پابند ہو مگر اس کے ساتھ ساتھ اپنے امام کے مقرر کردہ اصول و ضوابط کے دائرہ میں رہتے ہوئے دلیل کی روشنی میں اپنے اصول مقرر کرنے کی صلاحیت بھی رکھتا ہو، تاکہ غیر منصوص مسائل کا حکم معلوم کرنے میں آسانی ہو اور ضرورت وغیرہ کا حسب موقع خیال رکھا جاسکے، ایسے شخص میں درج ذیل صفات پائی جانی ضروری ہیں:

(۱) اصول مذهب کا علم رکھنے والا ہو۔

(۲) تفصیلی دلائل کا علم رکھتا ہو۔

(۳) قیاس اور معانی کے ادراک پر اسے پوری بصیرت ہو۔

(۴) اپنے امام کے اصول پر تخریج و استنباط کی صلاحیت اور مہارت رکھتا ہو۔ اس طبقہ میں بہت سے علماء اور فقہاء کو شامل کیا جاسکتا ہے، اور تقریباً ہر زمانہ میں کچھ افراد اس صلاحیت کے موجود رہتے ہیں۔ (الانصار فی بیان سبب الاختلاف بحوالہ النافع الکبیر ۵-۶ تخلیص)

حضرت شاہ صاحبؒ نے مجتهد مطلق کے دو درجے کر کے حضرات صاحبین وغیرہ کے درجہ پر پیدا ہونے والے اشکال کو بالکل ختم کر دیا ہے، اسی طرح اصحاب التخریج و الترجیح کی تحدید بھی ختم کر دی ہے، اس لئے کہ فقہاء کے کام مختلف انداز کے ہیں، ایک ہی طبقہ کے حضرات ایک جگہ تخریج کا کام انجام دیتے ہیں تو دوسری جگہ ترجیح کی خدمت بھی بجالاتے ہیں اور کہیں کہیں ان میں اجتہادی شان بھی نظر آنے لگتی ہے۔ فجز اہم اللہ احسن الجزاء۔

## ثمرین: ۶

○ الف: طبقاتِ فقہاء اور طبقاتِ مجتهدین کو باñی یاد کریں۔

○ ب: ابن کمال پاشا کے بیان کردہ طبقات پر جواشکالات ہوئے ہیں آپ کی نظر میں ان کی کیا حیثیت ہے؟ ”الفوائد البهیہ“ اور طبقاتِ فقہاء کی دیگر کتب کا مطالعہ کر کے رائے قائم کریں، اور طبقات میں اسماء کی ایسی فہرست بنائیں جو اشکال سے خالی ہو۔

(۶) فقہاء متاخرین کی غیر محررہ کتابوں پر اعتماد نہ کیا جائے

فقہاء متاخرین کی غیر محررہ تصنیفات (یعنی جن میں صحت کا خاص اہتمام نہیں رکھا گیا اور جن کی پوری تنتیح بھی نہیں ہو سکی ہے) پر آنکھ بند کر کے اعتماد نہ کیا جائے، مثال کے طور پر علامہ علاء الدین الحسنی (المتومنی ۱۰۸۸ھ) کی معروف کتاب ”الدر المختار“، علامہ شمس الدین محمد القہتائی کی کتاب ”شرح

النقائیہ، اور علامہ زین الدین المعروف بابن نجیم المصری (المتوفی ۹۶۰ھ) کی کتاب ”الاشباه والناظر“ وغیرہ، (۱) ان کتابوں سے فتویٰ دینے میں احتیاط کی ضرورت ہے، دیگر معتبر کتابوں سے تصدیق و تائید کے بغیر ان پر اعتماد نہ کرنا چاہئے، اس لئے کہ اولاً ایجاز و اختصار کی بنابریہ کتابیں پہلیاں بن کر رہ گئی ہیں۔ دوسرے یہ کہ ان میں امتیاز کے بغیر رطب و یاب اقوال جمع کردئے گئے ہیں، حتیٰ کہ کہیں کہیں مذہب غیر کو اپنا مذہب بنایا کر پیش کر دیا گیا ہے۔

ماخذ: فحیث علمت وجوب اتباع الراجح ص: ۳۴ س: ۷ - إلی قوله -

کمانہ علی ذلک علامہ ابن نجیم فی البحار الرائق ص: ۳۷ س: ۷

## غلط بات نقل کرنے کی چند مثالیں

علامہ شامیؒ نے غیر محررہ کتابوں میں غلط باتات نقل کرنے کی درج ذیل مثالیں پیش فرمائی ہیں:

### (۱) محض تلاوت پر اجرت کا جواز :

اصحاب مذہب متقدیمؒ کے نزدیک قرآن کریم کی تلاوت یا تعلیم یا امامت یا کسی بھی عبادت پر اجرت کا لین دین مطلقاً ناجائز ہے، لیکن حضرات متاخرین نے ضرورت کا خیال رکھتے ہوئے اور تعلیم و تعلم کا سلسہ منقطع ہونے اور ضیاءع دین کے اندیشہ سے قرآن کی تعلیم پر اجرت کے جواز کا فیصلہ کیا۔ اسی طرح امامت اور اذان میں بھی ضرورت کی بنابر اجارہ کی صحت کا قول کیا ہے، یہ مسئلہ کی اصل نوعیت ہے، مگر صاحب ”السراج الوہاج“، ”الجوہرۃ النیرۃ“ علامہ ابو بکر بن علی المعروف بالحدادیؒ (المتوفی ۸۰۰ھ) (السراج الوہاج موصوف کی لکھی ہوئی قدوری کی شرح ہے جس کو مذہب کی ضعیف کتابوں میں شمار کیا جاتا ہے جو ۸ جلدیں میں ہے، پھر آپ نے خود ہی اس کی چار جلدیں میں تلخیص کی اور ”الجوہرۃ النیرۃ“ اس کا نام رکھا) کو دھوکہ ہوا کہ انہوں نے تعلیم کے (۱) مثلاً ملکمکین شرح الکنز للملامعین الدین الہروی المتوفی ۹۵۲ھ، مزالحقائق شرح کنز للعلام بدرا الدین اعینی المتوفی ۹۵۵ھ، علامہ زاہدیؒ (متوفی ۲۵۸ھ) کی کتاب ”التفییه“، اور انہر الفائق للشیخ عمر بن نجیم المتوفی ۱۰۰۵ھ)

بجائے محض تلاوت قرآن کریم پر اجرت کے جواز کو متاخرین کا مفتی بقول قرار دے دیا، ان کے بعد جتنے بھی مصنفین آئے وہ اکثر اس کی تائید اور نقل کرتے رہے، حتیٰ کہ بہت سے لوگوں نے تو یہاں تک کہا کہ متاخرین محض تلاوت پر اجرت کے جواز کے قالیں ہیں اور بعض نے یہاں تک تحریک کرڈا ہی کہ اجارہ پر حج کو بھیجا بھی جائز ہے حالاں کہ یہ سب تحریک غلط ہے۔ اجارہ کا جواز تعلیم قرآن کے ساتھ ہے تلاوت قرآن کے ساتھ نہیں، اور حضرات متاخرین نے اجارہ علی الاطاعات کی حرمت سے جن چیزوں کو مستثنیٰ کیا ہے ان میں تلاوت قرآن داخل نہیں ہے، کیوں کہ اباحت کا مدار ضرورت پر ہے جو تعلیم و تعلم، امامت اور اذان میں تو پائی جاتی ہے مگر محض تلاوت میں ضرورت میجھ متحقق نہیں ہے، بلکہ واقعہ یہ ہے کہ اجرت پر تلاوت کو جائز قرار دینے میں اور بہت سی خرابیاں اور مفاسد پائے جاتے ہیں۔ مثلاً اس کی وجہ سے لوگوں نے قرآن کریم کو کمائی کا ذریعہ بنالیا اور اللہ تعالیٰ کا پاک کلام محض ریا کاری اور دنیا طلبی کے لئے پڑھا جانے لگا، اس طرح پڑھنے سے جب خود پڑھنے والے کو ثواب نہ ملے گا تو وہ دوسروں کو ایصال ثواب کیسے کر سکتا ہے؟ علاوه ازیں تلاوت پر اجرت کے جواز سے دسویں، چالیسویں اور کوئٹے وغیرہ کے موقع پر تیبیوں کے مال کو کھانا، ان کے فرش پر بیٹھنا، گانے بجانے اور چیخ و پکار سے سونے والوں کو پریشان کرنا، عورتوں، مردوں کے اختلاط جیسے خطرناک مفاسد بھی سامنے آتے ہیں۔ (اس مسئلہ کو علامہ شامیؒ نے اپنے ایک مستقل رسالہ ”شفاء العلیل و بل الغلیل فی بطلان الوصیة بالختمات والتهالیل“ میں تفصیل سے تحریر فرمایا ہے، جو رسائل ابن عابدین مطبوعہ پاکستان ۱۵۲/۱ پر شائع شدہ ہے اور اپنے موضوع پر واقعہ مفید ہے)

(ومن ذلك مسئلة الاستيجار على تلاوة القرآن ص: ۳۶ س: ۷ - إلى

قوله - صاحب الحاشية الفائقۃ علی الدر المختار ص: ۳۹ س: ۷)

## تمرین:

○ رسائل شفاء العلیل کا بغور مطالعہ کر کے ۵ صفحات میں اس کی تنجیص کا پی میں نوٹ کریں۔

## (۲) جناب رسول اللہ ﷺ کی شان میں گستاخی کرنے والے کی توبہ قبول نہ ہونا :

صاحب فتاویٰ بزاڑیہ علامہ محمد بن محمد بن شہاب بن یوسف الخوارزمی البازی<sup>ؒ</sup> (المتوفی ۸۲۷ھ) نے لکھا ہے کہ جو شخص آنحضرت ﷺ کی شان القدس میں گستاخی کرے وہ ہمارے نزدیک واجب القتل ہے اور اس کے دوبارہ اسلام لانے کے دعوے کے باوجود اس کی توبہ قبول نہیں کی جائے گی۔ اس قول کو انہوں نے قاضی ابوالفضل عیاض بن موسیٰ الملکی<sup>ؒ</sup> (المتوفی ۵۲۲ھ) کی ”كتاب الشفاء“ اور شیخ تقی الدین احمد بن عبد الحکیم ابن تیمیہ الحنبلی<sup>ؒ</sup> (المتوفی ۷۲۸ھ) کی شہرہ آفاق تصنیف ”الصارم المسلول“ کی طرف منسوب کیا ہے، اور صاحب بزاڑیہ کے بعد جتنے بھی مصنفوں نے آنکھیں بند کر کے اسی قول کو حنفیہ کے مذہب کے بطور لفظ کر دیا۔ حتیٰ کہ صاحب ”فتح القدر“ کمال بن الہمام<sup>ؒ</sup> (المتوفی ۸۶۱ھ) اور صاحب الدر والغر علامہ محمد بن فراموز<sup>ؒ</sup> (المتوفی ۸۸۵ھ) نے بھی یہی بات لکھی ہے جب کہ حقیقت یہ ہے کہ گستاخ رسول کی توبہ قبول نہ کئے جانے کا مذہب، شافعیہ، حنبلہ اور بعض المالکیہ کا ہے اور حنفیہ کا یقینی طور پر مسلک یہ ہے کہ ایسا شخص عام مرتد کے حکم میں ہے، اگر وہ توبہ کرے گا تو اس کی توبہ بھی قبول کی جائے گی، جیسے کہ دیگر مرتدوں کی توبہ قبول کی جاتی ہے۔ حنفیہ کا یہ مذہب کتب متفقدمہ (كتاب الخراج لابی یوسف)، علامہ اسمیجابی کی شرح مختصر الطحاوی اور الشف لام السعدی وغیرہ) میں وضاحت کے ساتھ مذکور ہے اور خود علامہ شامي<sup>ؒ</sup> نے اس موضوع پر ایک رسالہ ”تنبیہ الولاۃ والحكام علی احکام شاتم خیر الانام“ کے نام سے تحریر فرمایا ہے جو رسائل ابن عابدین میں شامل ہے۔ ومن ذلک مسئلة عدم قبول توبة الساب للجناب الرفيع ص: ۳۹ س: ۷ - إلی قوله - او أحد أصحابه الكرام عليه وعليهم الصلاة والسلام ص: ۴۱ س: ۳)

تمرین:

○ رسالہ ”تنبیہ الولاۃ والحكام“ کا خلاصہ ۵ صفحات میں کاپی میں تحریر کریں۔

### (۳) ہلاکت کے دعویٰ پر مرہن کے ضمان کا مسئلہ :

علامہ محمد بن فراموز المعروف بمولیٰ خسرو (المتوئی ۸۸۵ھ) نے (اپنے متن غرالاحدام کی شرح) درالحکام میں علامہ عبداللطیف بن عبد العزیز المعروف بابن ملک (المتوئی ۸۰۱ھ) نے شرح مجمع البحرین میں اور علامہ محمد بن عبد اللہ بن احمد الخطیب بن تمر تاشی (المتوئی ۱۰۰۳ھ) نے اپنے متن ”تغیر الابصار“ میں یہ مسئلہ لکھا ہے کہ مرہن اگر یہ دعویٰ کرے کہ شیٰ مرہون ہلاک ہو چکی ہے اور ہلاکت پر بینہ نہ پیش کر سکے تو شیٰ مرہون کا اسے ضامن قرار دیا جائے گا (اس کا مقتضی یہ ہے کہ مرہون کی جہاں تک بھی قیمت پہنچ اس کا اسے ضامن بنا دیا جائے گا، چنانچہ علامہ خیر الدین رملی (المتوئی ۱۰۸۱ھ) نے یہی فتویٰ دیا ہے، اور اگر مرہن شیٰ مرہون کی ہلاکت پر بینہ پیش کردے تو اسے بالکل ضامن قرار نہیں دیا جائے گا۔

یہ ہے مسئلہ کی وہ نوعیت جو مذکورہ فقہی کتابوں میں درج ہے، حالاں کہ یہ حفیہ کا نہیں بلکہ امام مالک کا نہ ہب ہے، احناف کا مسلک اس بارے میں یہ ہے کہ اگر مرہن کے پاس رہتے ہوئے شیٰ مرہون ہلاک ہو جائے تو خواہ وہ بینہ پیش کرے یا نہ کرے بہر صورت وہ دین یا قیمت میں جو بھی مکتر ہو، اسی کا ضامن قرار دیا جائے گا اس سے زیادہ کا ضمان نہ ہوگا۔ (مثال کے طور پر اگر دین سو روپے کا ہے اور شیٰ مرہون ڈیڑھ سو روپے کی تھی تو ہلاکت کی صورت میں صرف دین کا مستحق ہوگا، یعنی اس کا دین برابر سرا بر ہو جائے گا، اور بقیہ پچاس روپے کے بقدر جو چیز ضائع ہوئی ہے وہ امانت ہونے کی وجہ سے ضمان میں داخل نہ ہوگی۔ اور اگر شیٰ مرہون سو روپیہ کی اور قرضہ ڈیڑھ سو روپے تھا تو ایسی صورت میں وہ صرف شیٰ مرہون کی قیمت کا ضامن ہوگا اور راہن پر مرہن کے پچاس روپے بدستور واجب رہیں گے۔ مرتب (حفیہ) کے مسلک کی تفصیل علامہ حسن بن عمار المصری الشرنبلائی (المتوئی ۱۰۲۹ھ) نے اپنی کتاب ”غذیۃ ذوی الاحکام فی شرح بغیۃ درالاحکام المعروف بالشنبلایہ“ میں شیخ ابوالحاج مدحود بن محمود اللہ بنوی البخاری (المتوئی ۱۷۴ھ) کی کتاب ”الحقائق“ کے حوالہ سے نقل کی ہے، اور خود علامہ شامیؒ نے اپنے حاشیہ ”رد المحتار علی الدر المختار“ میں

وضاحت کے ساتھ یہ مسئلہ تحریر کیا ہے جو ۲۸۱/۲ پر درج ہے۔ (ومن ذلک مسئلة ضمان الرهن ص: ۱: ۴ س: ۳ - إلی قوله - ومن رد خلافه ص: ۳: ۴ س: ۱)

## تقریں: ۹

○ مذکورہ بالاتینوں مسائل سے متعلق فقہ کی معتبر کتابوں سے کم از کم ۳-۳ عبارتیں کاپی پر نقل کریں۔

## مزید وضاحت

مذکورہ مثالوں سے واضح ہو گیا کہ کبھی ایک مصنف سے غلطی ہوتی ہے اور بعد میں آنے والے مصنف غور و فکر کے بغیر اسے نقل کرتے چلے آتے ہیں، اس لئے فتویٰ دینے والے پر لازم ہے کہ اچھی طرح غور و فکر اور صحت کا خاص خیال کر کے ہی فتویٰ دیا کرے، کسی ایک کتاب یا چند کتابوں میں مسئلہ کا نقل کیا جانا، ہی صحت کے لئے کافی نہیں ہے، اس پر ضدہ کرنی چاہئے اور محققین علماء کی آراء کو سامنے رکھ کر فتویٰ دینا چاہئے۔ چنانچہ علامہ شامیؒ خود اپنا واقعہ تحریر کرتے ہیں کہ: میں نے ایک مرتبہ عام کتب فقه کے مطابق وقف کا ایسا مسئلہ فتویٰ میں لکھ دیا جس کے نقل کرنے میں صاحب "در مختار" علامہ علاء الدین الحصلفیؒ (المتوفی ۱۰۸۸ھ) سے تسامح ہو گیا ہے، جب میرا یہ جواب شہر کے دیگر مفتیان کے سامنے آیا تو انہوں نے اسے تسلیم کرنے سے انکار کر دیا، اور بعض نے تو یہاں تک لکھ دیا کہ ہم تو اسی پر فتویٰ دیں گے جو علامہ حصلفیؒ نے در مختار میں لکھا ہے۔ علامہ شامیؒ فرماتے ہیں کہ یہ کتنی بڑی جہالت اور دیدہ دلیری کی بات ہے کہ لوگ تحقیق کے بغیر محسوس ایک کتاب دیکھ کر فتویٰ دینے پر اڑ جاتے ہیں اور صحیح اور غیر صحیح میں امتیاز نہیں کرتے ہیں، حالاں کہ اس مسئلہ میں میر افتوقی علامہ ابراہیم بن مصطفیٰ الحلمیؒ (المتوفی ۱۱۹۰ھ) کے مطابق تھا جوز مانہ کے اعتبار سے صاحب در مختار کے زیادہ قریب ہیں۔ انہوں نے خود تنبیہ کی ہے کہ در مختار میں لکھا گیا مسئلہ تعبیر کی غلطی ہے۔ (ولهذا الذى ذكرناه نظائر كثيرة ص: ۳: ۲ - إلی قوله - خطأ

## ایک دلچسپ مثال

ان کتابوں میں رطب و یابس اور بعض غیر فقہی باتیں لکھنے کا ایک دلچسپ نمونہ یہ ہے کہ درختار ۱۱۵ پر تحریر ہے: ولا یزاد علی الشبر و لا فالشیطان یہ کب یعنی مساوک ایک بالشت سے لمبی نہ ہونی چاہئے ورنہ شیطان اس پر سواری کرنے لگے گا۔ ظاہر ہے کہ اس طرح کی مہم بات کافقدہ سے کوئی تعلق نہیں ہے اور فتویٰ میں ایسی لغو باتیں نہیں لکھی جاسکتیں۔

### تمرین: ۱۰

○ کتب غیر محروم سے تین ایسی مثالیں لکھیں جن میں غیر معتر بات لکھی گئی ہو، یا خلاف مذہب قول کوتر حجج دی گئی ہو۔

### (۷) ماہر استاذ کی شاگردی

فتوى دینے کی الہیت محض کتابوں کے مطالعہ سے حاصل نہیں ہو سکتی بلکہ منصب افتاء پر فائز ہونا صرف اس شخص کے لئے روا ہے جس نے کسی ماہر استاذ اور صاحب افتاء کی خدمت میں رہ کر فتویٰ نویسی کی باقاعدہ مشق کی ہو۔

وقد رأيْت فِي فتاوی العلامة ابن حجر۔ ص: ۴ س: ۱ - إِلَى قُولَه - وَاللَّهُ

تعالى أعلم ص: ۴ س: ۹)

### گمراہی کی بنیاد

عموماً گمراہی کی ابتداء یہیں سے ہوتی ہے کہ بعض لوگ محض کتابوں پر بھروسہ کر کے اور اپنے ناقص مطالعہ پر اعتماد کر کے خود کو دینی مسائل میں رائے زنی کا اہل سمجھنے لگتے ہیں اور اس بات پر اس قدر جو لافی دکھاتے ہیں کہ بڑے بڑے ماہرین اہل فن اور معتر بمنفیان کرام تک کو خاطر میں نہیں لاتے۔ یہ صورت حال بہت ہی خطرناک ہوتی ہے اور ایسے کم علم اور جاہل مفتی نہ صرف اپنی

بلکہ دوسروں کی گمراہی کا بڑا سبب بن جاتے ہیں۔ حدیث میں ارشاد فرمایا گیا ہے کہ اخیر زمانہ میں لوگ جاہلوں کو اپنا مقتدا بنا لیں گے، جو بغیر علم کے فتویٰ دیں گے خود بھی گمراہ ہوں گے اور دوسروں کو بھی گمراہ کریں گے۔ **فَإِذَا لَمْ يُقِّعْ عَالِمًا إِتَّخَذَ النَّاسُ رُؤْسًا جُهَّالًا فَسُلِّمُوا فَأَفْتُوا بِغَيْرِ عِلْمٍ فَضَلُّوا وَأَضَلُّوا**۔ (ابن ماجہ ۶۱)

ہمارے زمانہ میں مولانا ابوالاعلیٰ مودودی اور مولانا وحید الدین خاں جیسے مفکرین کی گمراہی کی بنیاد بھی ہے کہ یہ لوگ کسی لاائق اور صحیح فکر کھنے والے استاذ اور مفتی کی صحبت اختیار کئے بغیر اپنے آپ کو مسائل دینیہ کے بارے میں رائے دینے کا اہل سمجھنے لگے جس کا نتیجہ کھلی ہوئی گمراہی اور زلات کی شکل میں ظاہر ہوا۔

## تمرین: ۱۱

○ مولانا ابوالاعلیٰ مودودی اور مولانا وحید الدین خاں کی تلمیسات کی کم از کم ۵ نمونے کا پی میں نوٹ کریں، اور ان کے بارے میں علماء حق کی آراء کا مطالعہ کریں۔

## (۸) طبقاتِ مسائل کا لحاظ

حفییہ کے مذهب میں مسائل کی جو ترتیب قائم کی گئی ہے وہی وجہ ترجیح بھی ہے یعنی پہلے درجہ میں ”ظاہر الروایہ“ دوسرے میں ”نادر الروایہ“، پھر اس کے بعد فتاویٰ اور واقعات کا لحاظ کیا جائے گا اور تعارض کی شکل میں طبقہ اعلیٰ کو ترجیح ہوگی، الایہ کہ مشائخ نے کسی اور روایت پر فتویٰ دینے کی صراحت کی ہو۔

## طبقاتِ مسائل

مسائل حفییہ کے کل تین طبقات ہیں:

(۱) ظاهر الروایہ، روایۃ الاصول: اس کا اطلاق ان مسائل پر ہوتا ہے جو

حضرت امام محمدؒ کی کتب (۱) ستہ (مبسوط، زیادات، جامع صغیر، جامع کبیر، سیر صغیر، سیر کبیر) میں (۱) امام محمدؒ کی کل تصنیفات کی تعداد ۹۹۹ ہے، ان میں سے اکثر تباہیں اب نایاب ہیں۔ (مفید المحتی ۳)

حضرت امام ابوحنیفہ اور حضرت امام ابویوسفؓ اور دیگر اصحاب مذهب سے نقل کئے گئے ہیں، یہ درجہ مسائل سب سے اعلیٰ اور اقویٰ ہے اور اس کی سند مذهب میں مشہور و معروف ہے۔ (و کتب ظاہر الروایات اتن ص: ۴۵ س: ۱- إلی قوله - إما متواترة أو مشهورة عنه. ص: ۴۷ س: ۱)

(۲) **غیر ظاہر الروایہ روایۃ التوادر**: اصحاب مذهب کی وہ روایتیں جو امام محمدؐ کی کتب ستہ کے علاوہ دیگر کتابوں میں مذکور ہیں وہ توادر یا غیر ظاہر الروایہ کہلاتی ہیں، کیوں کہ مذهب میں ان کی سند ظاہر الروایہ کی طرح مشہور و معروف نہیں ہے، اس طبقہ کی روایتوں کا درجہ ظاہر الروایہ سے کمتر ہوتا ہے، بریں بناً اگر ان کا تعارض ظاہر الروایہ سے ہو جائے تو ترجیح ظاہر الروایہ کو ہوگی، الایہ کہ مشائخ ظاہر الروایہ کی توڑک کرنے کا فیصلہ کر لیں۔

كتب غیر ظاہر الروایہ میں امام محمدؐ کی تصنیفات مثلًا کیسانیات (۱) ہارونیات (۲) جرجانیات (۳) رقیات (۴) اور امام ابویوسفؓ کے امامی (۵) (یہ املا کی جمع ہے جس کے معنی یہ ہیں کہ استاذ شاگردوں کے سامنے زبانی درس دے اور شاگرد اسے کاپی میں نوٹ کر لیں) اسی طرح وہ مفرد روایتیں شامل ہیں جو دیگر اصحاب مذهب مثلًا حسن بن زیاد (المتوفی ۲۰۳ھ)، محمد بن سماعون (المتوفی ۲۳۳ھ)، معلی بن منصور (المتوفی ۲۱۱ھ) وغیرہ سے مردی ہیں۔ (الثانیة مسائل التوادر ص: ۴۷ س: ۴- إلی قوله - لمسائل معینہ. ص: ۴۹ س: ۱)

(۳) **الفتاوی والواقعات**: وہ مسائل جن کے متعلق ظاہر الروایہ اور نادر الروایہ میں متعدد میں اہل مذهب سے کوئی حکم شرعی منقول نہ ہو اور بعد کے مشائخ و مفتیان نے مجتہدین کے اصول کی روشنی میں ان کا استنباط واستخراج کیا ہو، ایسے مسائل کو اصطلاح اصول میں ”فتاوی“

(۱) یہ ان مسائل کا مجموعہ ہے جو امام محمدؐ کے شاگرد رشید سلیمان بن شعیب الکیسانی نے روایت کئے ہیں۔

(۲) یہ وہ مسائل ہیں جو امام محمدؐ نے ہارون رشید کے زمانہ میں جمع فرمائے ہیں۔

(۳) یہ وہ مسائل ہیں جو امام محمدؐ کے شاگرد علی بن صالح الجرجانی نے جمع کئے ہیں۔

(۴) یہ رسالہ ان مسائل پر مشتمل ہے جنہیں حضرت امام محمدؐ نے شہر قم کے قاضی ہونے کے زمانہ میں مدون کیا تھا۔

(۵) امامی الامام ابویوسف باقاعدہ کتاب کے طور پر مدون ہوئے جن کو ۳۰۰ جلدوں میں جمع کیا گیا ہے۔ (مفید لفظی ۵)

وواعقّات“ سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ ان مشائخ میں حضراتِ صالحینؐ کے بلا واسطہ شاگرد مثلاً عصام بن یوسف ابو عصمهؓ (المتوفی ۲۱۵ھ) محمد بن سماعہؓ (المتوفی ۲۳۳ھ) ابراہیم ابن رستم المرزوqiؓ (المتوفی ۲۱۱ھ) موسیؑ بن سلیمان ابو سلیمان الجوزجانيؓ (المتوفی ۲۰۰ھ) ابو حفص البخاریؓ (المتوفی ۲۱۷ھ) اسی طرح اہل مذہب کے شاگردوں کے شاگردوں مثلاً محمد بن سلمہ البغیؓ (المتوفی ۲۷۸ھ) محمد بن مقاتل الرازیؓ (المتوفی ۲۶۸ھ) نصیر بن یحییٰ البغیؓ (المتوفی ۲۶۸ھ) ابوالنصر محمد بن سلامؓ (المتوفی ۳۰۵ھ) وغیرہ حضرات شامل ہیں۔ یہ حضرات کبھی کبھی عرف و ضرورت کو دیکھتے ہوئے مذہب کی صریح روایت کے خلاف بھی فتویٰ دیدیتے ہیں۔ الشالۃ الفتاویٰ الواقعات ص:

(۱) إلی قوله - لدلائل واسباب ظهرت به ص: ۵۰ س: ۴۹

### حضرت شاہ ولی اللہؒ کا ارشاد

حضرت شاہ ولی اللہؒ اپنے رسالہ ”عقد الجید فی احکام الاجتہاد والتقليد“ میں ارشاد فرماتے ہیں کہ محققین فقهاء کے نزدیک مسائل احناف کل چار قسموں پر مشتمل ہیں:

(۱) ظاہر مذہب : یعنی وہ مسائل جو اصحاب مذہب سے مشہور و معروف طریقے پر مروی ہیں، ان مسائل کو فقهاء ہر حال میں قبول کرتے ہیں۔

(۲) روایات شاذہ : یعنی وہ مسائل جو اصحاب مذہب (امام صاحب اور صالحینؐ) سے شاذ روایتوں کے واسطے سے منقول ہیں، ان روایتوں کو فقهاء اسی وقت قبول کرتے ہیں جب کہ وہ ظاہر مذہب کے موافق ہوں۔

(۳) تحریجات متأخرین (متفقہ) : یعنی وہ مسائل جن کی تحریج کا کام اصحاب مذہب نے نہیں کیا بلکہ متأخرین فقهاء نے انجام دیا ہے اور جمہور فقهاء اس پر متفق رہے ہیں۔ اس طرح کی تحریجات پر بہر حال فتویٰ دینا ضروری ہے، ان سے صرف نظر نہیں کیا جاسکتا۔

(۴) تحریجات متأخرین (مختلف فيه) : یعنی متأخرین کے ایسے مستخرج مسائل جن پر جمہور اہل مذہب متفق نہ رہے ہوں، ایسے مسائل کو اصول مذہب، ظاہر مذہب، نظائر

مذہب اور سلف کی تصریحات پر پیش کیا جائے گا، اگر وہ ان کے مطابق ہوں تو قبول کریں گے ورنہ چھوڑ دیں گے۔

## حضرت مولانا عبدالحی فرنگی محلیؒ کی تحقیق

حضرت مولانا عبدالحی فرنگی محلیؒ (التوفی ۱۳۰۴ھ) اپنے رسالہ "النافع الکبیر" میں بطور "الجامع الصغير" میں تحریر فرماتے ہیں کہ کتب فقہ میں مذکورہ جزئیات پانچ طبقوں پر منقسم ہیں:

(۱) ادله اربعہ کے پوری طرح موافق مسائل: یعنی ایسی جزئیات جو کتاب و سنت اجماع اور ائمہ کے بیان کردہ قیاس کے موافق ہوں اور ان کے خلاف کوئی نص شرعی یا دلیل شرعی موجود نہ ہو۔

(۲) اکثر یا اقوی ادله کے موافق مسائل: یعنی ایسے مسائل جو کسی دلیل شرعی سے ماخوذ ہوں لیکن ان کے مقابلہ میں کوئی دوسری شرعی دلیل بھی موجود ہو اور دلیل مخالف ماخوذ عنہ دلیل سے کمتر درجہ کی ہو یا اپنے اندر اس کے مقابلہ میں کچھ خفار کھتی ہو، مذکورہ بالا دونوں طرح کے مسائل یقیناً قابل قبول ہوں گے۔

(۳) متعارض ادله سے ماخوذ مسائل: اس طبقہ کا اطلاق ان مسائل و جزئیات پر ہوتا ہے جو بعض دلائل شرعیہ سے مستنبط ہوں لیکن ان کے مقابلہ میں صحیح اور قوی دلائل بھی پائے جاتے ہوں، ایسے مسائل میں مجتہد غور و فکر کر کے کسی ایک جانب کو راجح قرار دے گا اور غیر مجتہد اپنے سے اوپر کے مجتہدین یا فقہاء کا اتباع کرے گا۔

(۴) مخالف شرع صرف قیاسی مسائل: یعنی ایسے مسائل جو قیاس سے نکالے گئے ہیں حالاں کہ قیاس سے اوپر درجہ کی کوئی معتبر دلیل اس حکم کے خلاف موجود ہے تو ایسی صورت میں قیاس کو چھوڑ دیا جائے گا، اور شرعی دلیل پر عمل کیا جائے گا۔

(۵) غیر مدلل مسائل: یعنی ایسی جزئیات جو کسی بھی شرعی دلیل پر مبنی نہیں ہیں بلکہ بعض متاخرین نے انہیں ویسے ہی مسائل مذہب میں شامل کر دیا ہے، اس طرح کے مسائل کا ترک

بلکہ ان کی تردید ضروری ہے۔

واضح رہے کہ مولانا فرنگی محلیؒ نے مسائل کتب احتجاف کے مذکورہ بالاطبقات بیان کر کے فقہ خفی پر زبان طعن دراز کرنے والوں کو خاموش کرنے کی کوشش کی ہے کہ اگر بالغرض کتب فقه میں کوئی مسئلہ خلاف نص آ گیا ہے تو اس میں اصحاب مذہب کا قصور نہیں بلکہ بعض متاخرین کی غلطی سے ایسا ہوا ہے اور ایسے مسائل میں حکم یہی ہے کہ دلیل شرعی پر ہی عمل ہوگا۔ مثلاً تشهد کے وقت انگلی اٹھانے کا مسئلہ، کہ صاحب ”خلاصہ کیدانیہ“ نے اس کو محترمات صلاۃ میں شمار کیا ہے، حالاں کہ صحیح احادیث اشارہ کی مشروعیت پر دال ہیں اور پھر خود صاحب مذہب سے اشارہ کے مشروع ہونے کا ثبوت ملتا ہے، لہذا علماء حنفیہ نے صاحب ”خلاصہ کیدانیہ“ کی تصریح کو قبول نہیں کیا ہے اور حدیث کے مطابق فتویٰ دیا، چنان چہ ملاعیل قاریؒ کا ایک رسالہ ”تزیین العبارۃ بتحسین الاشارة“ اسی موضوع پر ہے۔

## خفی فتاویٰ کی تدوین

تتبع سے معلوم ہوتا ہے کہ فتاویٰ حنفیہ میں سب سے پہلی کتاب فقیہ ابواللیثؒ (المتونی ۵۹۳ھ) نے کتاب النوازل کے نام سے تصنیف کی۔ آپ کے بعد دیگر مشائخ نے بھی اسی انداز کے مجموعے مرتب کئے جیسے مجموع النوازل للشیخ احمد بن موسیٰ الکشیؒ (المتونی ۵۵۰ھ) اور الواقعات للإمام ابوالعباس احمد بن محمد بن عمر الناطقیؒ (المتونی ۴۳۶ھ) اور الواقعات للصدر الشهید ابی محمد حسام الدینؒ (المتونی ۵۳۶ھ) وغیرہ۔ پھر متاخرین کی ان کتابوں مثلاً فتاویٰ قاضی خاں للإمام حسن بن منصور الأوزجندیؒ (المتونی ۵۹۲ھ) اور الخلاصہ للشیخ طاہر بن احمد الجخاریؒ (المتونی ۵۲۲ھ) وغیرہ میں طبقات مسائل کی ترتیب کا لحاظ کئے بغیر کیف ماتفاق مسائل لکھ دئے گئے ہیں۔ جب کہ علامہ محمد بن محمد رضی الدین السرخسیؒ (المتونی ۵۳۳ھ) نے اپنی کتاب ”المحيط“ میں ترتیب وارالگ الگ مسائل لکھے ہیں، یعنی اولاً ظاہر الرؤایہ پھر نوادر اور اس کے بعد فتاویٰ، یقیناً یہ ایک قابل قدر اور لائق تعریف کارنامہ ہے۔

فتاویٰ کی تدوین کا کام ہر زمانہ میں ہوتا رہا ہے، آج بھی جاری ہے، مگر اب صرف عموماً مفتی بے اقوال کا الترام کیا جاتا ہے، طبقات کا لحاظ نہیں رکھا جاتا، لیکن مفتی کے لئے یہ اصول اپنی جگہ مسلم ہے کہ تعارض کے وقت اسے اعلیٰ درجہ کی ہی روایت لینی چاہئے بشرطیکہ عام مشائخ نے درجہ اعلیٰ کو چھوڑنے کی صراحت نہ کی ہو۔ (وأول كتاب جمع في فتواهم فيما بلغنا ص: ۵۰)

س: ۲ - إلی قوله - ونعم ما فعل ص: ۵۲ س: ۲:

## مبسوط کے نسخ

امام محمدؒ کی اولین تصنیف مبسوط کے متعدد نسخ پائے جاتے ہیں جن میں سب سے مشہور وہ نسخہ ہے جو آپ کے شاگرد رشید ابوسلمان الجوز جانی (المتونی ۲۰۰ھ) سے منقول ہے۔ واعلم أن نسخ المبسوط المروي عن محمد متعددة وأظہرها مبسوط أبي سليمان الجوز جانی ص: ۵۲ س: ۲:

## مبسوط کی شروحات

متأخرین میں سے بہت سے حضرات نے مبسوط کی شروحات لکھی ہیں، مثلاً شیخ الاسلام ابو بکر المعروف بن خواہر زادہ (المتونی ۳۳۳ھ) نے مبسوط کبیر کے نام سے امام محمدؒ کی مبسوط کی شرح لکھی ہے۔ اسی طرح شمس الانئمہ الحلوانی (المتونی ۳۳۸ھ) وغیرہ نے بھی شروحات لکھی ہیں اور ان کو بھی مبسوط ہی کا نام دیا جاتا ہے، حالاں کہ وہ مبسوط نہیں بلکہ اس کی تحریکیں ہیں۔ اسی طرح کامعاملہ جامع صغیر کی شروحات کے ساتھ پیش آیا ہے کہ لوگ جامع صغیر کی شروحوں کو بھی جامع صغیر کی کہہ دیتے ہیں۔ مثلاً کہا جاتا ہے: قال قاضی خان فی الجامع حالاں کا اس سے جامع صغیر کی شرح مراد ہوتی ہے۔ (وشرح المبسوط جماعتہ من المتأخرین ص: ۵۲ س: ۳ - إلی قوله - وشرح الشیخ اسماعیل النابلسی علی شرح الدرر ص: ۵۴، س: ۱)

(۱) یہ قاضی ابوثابت بخاریؓ کے بھانجے تھے اس لئے خواہر زادہ کے نام سے مشہور ہو گئے، مثلاً ہمارے یہاں کسی بڑے بزرگ کے بیٹے کو مطلقاً صاحب زادہ کے نام سے شہرت دی دیتے ہیں۔

## (۹) نادرالروایہ کب ظاہرالروایہ کے درجہ میں آ جاتی ہے

اگر کوئی روایت درجہ کے اعتبار سے نادر ہو اور اس کے مطابق کتب ستہ ظاہرالروایہ میں کوئی روایت مل جائے (اگرچہ اس کے خلاف بھی روایت موجود ہو) تو کبھی وہ نادرالروایہ بڑھ کر ظاہرالروایہ کے درجہ میں آ جاتی ہے۔

### عورت پر حج کی فرضیت کا مسئلہ

اس کی مثال یہ ہے کہ علامہ شمس الدائمہ سرخسی<sup>۱</sup> نے مبسوط میں یہ مسئلہ لکھا ہے کہ ظاہرالروایہ میں عورت پر حج کی فرضیت کے لئے یہ شرط ہے کہ وہ اپنے محرم کے نفقہ کی بھی مالک ہو۔ علامہ سرخسی<sup>۱</sup> (المتوفی ۲۸۳ھ) نے اس پر ظاہرالروایہ کا اطلاق کیا ہے (مبسوط سرخسی ۱۶۳/۲) حالاں کہ یہی روایت صحیح برہانی (۱) اور ذخیرہ محمد بن الصدر السعید (المتوفی ۷ھ) میں حسن بن زیاد سے بواسطہ امام ابوحنیفہ نقش کی گئی ہے، جس سے پتہ چلا کہ روایت نادر ہے، پھر بھی مبسوط میں اسے ظاہرالروایہ کہا گیا ہے، وجہ اس کی یہ ہے کہ اس بارے میں امام محمد<sup>۲</sup> سے روایتیں مضطرب ہیں، ایک روایت حسن بن زیاد کے موافق اور دوسری مخالف ہے۔ تو امام محمد<sup>۲</sup> کی ذکر کردہ دو روایتوں میں سے ایک روایت کے موافق ہونے کی بنا پر علامہ سرخسی<sup>۱</sup> نے حسن بن زیاد کی روایت کو ظاہرالروایہ کا عنوان دے دیا ہے، ورنہ اصل میں وہ نادرالروایہ ہے۔

### تمرین ۱۳:

○ عورت کے حج کی فرضیت کے مسئلہ کے بارے میں کتبِ فقہ سے کم از کم ۳۴ عبارتیں کاپی میں نوٹ کریں۔

(۱) یہ کتاب مدرسہ مظاہر علوم سہارن پور کے کتب خانے میں موجود ہے، اور اب پاکستان اور بیروت سے نئی کمپیوٹر کتابت اور تحقیق کے ساتھ شائع ہو گئی ہے۔ (تفصیل شروع میں دیکھیں)

## کیا راویۃ الاصول اور ظاہر الروایۃ الگ الگ ہیں؟

علامہ ابن کمال پاشا (المتومنی ۱۰۹۳ھ) نے مبسوط سترخی کی مذکورہ تفصیل کو سامنے رکھ کر یہ استدلال کرنے کی کوشش کی ہے کہ راویۃ الاصول اور ظاہر الروایۃ کا مفہوم الگ الگ ہے، یعنی راویۃ الاصول تو صرف انہی روایتوں کو کہا جائے گا جو امام محمدؐ کی کتب ستہ میں مذکور ہوں، جب کہ ظاہر الروایۃ کا مفہوم اس سے قدرے عام ہے باس معنی کہ کبھی کبھی نادر الروایۃ پر بھی ظاہر الروایۃ کا اطلاق کر دیا جاتا ہے، جیسا کہ مذکورہ مسئلہ میں حسن بن زیادؐ کی روایت نادرہ کو ظاہر الروایۃ کہا گیا ہے۔ یہ بیان کر کے ابن کمال پاشا نے ان فقہاء پر نکیر کی ہے جو راویۃ الاصول اور ظاہر الروایۃ کو ایک ہی معنی میں قرار دیتے ہیں۔ (هذا قد فرق العلامہ ابن کمال پاشا ص: ۴۵ س: ۱: إلی قوله لاتكون ظاهر الروایۃ ص: ۵۵ س: ۵)

## ظاہر الروایۃ اور راویۃ الاصول میں تفریق غیر ضروری ہے

علامہ شامیؒ کو علامہ ابن کمال پاشا کی مذکورہ تفریق اور ظاہر الروایۃ اور راویۃ الاصول کے معنی الگ الگ قرار دینے کی رائے پسند نہیں ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ حسن بن زیادؐ کا کسی روایت کو نقل کرنا اس امر کو مستلزم نہیں ہے کہ وہ روایت کتب اصول اور ظاہر الروایۃ میں کسی طرح آئی ہی نہ ہو، بلکہ عین ممکن ہے کہ اس کے موافق کوئی روایت ظاہر الروایۃ میں پائی جائے، چنان چہ عورت کے حج کے مسئلہ میں یہی صورت پیش آئی ہے کیوں کہ وہاں حسن بن زیادؐ کی روایت نادرہ کے موافق امام محمدؐ کی دو روایتوں میں سے ایک روایت موجود ہے۔ اس لئے ظاہر الروایۃ اور راویۃ الاصول کے درمیان اصطلاحی فرق کرنے کی ضرورت نہیں۔ ہاں یہ کہا جاسکتا ہے کہ نادر الروایۃ کے موافق اگر کوئی روایت ظاہر الروایۃ میں بھی ہو (اور اس کے خلاف کو ترجیح نہ دی گئی ہو) تو وہ نادر الروایۃ ظاہر الروایۃ کے درجہ میں آ جاتی ہے، البتہ ابن کمال پاشا کی بات اس وقت صحیح مانی جاسکتی تھی، جب کہ وہ کوئی ایسی مثال پیش کرتے جس میں اس نادر الروایۃ پر ظاہر الروایۃ کا اطلاق کیا گیا ہوتا جس کے موافق کوئی روایت ظاہر الروایۃ اور کتب اصول میں موجود نہ ہوتی، عورت کے حج کی مثال ان کے

مفید مطلب نہیں ہے۔ (هذا وقد فرق العلامہ ابن کمال پاشا ص: ۵۴ س: ۱ - إلى قوله - والله تعالى أعلم ص: ۵۵ س: ۱۱)

## السیر الکبیر کی تحقیق

”السیر“ سیرہ کی جمع ہے جس کے لغوی معنی طریقہ زندگی کے آتے ہیں اور اصطلاح شرع میں اس کا اطلاق آنحضرت ﷺ کے غزوات کے واقعات وغیرہ پر ہوتا ہے، اور السیر الکبیر سے پہلے لفظ کتاب مخدوف ہے اور ”الکبیر“ سیر کی نہیں بلکہ کتاب کی صفت ہے اسی لئے مذکرا لائی گئی ہے، اگر یہ السیر کی صفت ہوتی تو نحوی قاعدہ کی رو سے اسے مؤنث ہونا چاہئے تھا۔ اس تفصیل سے معلوم ہوا کہ سیر الکبیر، جامع الصغیر کہنا صحیح نہیں ہے۔ اسی طرح جو لوگ السیر الکبیر (سین کے فتحہ اور یاء کے سکون کے ساتھ) پڑھتے ہیں وہ بھی ناواقف ہیں۔ (تمہ: السیر جمع سیرة ص: ۵۵ س: ۱۱ - إلى قوله - كما ينطق به بعض من لا معرفة له ص: ۵۶ س: ۲)

تمہrin: ۱۳

○ ایک مثال ایسی پیش کریں جس میں ”نادر الروایہ“ کو ظاہر الروایہ کے درجہ میں رکھا گیا ہو۔

(۱۰) مذهب میں جامع صغیر کا درجہ

کتب ستہ ظاہر الروایہ میں الجامع الصغیر کا درجہ مبسوط یعنی کتاب الاصل سے بڑھا ہوا ہے کیوں کہ اس کی تصنیف مبسوط کے بعد میں عمل میں آتی ہے۔

### مبسوط کو کتاب الاصل کہنے کا سبب

حضرت امام محمد گی تصنیف مبسوط کو کتاب الاصل کہنے کی وجہ یہ ہے کہ کتب ستہ میں سب سے پہلے اس کی تصنیف کی گئی ہے بعد میں دیگر کتابوں کی تدوین ہوئی۔ (واشتهر المبسوط بالأصل ص: ۵۶ س: ۳ - إلى قوله - فما فيه فهو المعمول عليه ص: ۵۶ س: ۹)

## الجامع الصغير کا سبب تالیف

الجامع الصغير کا سبب تالیف یہ ہے کہ حضرت امام ابو یوسفؓ نے امام محمدؐ سے اس خواہش کا اظہار کیا کہ وہ ایک ایسی کتاب مرتب کریں جس میں ان (حضرت امام ابو یوسفؓ) کے واسطے سے حضرت امام ابو حنفیؓ کی فقہی روایتیں جمع کردی جائیں۔ چنانچہ امام محمدؐ نے اس حکم کی تعمیل کی اور الجامع الصغير لکھ کر استاذ محترم کی خدمت میں پیش کی، امام ابو یوسفؓ نے اس پر نہایت خوشی کا اظہار فرمایا اور اپنی عظمتِ شان اور جلالتِ قدر کے باوجود سفر و حضر میں اس کتاب کو اپنے ساتھ رکھنے لگے، یہ کتاب پندرہ سو بیتیں مسائل پر مشتمل ہے، امام علی رازیؓ سے منقول ہے کہ جو شخص اس کتاب کو سمجھ لیتا وہ ہمارے ساتھیوں میں سب سے زیادہ ذکری و فہیم سمجھا جاتا تھا، اور اس وقت تک کسی کو قاضی نہ بنایا جاتا جب تک کہ اس سے جامع صغير کا امتحان نہ لے لیا جاتا۔ اور مشہور ہے کہ شام کے گورنر عیسیٰ بن ابی بکر کا معمول تھا کہ الجامع الکبیر کے حفظ کرنے والے کو سوا شرفی اور الجامع الصغير کے حافظ کو پیچا س اشرفتی انعام سے نوازا کرتے تھے۔ (مقدمہ هدایہ اخیرین لکھنؤی ۴) (وسبب تالیفہ أنه طلب منه ابو یوسف ص: ۵۶ س: ۹ - إلى قوله - حتى يمتحنون به الخ۔ ص: ۵۷ س: ۱)

## الجامع الصغير کے چھ اختلافی مسئلے

امام محمدؐ نے جب الجامع الصغير حضرت امام ابو یوسفؓ کی خدمت میں پیش کی تو آپ نے فرمایا کہ ویسے تو ابو عبد اللہؓ یعنی امام محمدؐ کو اکثر روایتیں یاد ہیں مگر چند مسائل نقل کرنے میں ان سے غلطی ہو گئی ہے۔ جب یہ بات امام محمدؐ کو معلوم ہوئی تو انہوں نے فرمایا کہ مجھے تو اپنی یادداشت پر پورا بھروسہ ہے لیکن استاذ محترم کو غالباً ذہول ہو گیا ہے، ان اختلافی مسائل کی تعداد چھ ہے، جنہیں علامہ ابن نجیمؓ نے البحر الرائق ۲۱ باب الوتر والنوافل میں ذکر کیا ہے، افادہ کے لئے وہ مسائل ذیل میں درج کئے جاتے ہیں۔ (وفی غایۃ البیان ص: ۵۷ س: ۱ - إلى قوله - باب الوتر والنوافل ص: ۵۷ س: ۳)

**مسئلہ (۱) :** اگر کوئی شخص چار رکعت والی نماز میں صرف پہلی یا تیسرا یا دوسرا اور چوتھی رکعت میں قراءت کرے تو جامع صغیر میں لکھا ہے کہ اسے چار رکعت نماز قضاء کرنی ہوگی۔ اور امام ابو یوسفؓ نے فرمایا کہ میں نے مذکورہ بالامسئلہ میں صرف دور رکعت قضائی کرنے کا قول نقل کیا تھا۔

(شامی ۳۲۷ مطبوعہ ایم سعید کراچی بحث المسائل الستہ العشرۃ)

**مسئلہ (۲) :** مستحاصہ یا کوئی اور معذور اس کا وضو خروج وقت سے ٹوٹے گا یا دخول وقت سے؟ امام محمدؐ نے جامع صغیر میں صرف خروج وقت پر نقض کا مدار رکھا ہے، اور امام ابو یوسفؓ نے خروج وقت اور دخول وقت دونوں کو ناقض و ضو قرار دیا ہے اور کہا ہے کہ میں نے مستحاصہ کا وضو دخول وقت سے ٹوٹنے کی روایت امام صاحبؐ سے نقل کی ہے۔ (تفصیل دیکھئے: شامی زکریا ارجمند، شامی کراچی ۱۹۰۵ء، شامی کراچی ۱۹۶۱ء)

مطلوب فی احکام المعدود، البحر الرائق ۲۱۰۲، ہدایہ ۵۲۱، قبل فصل فی الغاس)

**مسئلہ (۳) :** اگر کوئی شخص غاصب سے مغضوب غلام کو خرید کر آزاد کر دے تو جامع صغیر میں امام ابوحنیفہؓ کا یہ مذہب بیان کیا ہے کہ اس کی آزادی اصل مالک کی اجازت پر موقوف رہے گی۔ اگر مالک نے اجازت دیدی تو آزادی نافذ ہو جائے گی (یہی امام ابو یوسفؓ کا مذہب ہے) اس پر امام ابو یوسفؓ نے اعتراض کیا کہ میں نے تو امام صاحبؐ سے یہ روایت نقل کی تھی کہ ایسی صورت میں مالک کی اجازت کے باوجود آزادی متحقق نہ ہوگی (امام محمدؐ کا مذہب یہی ہے) یہ سن کر امام محمدؐ نے فرمایا کہ میں نے تو وہی بات نقل کی ہے جو آپ نے مجھ سے بیان کی تھی۔ واضح رہے کہ تمام فقہی کتابوں میں زیر بحث مسئلہ میں امام صاحبؐ کی رائے امام ابو یوسفؓ کے ساتھ ذکر کی جاتی ہے۔ (العنایم فتح القدير ببردت ۷۷۵)

**مسئلہ (۴) :** امام محمدؐ نے الجامع الصغیر میں امام ابوحنیفہؓ کا یہ مسلک تحریر کیا ہے کہ جو عورت بھرت کر کے دارالاسلام آئے تو عدت گزارے بغیر اس سے نکاح درست ہے؛ البتہ اگر وہ حاملہ ہے تو وضع حمل تک نکاح درست نہ ہوگا۔ اس سلسلہ میں امام ابو یوسفؓ کا کہنا تھا کہ یہ روایت میں نے اس طرح بیان کی تھی کہ ایسی عورت کے حمل کے باوجود نکاح درست ہے البتہ وضع حمل تک اس سے جماعت نہیں کیا جائے گا۔ (یہی روایت حسن بن زیادؓ کی بھی ہے) (شامی ۳۱۹، شامی زکریا ارجمند ۱۹۰۵ء)

یاد رہے کہ اس مسئلہ میں صاحبین کے نزدیک عدت اور وضع حمل کے بغیر اس عورت سے نکاح درست نہیں ہے۔ (شامی کراچی ۱۹۳۷ء، شامی زکر یا ۳۶۵)

**مسئلہ (۵) :** ایک غلام دو آدمیوں کے درمیان مشترک ہوا گروہ کسی ایسے شخص کو قتل کر دے جوان دونوں مالکوں کا قربی عزیز (مثال کے طور پر دو بھائیوں کا مشترک غلام ان کے والد کو قتل کر دے) پھر ان دونوں شریکوں میں سے کوئی ایک اپنے والد کا قصاص معاف کر دے تو امام صاحب کے نزدیک والد کا خون رایگاں جائے گا۔ اور قصاص یادیت کچھ واجب نہ ہوگی، جب کہ صاحبین کے نزدیک اس صورت میں معاف کرنے والے شریک پر لازم ہوگا کہ وہ اپنے دوسرے شریک کو چوتھائی غلام یا چوتھائی دیت کی رقم ادا کرے۔ یہ ہے مسئلہ کی وہ نوعیت جو حضرت امام محمدؓ نے الجامع الصغیر میں درج فرمائی ہے۔ حالاں کہ اس مسئلہ میں امام ابو یوسفؓ کے درمیان کوئی اختلاف نہیں ہے، بلکہ ایک دوسرے جزوئی میں اختلاف ہے، اور وہ یہ ہے کہ مثلاً ایک غلام اپنے مولیٰ کو قصداً قتل کر دے اور اس مولیٰ کے دو بیٹے وارث ہوں جن میں سے ایک بیٹا قاتل کو معاف کر دے تو اس صورت میں وہ اختلاف ہے جو جامع صغیر میں لکھا گیا، یعنی امام صاحب کے نزدیک اس کا خون بے کار جائے گا، اور حضرات صاحبین کے نزدیک ربع دیت لازم ہوگی۔ (شامی کراچی ۱۹۸۱ء، شامی زکر یا ۲۹۳-۲۹۴)

**مسئلہ (۶) :** کسی آدمی کا انتقال ہوا، اس نے اپنے ورثاء میں ایک بیٹا اور ترکہ میں ایک غلام چھوڑا، پھر غلام نے یہ دعویٰ کیا کہ میت نے حالت صحت میں اسے آزاد کر دیا تھا، اسی کے ساتھ کسی اور شخص نے میت پر ایک ہزار روپیہ قرض ہونے کا بھی دعویٰ کیا اور غلام کی قیمت مثلاً ایک ہزار روپیہ ہے تو اس صورت میں غلام فوراً آزاد ہو جائے گا، مگر اسے اپنی قیمت کے بقدر رقم میت کے قرض خواہوں کو ادا کرنی لازم ہوگی۔ الجامع الصغیر میں امام صاحب سے یہی روایت نقل کی گئی ہے، مگر امام ابو یوسفؓ نے فرمایا کہ میں نے یہ روایت اس طرح بیان کی تھی کہ جب تک غلام اپنی پوری قیمت ادا نہ کر دے گا وہ غلام ہی رہے گا، آزاد نہ ہوگا۔ (ابحر الرائق ۲۱۲)

## تہرین: ۱۳

○ مذکورہ چھ مسائل کے متعلق فقہی عبارتیں سمجھ کر نقل کریں اور کوشش کریں کہ ہر مسئلہ کے بارے میں ایسی عربی عبارت مل جائے جس میں صراحةً امام محمدؐ اور امام ابو یوسفؐ کا مکالمہ مذکور ہو۔

### (۱۱) السیر الکبیر پر اعتماد

اگر کوئی مسئلہ کتب ستہ ظاہر الروایہ میں مختلف فیہ ہو اور اس کے بارے میں روایتیں متعدد ہوں تو السیر الکبیر میں مذکور روایت کو ترجیح ہوگی، الا یہ کہ مشايخ نے کسی اور روایت کو مفتی بہ بنایا ہو یا مفتی مجتہد نے دلیل کی قوت کی بنابر کسی دوسری روایت کو ترجیح دی ہو۔

ماخذ: وفي البیری شرح الاشباه ص: ۵۸ س: ۸ - إلى قوله - ولو كان

قول زفر۔ ص: ۵۹ س: ۱ -

### صغیر اور کبیر کا فرق

امام محمدؐ کی وہ تصنیف جو ”الصغریں“ کی صفت کے ساتھ متصف ہیں وہ حضرت امام ابو یوسفؐ کے مطالعہ میں آچکی ہیں، جیسے ”الجامع الصیغزی“، ”السیر الصیغزی“، وغیرہ۔ اور جن کتابوں میں ”الکبیر“ کی صفت لگی ہوئی ہے وہ اس بات کی دلیل ہے کہ ان پر حضرت امام ابو یوسفؐ کی نظر نہیں پڑی، جیسے الجامع الکبیر اور السیر الکبیر وغیرہ۔ (وقال في البحر في بحث التشهید ص: ۵۷ س: ۳ - إلى قوله - والسیر الكبير انتهى ص: ۵۷ س: ۷)

### محقق ابن ہمامؓ کی تحقیق

علامہ ابن الہمام کی تحقیق یہ ہے کہ جس مسئلہ میں امام محمدؐ کوئی اختلاف بیان نہ کریں وہ سبھی اصحاب نہ بہ کا متفقہ قول سمجھا جاتا ہے۔ (وذکر المحقق ابن الہمام ص: ۵۷ س: ۷ -

إلى قوله - فهو قوله جمیعاً ص: ۵۸ س: ۱)

## السیر الکبیر کی وجہ تالیف

السیر الکبیر کی تالیف کا سبب یہ بنا کہ جب امام محمدؐ کی تصنیف "السیر الصیغہ" شام کے مشہور محدث امام اوزاعیؓ (المتوفی ۱۵۷ھ) کی نظر سے گزری تو انہوں نے لوگوں سے پوچھا کہ کس کی تالیف ہے؟ لوگوں نے بتایا کہ اس کے مؤلف امام محمد بن الحسن الشیعیؓ (المتوفی ۱۸۹ھ) ہیں جو عراق کے باشندے ہیں، اس پر امام اوزاعیؓ نے بر جستہ کہا کہ اہل عراق کو سیر و مغازی کے سلسلہ میں تصنیف کا کیا حق ہے جب کہ اکثر صحابہؓ شام اور حجاز میں رہے نہ کہ عراق میں، کیوں کہ عراق تو بعد میں فتح ہوا ہے۔ امام اوزاعیؓ کا یہ مقولہ کسی طرح امام محمدؐ تک پہنچ گیا، اور اس تبصرہ سے آپ پر گرفتاری ہوئی، چنان چہ آپ نے وقت فارغ کر کے نہایت دیدہ ریزی کے ساتھ "السیر الکبیر" کی تالیف کا کارنامہ انجام دیا، بعد میں جب "السیر الکبیر" امام اوزاعیؓ کے پاس پہنچی اور انہوں نے اس کا مطالعہ کیا تو اعتراف حق کرتے ہوئے بر ملا کہا کہ یہ کتاب اگر صحیح احادیث و روایات پر مشتمل نہ ہوتی تو میں کہہ دیتا کہ اس کا مؤلف خود اپنی طرف سے علم کی تخلیق کرتا ہے۔ اور واقعہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اصحاب رائے کو مؤلف کے لئے متعین و مقدر فرمادیا ہے۔ صدق اللہ العظیم و فوق کل ذی علم علیم۔

مشہور ہے کہ امام محمدؐ نے اس کتاب کی عظمتِ شان بتانے کے لئے اسے ساٹھ جلد و میں نقل کرایا اور ایک سواری پر کھلکھلیفہ کے دربار میں لے گئے، خلیفہ وقت نے اسے بہت پسند کیا اور اپنے زمانہ کے قابل فخر کارنا مول میں اسے شامل کیا۔ (وذکر الإمام شمس الأئمة السرخسی ص: ۵۸ س: ۱ - إلى قوله - وعده من مفاخر زمانه ص: ۵۸ س: ۷)

## كتب ستة ظاهر الرواية ككتل خص مجموعه

امام ابوالفضل محمد بن محمد الشیر بالحکم الشہید المرزوqi البخنیؓ (المتوفی ۳۲۷ھ) نے امام محمدؐ کتب ستہ ظاہر الروایہ کے مسائل کو سیکھا فرمایا اور تکرار کو حذف کر کے "الکافی" کے نام سے کتب ستہ

کا خلاصہ تیار کیا، یہ کتاب بھی کتب حنفیہ میں انتہائی قابل اعتماد بھی جاتی ہے۔

## کتاب الکافی کی سب سے مشہور شرح

پھر علماء کی ایک جماعت نے افادہ اور استفادہ کی خاطر الکافی کی شروحات لکھنے کا یہ راستہ اختیار کیا۔ ان میں سب سے زیادہ مشہور اور قابل قدر شرح علامہ شمس الدین سرسنگھی کی مبسوط ہے، جو طبقہ فقہاء میں مبسوط سرسنگھی کے نام سے جانی پہچانی جاتی ہے، قاضی تقی الدین تمیمی (المتوفی ۱۰۰۵ھ) نے اس شرح کی تعریف میں یہ اشعار نقش کئے ہیں:

عَلَيْكَ بِمَبْسُوطِ السَّرَّ حُسْنِي أَنَّهُ  
هُوَ الْبَحْرُ وَالدُّرُّ الْفَرِيدُ مَسَائِلُهُ

وَلَا تَعْتَمِدْ إِلَّا عَلَيْهِ فَإِنَّهُ  
يُجَابُ بِإِاعْطَاءِ الرَّغَائِبِ سَائِلُهُ

**ترجمہ:** (۱) مبسوط سرسنگھی کو لازم پکڑو اس لئے کہ وہ سمندر ہے اور اس کے مسائل کیتا موتوی ہیں۔

(۲) اور اس کے مقابلہ میں کسی پر اعتماد نہ کر کیوں کہ اس کا طلب گارخون سے نوازا جاتا ہے۔

(و) جمع الاست کتاب الکافی ص: ۵۹ س: ۱ - إلى قوله - ويحاج

(ب) اعطاء الرغائب سائلہ ص: ۶۰ س: ۲)

## مبسوط سرسنگھی کہا لکھی گئی؟

شمس الدین سرسنگھی (المتوفی ۳۸۳ھ) علامہ عبدالعزیز حلوانی کے شاگرد رشید اور اپنے زمانہ کے بڑے فقیہ اور مصنف تھے، انہوں نے الکافی کی شرح ”مبسوط“ کا املاع اس حالت میں کرایا جب کہ آپ ”اوز جند“ کے قید خانہ میں بعض حاسدین کی شکایات کی بنا پر قید تھے۔ یہ المانی کتاب اس وقت پندرہ جلدیوں میں مکمل ہوئی تھی، اس سے آپ کی عبرتیت، وسعت علمی اور قوت حافظہ کا اندازہ لگایا جاسکتا ہے۔ (وقال العلامہ الشیخ هبة اللہ ص: ۶۰ س: ۲ - إلى قوله - توفي سنة أربع مائة و تسعين ص: ۶۰ س: ۵)

## مطلق مبسوط سے مبسوط سرخی مراد ہوتی ہے

ویسے تو مدہب حنفیہ میں مبسوط کے نام سے کئی کتابیں پائی جاتی ہیں، مثلاً: (۱) امام ابو یوسف<sup>ج</sup> (المتوفی ۱۸۲ھ) کی مبسوط۔ (۲) امام محمد<sup>ج</sup> (المتوفی ۱۸۹ھ) کی مبسوط، جسے کتاب الاصل کہا جاتا ہے۔ (۳) علامہ جرجانی<sup>ج</sup> (المتوفی ۳۹۸ھ) کی مبسوط۔ (۴) خواہ زادہ<sup>ج</sup> (المتوفی ۳۸۳ھ) کی مبسوط۔ (۵) شمس الائمه حلوانی<sup>ج</sup> (المتوفی ۳۲۸ھ) کی مبسوط۔ (۶) ابوالیسر البرزدوی<sup>ج</sup> (المتوفی ۴۹۳ھ) کی مبسوط۔ (۷) علی البرزدوی<sup>ج</sup> (المتوفی ۴۸۲ھ) کی مبسوط۔ (۸) سید ناصر الدین سرقندی<sup>ج</sup> (المتوفی ۵۵۶ھ) کی مبسوط۔ (۹) اور ابوالیث نصر بن محمد<sup>ج</sup> (المتوفی ۳۷۳ھ) کی مبسوط۔ لیکن جب بھی مطلق مبسوط بولا جائے گا تو اس سے ”مبسوط سرخی“ مراد ہوگی، جو حاکم شہید کی ”الكافی“ کی شرح ہے۔ (وللحنفیہ مبسوطات کثیرہ ص: ۶۰ س: ۵ - إلى قوله -

وهو شرح الكافی ص: ۶۱ س: ۱)

## حاکم شہید کا مختصر تعارف

حاکم شہید (محمد بن محمد بن احمد بن عبد اللہ<sup>ج</sup>) اپنے زمانہ کے بڑے عالم اور محدث تھے، پہلے بخارا کے قاضی رہے، پھر امیر مجید کے زمانہ میں خراسان کی وزارت پر متمکن رہے۔ علامہ ذہبی<sup>ج</sup> (المتوفی ۷۰۷ھ) نے ان کا ذکر تعریف کے ساتھ کیا ہے، اور حاکم نیشاپوری<sup>ج</sup> (المتوفی ۴۰۵ھ) نے تاریخ نیشاپور میں لکھا ہے کہ میں نے حنفی محدثین میں حاکم شہید سے زیادہ کسی کو فن حدیث کا جاننے والا نہیں پایا، آپ کو ۳۳۲ھ ربیع الثانی میں سجدہ کی حالت میں شہید کیا گیا، اسی بنا پر آپ کو شہید کہا جاتا ہے۔ (والکافی هذا هو الكافی للحاکم الشهید ص: ۶۱ س: ۱ - إلى قوله - سنة أربع وثلاثين وثلاثمائة ص: ۶۱ س: ۴)

## مبسوط سرخی ”المختصر“ کی شرح نہیں

علامہ حاکم شہید کی ”الكافی“ کے علاوہ ”المختصر“ اور ”الممثقب“ وغیرہ کے نام سے اور بھی

تصنیفات ہیں، جس کی وجہ سے کبھی کبھی لوگوں کو علامہ سرخی کی عبارت: فرأیت الصواب فی تالیف شرح المختصر سے یہ اشتباہ ہوتا ہے کہ مبسوط سرخی "الكافی" کی نہیں بلکہ "المختصر" کی شرح ہے۔ چنانچہ علامہ خیر الدین الرٹی شارح "الاشباء" کو بھی اسی قسم کا وہم ہو گیا۔ علامہ شامی نے اس اشتباہ کو رفع کرتے ہوئے وضاحت کی ہے کہ بعض مرتبہ کتاب الكافی کو بھی مختصر کے نام سے موسوم کیا جاتا ہے (کیوں کہ وہ کتب ستہ کا خلاصہ ہے) جیسا کہ غایۃ البیان میں جگہ جگہ یہ عبارت آئی ہے: قال الحاکم الشهید فی مختصرہ المسمی بالکافی اس لئے مبسوط سرخی کی عبارت سے یہ وہم نہ ہونا چاہئے کہ وہ الكافی کے علاوہ کسی اور کتاب کی شرح ہے، بلکہ یہ بات متعین ہے کہ مبسوط سرخی الكافی ہی کی شرح ہے۔ (قلت وللحاکم الشهید المختصر ص: ۶۲ س: ۱-۴)۔

## تمرین: ۱۵

○ مبسوط سرخی حاصل کر کے اس کی فہرستوں کی ترجیح کا پی میں نوٹ کریں۔

## (۱۲) روایتوں میں اختلاف کی وجوہات

کسی مسئلہ میں ایک ہی امام سے متعدد اقوال و روایات منقول ہونے کی مختلف وجوہات ہو سکتی ہیں:

(۱) سننے میں غلطی: یعنی کسی مسئلہ کے جواب میں مجتہد نے "ہاں" کہا اور سننے والے نے "نہیں" سمجھ لیا، اور اسی اعتبار سے ایک نے جواز اور دوسرے نے عدم جواز کی روایت نقل کی۔

(۲) زمانہ کا تعداد: یعنی مسئلہ کے بارے میں مجتہد کی رائے مختلف زمانوں میں الگ الگ رہی ہو، اور کوئی راوی ایک زمانہ کے اعتبار سے جواز کی روایت اور دوسرے راوی دوسرے زمانہ کے اعتبار سے عدم جواز کی روایت نقل کر دے۔

(۳) **قياس واستحسان** : تیسری وجہ یہ ہوتی ہے کہ کبھی مسئلہ کا مدار قیاس اور استحسان دونوں پر ہوتا ہے، اور مجتهد کبھی قیاس پر فتویٰ دیتا ہے ورنہ کبھی استحسان پر، جس کی وجہ سے ایک ہی مجتهد سے ایک مسئلہ میں روایتیں متعدد ہو جاتی ہیں۔

(۴) **حکم واحتیاط** : کبھی ایسا ہوتا ہے کہ مسئلہ کے بارے میں مجتهد کسی وقت شرعی حکم بیان کرتا ہے، اور کبھی احتیاط پر فتویٰ دیتا ہے اور ہر موقع کا راوی اپنا سنا ہوا حکم نقل کر دیتا ہے۔

(۵) **تردّد مجتهد** : اور اختلاف کی ایک اہم وجہ یہ بھی ہے کہ کبھی خود مجتهد کو دلائل میں تعارض اور ترجیح سے عاجز ہونے کی بنا پر کسی مسئلہ میں دو حکموں کے درمیان تردود ہو جاتا ہے، اور اسی بنا پر دونوں طرح کی روایتیں اس کی طرف بلا کسی ترجیح کے منسوب کر دی جاتی ہیں۔

## کیا ایک امام کی طرف ایک مسئلہ میں دو قول منسوب ہو سکتے ہیں؟

یہاں ایک اصولی بحث یہ ہے کہ ایک مسئلہ میں ایک امام سے دو قول یا دو روایتیں بیک وقت منقول ہو سکتی ہیں یا نہیں؟ تو اس بارے میں عام اصولی کتابوں میں یہ تفصیل ہے کہ بیک وقت ایک ہی مسئلہ میں ایک مجتهد کی طرف دو قول کا انتساب صحیح نہیں ہے، کیوں کہ اگر انتساب صحیح نہیں تو تضاد لازم آئے گا، لہذا اگر ان دو قول میں سے کسی کا مؤخر ہونا معلوم ہو جائے تو وہی قول متعین ہو جائے گا، اور اگر تاریخ کا علم نہ ہو تو مفتی مجتهد دلائل و علل پر غور کر کے کسی ایک قول کو ترجیح دے گا، اور مفتی مقلد عامی اپنے سے بڑے مفتی کی رائے پر عمل کرے گا، اور مفتی مقلد فقیہہ متاخرین کی رائے میں سے جو اس کے نزدیک صحیح اور احاطہ ہوا سے اختیار کرے گا۔ (اعلم بآن المنقول عن عامة العلماء ص: ۶۲ س: ۶ - إلی قوله - کذا فی التحریر للمحقق ابن

## اختلافِ روایت اور اختلافِ قول میں فرق

روایتوں میں اختلاف اور اقوال میں اختلاف کے درمیان قدرے فرق ہے۔ بایس معنی کہ قول تو اس کلام کو کہیں گے جو مجھتد سے صادر ہوا ہے، اور روایت راوی کے کلام کو کہتے ہیں۔ تو قول میں اختلاف منقول عنہ کی جانب سے ہی ہوتا ہے اور روایت میں اختلاف راوی کی طرف سے بھی ہو سکتا ہے، یعنی روایت میں یہ ضروری نہیں کہ منقول عنہ کی طرف سے ہی اختلاف ہو بلکہ اختلاف کی نسبت راوی کی طرف بھی کی جاسکتی ہے کہ ایک راوی ایک بات نقل کرے اور دوسرا اس کے خلاف نقل کرے، حالاں کہ واقعہ میں منقول عنہ نے ایک ہی بات کہی ہو۔ (واعلم أن اختلاف الروایتین ص: ۶۳ س: ۱) – إلى قوله – كما ذكره المحقق ابن أمير حاج في شرح التحرير ص: ۶۳ س: ۳)

## تعدد روایات کی وجہات

علامہ ابن امیر حاج (المتونی ۸۷۹ھ) نے ”تحریر الاصول“ کی شرح میں اختلاف روایات اور اختلاف اقوال میں فرق کو واضح کرنے کے بعد علامہ ابو بکر بلغیؒ کے حوالہ سے نقل کیا ہے کہ امام ابوحنیفؓ سے روایات متعدد ہونے کی چار وجوہات ہیں:

- (۱) سمعان میں غلطی: یعنی ایک راوی نے کچھ سننا اور دوسرے نے کچھ اور سننا، اور ہر ایک نے اپنی سمجھ کے اعتبار سے روایت کر دی۔
- (۲) زمانہ کا تعذّد: یعنی امام صاحب کی رائے کئی زمانوں میں الگ الگ رہی اور ہر راوی نے اپنے زمانہ کے اعتبار سے روایت کر دی۔
- (۳) قیاس واستحسان: کہ ایک راوی نے قیاسی حکم سننا، اور دوسرے نے استحسانی اور ہر ایک نے اپنے سماں کے مطابق حکم نقل کر دیا۔
- (۴) حکم واحتیاط: کہ ایک راوی نے شرعی حکم کی معلومات حاصل کیں، دوسرے نے احتیاطی حکم سننا، اور دونوں کی روایتیں الگ الگ ہو گئیں۔

تو یہ چار وجوہات ہیں جن کی بنا پر امام صاحبؐ سے روایات ایک ہی مسئلہ میں متعدد ہو گئی ہیں۔ گویا کہ علامہ بلینگیؒ کے نزدیک یہ تعداد اور اختلاف منقول عنہ یعنی امام صاحبؐ کی طرف سے نہیں بلکہ راویوں کی طرف سے ہے، لہذا ایک ہی امام سے بیک وقت دو قول منسوب ہونے کا مخطوط لازم نہیں آتا۔ (لکن ذکر بعده عن الإمام البليغی ص: ۶۳ س: ۳ - إلى قوله - فینقل کل كما سمع انتهی ص: ۶۳ س: ۸)

## علامہ شامیؒ کا استدرآک

علامہ شامیؒ عام اہل اصول اور علامہ بلینگیؒ کی رائے سے علی الاطلاق متفق نہیں ہیں ان کی

بحث کا خلاصہ یہ ہے کہ:

الف: پہلی بات تو یہ ہے کہ مذکورہ چار وجوہات میں یہ کہنا صحیح نہیں کہ ان میں اختلاف صرف راوی کی جانب سے ہو گا، منقول عنہ کی طرف سے نہ ہو گا۔ کیوں کہ پہلی وجہ (سامع میں غلطی) کے علاوہ بقیہ تین وجوہات میں صاف طور پر منقول عنہ کی طرف سے اختلاف تحقیق ہے، اس لئے کہ اسی کی زبان سے الگ الگ حکم بیان ہوئے ہیں، خاص کر اس وقت جب کہ اس سے روایت بیان کرنے والا ایک ہی شخص ہو، مثلاً امام محمدؐ، امام صاحبؐ سے ایک روایت کتب اصول میں اور دوسری کتب نوادر میں نقل کریں یادوںو روایتیں کتب اصول میں نقل کی جائیں۔ تو ظاہر ہے کہ اس میں یہ بھی نہیں کہا جاسکتا کہ ان سے سامع میں غلطی ہوئی ہے اور یہ بھی بات بعید ہے کہ امام محمدؐ کو متعدد زمانہ کی روایتوں کا علم نہ رہا ہو، اور راجح اور مرجوع عنہ کا پتہ نہ ہو، ہاں اخیر کی دو وجوہات (قياس و استحسان اور حکم و احتیاط) کے تحقق کا امکان ہے (بشر طیکہ مسئلہ میں قیاس و استحسان اور احتیاط کی جہتیں پائی جائیں) مگر ان میں بھی اختلاف منقول عنہ کی جانب سے ہو گا، اس اعتبار سے اختلاف اقوال اور اختلاف روایات کے معنی میں فرق کرنے کا کوئی مطلب نہ رہا، بلکہ دونوں ایک ہی معنی میں ہو گئے۔ البته اگر راوی متعدد ہوں تو امکانی درجہ میں پہلی وجہ اور دوسری وجہ بھی پائی جاسکتی ہے، اور اخیر کی وجہیں بھی پائی جاسکتی ہیں، مگر ان آخری وجوہات میں اختلاف راوی کی طرف سے نہیں

بَلْكَهُ مِنْقُولٌ عَنْهُ كِي طَرْفٌ سَهِي كَهْلَانِيَّةً گا۔ (فَلَتْ فَعْلِي مَا عَدَا الْوَجْهَ الْأَوَّلَ ص: ۶۳ س: ۸:- إِلَى قَوْلِهِ - فِيمَا إِذَا اخْتَلَفَ الرَّاوِي ص: ۶۳ س: ۱۴)

## تردد مجتهد

ب: اختلاف اقوال و روايات کی مذکورہ چار وجوہات میں ایک اور وجہ ”تردد مجتهد“ کا بھی اضافہ ضروری ہے، اس لئے کہ کبھی مجتهد دلائل میں تعارض اور ترجیح سے عاجز ہونے کی بنا پر دو وجہوں میں سے ایک جہت کو پوری طرح راجح قرار نہیں دے پاتا۔ اب اگر ایک طرف اس کا کچھ میلان ہوتا ہے تو وہ قول اس کی طرف منسوب کر کے دوسرا جہت کو روایتی اس سے نقل کر دیا جاتا ہے، اور کبھی دونوں قول اس کے لئے مساوی ہو جاتے ہیں، جس کی بنا پر دونوں اقوال کی نسبت اس کی طرف درست ہوتی ہے، چنان چہ علامہ قرائیؒ کی عبارت سے یہی معلوم ہوتا ہے۔ بریں بنا بعض اہل اصول کا یہ قول ہرگز درست نہیں کہ: ”تساوی کی صورت میں کسی قول کی نسبت بھی مجتهد کی طرف درست نہ ہوگی“۔ اسی طرح یہ قول بھی قابل توجہ نہیں کہ: ”ایسی صورت میں صرف ایک قول کی صحت کا اعتقاد رکھنا ہوگا“۔

ہاں اگر ایک قول کی ترجیح کا علم تو ہو جائے جب کہ دوسرے قول سے رجوع کا پتہ نہ ہوتا راجح قول اس کی طرف منسوب ہوگا اور دوسرا قول اس سے روایتی نقل ہوگا اور اگر ایک قول سے بالکلیہ رجوع کر لے تو مر جوع عنہ قول اس کی طرف کسی طرح منسوب نہ ہوگا۔

لیکن یہاں یہ سمجھ لینا چاہئے کہ مجتهد کے رجوع کے بعد بھی مسئلہ میں اختلاف برقرار رہتا ہے، جیسا کہ بعض شافعیہ نے اس کی صراحت کی ہے اور اس کی تائید اصولیین احناف کے اس کلام سے ہوتی ہے کہ اگر کسی جگہ کے ارباب حل و عقد مفتیان کرام کسی مسئلہ میں اختلاف رائے کے بعد اتفاق کر لیں تو سابقہ اختلاف اجماع کے بعد ختم ہو جاتا ہے یا نہیں؟ اس بارے میں علماء کا اختلاف ہے۔ (۱)

(۱) قال في البحر وهو مبني على ان الإجماع المتأخر هل يرفع الخلاف المتقدم فعندهما لا يرفع و عنده يرفع. (البحر الرائق ۱۱۱۷)

توجہ اجماع کے بعد اختلاف کے باقی رہنے یا نہ رہنے میں اختلاف ہو گیا تو قول مرجوع عنہ کے متفق نہ ہونے کی بدرجہ اوپر گنجائش معلوم ہوتی ہے، کیوں کہ اس کے ترک پر اجماع نہیں ہوا ہے (اس سے پتہ چل گیا کہ بیک وقت ایک مجتہد کی طرف کئی اقوال منسوب کئے جاسکتے ہیں) تاہم یہ بات اصولیین کی اس بحث کے منافی ہے جو انہوں نے تعارض ادلہ کی فصل میں کی ہے کہ ”آیات میں تعارض کے وقت حدیث کی جانب، حدیث میں تعارض کے وقت اقوال صحابہ کی جانب، اقوال صحابہ میں تعارض کی صورت میں قیاس کی جانب رجوع کیا جائے گا۔ اور جب دو قیاس آپس میں متعارض ہو جائیں تو پھر تحری کرے اور دل کی گواہی کے مطابق کام کرے، اب جس قول کو معمول بہ بنالے گا تو اس کے خلاف کرنے کی اجازت نہ ہوگی، الایہ کہ تحری سے اوپر درجہ کی کوئی دلیل سامنے آجائے، اور ہمارے اصحاب مذہب سے ایک مسئلہ میں دور و ایتیں نقل ہونے کی وجہ یہ ہے کہ آخری روایت کا علم نہ ہو سکا اور وہ دونوں الگ الگ وقوف میں کہی گئیں، اس لئے ان میں ایک صحیح ہے دوسرا نہیں۔“

اصولیین کی اس وضاحت سے پتہ چلا کہ جن مسائل میں امام صاحب سے مطلقاً دور و ایتیں منقول ہیں وہ آخری روایت سے علمی کی بنا پر ہے اور جہاں ”فی روایۃ عنہ کذا“ کے الفاظ آئے ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ ان کا قول اول ہے یا کتب غیر اصول کی روایت ہے۔ ظاہر ہے کہ تعارض ادلہ کی بحث سمجھ سے بالاتر ہے اس لئے کہ اس سے صاف طور پر یہ لازم آتا ہے کہ ترجیح معلوم نہ ہونے کی شکل میں متعدد اقوال میں سے کسی ایک قول کی نسبت بھی امام صاحب کی طرف درست نہ ہو، کیوں کہ صحیح باطل کی تمیز ہی نہیں ہے۔ حالاں کہ یہ بات مشاہدہ، واقعہ اور فقہاء کے عمل کے خلاف ہے اس لئے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ بے شمار مسائل میں امام صاحب کی طرف کئی کئی روایتیں نقل کی جاتی ہیں اور پھر مشاہدہ ان میں ترجیح کا کام انجام دیتے ہیں اور دونوں قول امام صاحب کی طرف ہی منسوب کرتے ہیں۔

اس لئے خلاصہ یہ ہے کہ تردید مجتہد کی وجہ بھی مذکورہ چار وجوہات میں شامل کی جائے، یہ وجہ

زیادہ جامع اور مناسب ہے اور کئی اقوال ایک امام کی طرف منسوب ہونے کو منوع نہ قرار دیا جائے۔ (حتیٰ کہ مرجوع عنہ قول کی نسبت بھی بالکلیہ منقطع نہ کی جائے) (وقد یقال ان من وجوہ الاختلاف أيضاً ص: ۶۳ - ۱۴: إلی قوله - لشموله ما فيه استحسان أو احتیاط وغيره ص: ۶۴ - ۲۱: س)

**تنبیہ:** اس بحث کی ضرورت اس لئے پیش آئی کہ آگے یہ بات آنے والی ہے کہ اگر کوئی حنفی شخص صاحبین کی کسی رائے پر عمل کر لے تو اسے حفیت سے خارج نہیں مانا جائے گا، تو یہ بات اس وقت تک درست نہیں ہو سکتی جب تک کہ صاحبین کے اختیار کردہ مذاہب (جن کے بارے میں خود ان کا یہ کہنا ہے کہ وہ دراصل امام صاحب ہی کی کسی نہ کسی زمانہ کی رائے ہے) کو کسی نہ کسی درجہ میں امام صاحبؒ کی طرف منسوب نہ مانا جائے۔ (مرتب)

## تمرین: ۱۶

○ یہ جگہ شرح عقود رسم المفتی کے انتہائی گنجک مقامات میں سے ہے، اس لئے اصل عبارت بار بار پڑھ کر اصول (۱۲) اور خلاصہ سے ملا کیں۔

(۱۳) صاحبین کے مذہب پر عمل حفیت کے خلاف نہیں

حضرت امام ابوحنیفہؓ کے شاگردوں نے جو قول بھی اختیار کیا ہے وہ امام صاحب ہی کی کسی نہ کسی روایت پر مبنی ہے لہذا صاحبین وغیرہم کے کسی مذہب پر عمل کرنے سے حنفی مقلد دائرہ تقلید سے باہر نہ ہوگا۔

## امام صاحبؒ کے شاگردوں کی صراحت

حضرت امام ابوحنیفہؓ نے ورع و تقویٰ اور شدت احتیاط کی بنا پر اپنے شاگردوں کو ہدایت دے رکھی تھی کہ: إن توجہه لكم دلیل فقولوا به یعنی اگر میرے کسی مرجوح قول کو تم دلیل کے

اعتبار سے مضبوط سمجھو تو اسے اختیار کر لینا اور میرے راجح قول کی موافقت چھوڑ دینا، چنان چہ آپ کے شاگردوں نے اسی ہدایت کی بنا پر امام صاحبؒ کی مختلف روایات میں سے جس کو دلیل کے اعتبار سے قوی سمجھا اسے اختیار کر لیا، مگر اس کا خیال رکھا کہ امام صاحبؒ کی روایات سے تجاوز نہ ہو، چنانچہ حضرت امام ابو یوسفؔ، حضرت امام محمدؐ، حضرت امام زفرؓ اور حضرت حسن بن زیادؓ وغیرہ اکابر اصحاب ابوعنیفؔ سے مردی ہے کہ یہ لوگ بھاری فتنمیں کھا کر یہ دعویٰ کیا کرتے تھے کہ ہم نے امام صاحبؒ کی کسی چیز میں مخالفت نہیں کی، بلکہ وہی مذہب اختیار کیا ہے جو کبھی نہ کبھی امام صاحب کا رہا تھا۔ اور قوت دلیل کی بنا پر ہم نے اسے اپنالیا ہے اس اعتبار سے امام صاحبؒ کے شاگردوں کے اقوال بھی امام صاحبؒ کی طرف منسوب ہوں گے اور ان پر عمل کرنے والا حنفی ہی کہلانے گا۔ (واعلم بآن عن أبي حنيفة ص: ۶۲ س: ۵ - إلى قوله - كما عليه أقسام الأصحاب ص: ۶۲ س: ۶: إذا تقرر ذلك فاعلم أن الإمام أبو حنيفة ص: ۶۴ س: ۲۱ - إلى قوله - إلا بطريق المجاز للموافقة انتهى ص: ۶۵ س: ۸)

## ایک مثال

مثال کے طور پر ماء مستعمل کے بارے میں حضرات شیخینؑ کا مذہب یہ ہے کہ وہ بخش ہے اور امام محمدؐ کا مذہب یہ ہے کہ وہ پاک ہے مگر پاک کرنے کی صلاحیت نہیں رکھتا۔ یہی امام ابوعنیفؔ کی ایک روایت ہے اور اسی پر فتویٰ ہے، الہذا امام محمدؐ کی طرف منسوب اس قول پر عمل کرنے سے حنفی مقلد مذہب سے خارج نہ کہلانے گا۔ (العنایہ یروت ۸۶)

## تمرین: ۱

- الف: مثال کے موافق کم از کم تین عربی عبارت تحریر کریں۔
- ب: دو ایسے مسئلے لکھیں جن میں فتویٰ صاحبین وغیرہ کے قول پر ہو۔ اور ان کے موافق امام صاحبؒ سے بھی روایت موجود ہو۔

## اہم اشکال

یہاں یہ اشکال پیدا ہوتا ہے کہ مشہور قول کے مطابق مجتهد جب اپنے کسی قول سے رجوع کر لے تو مرجوع عنہ قول منسوخ کے درجہ میں آ کر کا عدم ہو جاتا ہے، اور مجتهد کی طرف اس کی نسبت درست نہیں رہتی، لہذا امام صاحبؒ کے شاگردوں میں سے اگر کوئی شاگرد امام صاحبؒ کی راجح روایت کے خلاف دوسری روایت اپنالے تو اسے مذہب ابوحنیفہ نہیں کہنا چاہئے، بلکہ اسی شاگرد کی طرف اس کی نسبت ہونی چاہئے اور کسی بھی حنفی مقلد کو اس پر عمل کی اجازت نہ دینی چاہئے اس لئے کہ اس نے امام ابوحنیفہؒ کی تقلید کی ہے نہ کہ ان کے شاگردوں کی، اسی وجہ سے اسے حنفی کہا جاتا ہے، ابو یوسفی اور محمدی نہیں کہا جاتا۔ (فِإِنْ قَلْتَ إِذَا رَجَعَ الْمُجتَهَدُ عَنْ قَوْلٍ  
ص: ۶۵ س: ۸: - إِلَى قَوْلِهِ - وَلَذَا نَسْبِ إِلَيْهِ دُونَ غَيْرِهِ ص: ۶۶ س: ۲)

## جواب

اس ظاہری اشکال کا جواب یہ ہے کہ جب خود امام صاحبؒ نے اپنے شاگردوں کو یہ اصول بتایا تھا کہ وہ قوت دلیل کی بنیاد پر مسئلہ کا حکم معین کیا کریں اور روایات کا انتخاب کیا کریں تو اب اس اصول کے مطابق امام صاحبؒ کے شاگردوں کا دلیل کو دیکھ کر امام صاحبؒ کی کسی مرجوع عنہ روایت کو اختیار کر لینا بھی ان کے لئے امام صاحبؒ کے مقرر کردہ اصول کے مطابق ہوگا۔ بریں بنا ان کے راجح کردہ امام صاحبؒ کے مرجوع عنہ اقوال بھی اصول امام کے موافق ہونے کی وجہ سے بالکل یہ مرجوع عنہ نہ کہلانیں گے اور ان پر عمل کرنے والا دائرہ حنفیت سے خارج نہ ہوگا۔ اس کی نظر یہ ہے کہ اگر بالفرض مذہب احناف کے خلاف کوئی حدیث صحیح (غیر متعارض وغیر مَوْوَل) پائی جائے، تو بالاتفاق حدیث پر عمل ہوگا اور مذہب کو چھوڑ دیا جائے گا، اور عمل بالحدیث کی وجہ سے کوئی حنفی امام ابوحنیفہؒ کی تقلید سے باہر نہ ہوگا، کیوں کہ خود امام صاحبؒ نے یہ فرمایا ہے کہ إذا صَحَّ الْحَدِيثُ فَهُوَ مَذْهَبُهُ، یعنی اگر حدیث صحیح آجائے تو وہی میرا مذہب ہوگا۔ تو جس طرح حدیث پر عمل کی وجہ سے حنفیت پر کوئی اثر نہیں پڑتا اسی طرح وہ روایت جسے امام صاحبؒ کی ہدایت پر قوت

دلیل کے اعتبار سے امام صاحب کے شاگردوں نے راجح قرار دیا ہو، اس پر عمل کرنا بھی حنفیت کے خلاف نہ ہوگا۔ (قلت قد کنت استشکلت ذلک ص: ۶۶ س: ۲ – إلى قوله – عن الأئمة الأربعه ص: ۶۷ س: ۲)

## تمرین: ۱۸

○ علامہ شامیؒ نے رد المحتار میں بھی اسی اشکال و جواب کو نقل کیا ہے آپ تلاش کر کے وہ عبارت نوٹ کریں۔

## امام صاحبؒ کی ہدایت عام نہیں ہے

حضرت امام ابوحنیفہؓ کی یہ ہدایت ”إن توجه لكم دليل فقولوا به“ ہر کس و ناس کے لئے تھی بلکہ یہ اجازت صرف اسی شخص کے لئے تھی جو نصوص پر گہری نظر رکھنے والا اور ناسخ و منسوخ کی واقفیت رکھنے والا ہو، بریں بناندھب کی الہیت رکھنے والے حضرات کا دلیل کی بنا پر کسی دوسرے قول کو ترجیح دینا نہ ہب اور صاحب مذہب کی طرف ہی منسوب ہوگا، کیوں کہ اس عمل کی اجازت ان کو صاحب مذہب کی طرف سے حاصل ہے، حتیٰ کہ خود صاحب مذہب یعنی امام صاحبؒ کے سامنے بھی اگر اپنے قول کے ضعیف ہونے کی بات آجائی تو وہ یقیناً اس قول کو چھوڑ کر راجح اور قوی دلیل والا قول اپنائیتے۔ اسی وجہ سے علامہ بن الہمامؓ نے مشائخ پر درکیا ہے کہ وہ آسانی کے ساتھ صاحبینؒ کے قول پر فتویٰ دے دیتے ہیں، اور فرمایا ہے کہ امام صاحبؒ کی رائے سے عدول اس وقت تک جائز نہیں جب تک کہ امام صاحبؒ کے قول کا ضعف ظاہر نہ ہو جائے۔ (قلت ولا يخفى أن ذلك لمن كان أهلاً للنظر ص: ۶۷ س: ۲ – إلى قوله – إلا لضعف دليله ص: ۶۷ س: ۵)

## (۱۲) اقوال مذاہب سے خروج جائز نہیں

دلیل میں قوت و ضعف انہی اقوال کے مابین دیکھا جائے گا جو صحابہ مذہب

سے منقول ہیں، مذہب کے علاوہ کسی اور خارجی قول کو اختیار کرنے کی اجازت مقلد کو نہیں دی جائے گی، اس لئے کہ مقلد اگرچہ کسی درجہ میں مجتہد ہو پھر بھی اس کا اجتہاد بظاہر اصحاب مذہب کی اجتہادی صلاحیت سے نہیں بڑھ سکتا، تو عین ممکن ہے کہ اصحاب مذہب کے سامنے اور کوئی ایسی مضبوط اور راجح دلیل ہو جو اس مقلد کے سامنے نہ آسکی ہو، اور اسی بنابر انہوں نے خارجی قول کو معمول بنا لیا ہوا۔

(أَقُولُ أَيْضًاً وَيَنْبُغِي تَقيِيدُ ذَلِكَ ص: ۶۷ س: ۵ - إِلَى قَوْلِهِ - حَتَّى لَمْ

يَعْملُوا بِهِ. ص: ۶۸ س: ۱)

## علامہ ابن الہمامؓ کی خارج مذہب آراء قبول نہیں

اسی وجہ سے علامہ قاسم بن قطلو بغا (المتوفی ۹۸۷ھ) کو اپنے استاذ گرامی علامہ ابن الہمام (المتوفی ۲۸۱ھ) کے متعلق یہ صراحت کرنی پڑی کہ ان کے بیان کردہ وہ مسائل جو مذہب سے بالکل یہ خارج ہیں انہیں معمول بہ اور مفتی بنا لیا جائے۔ (ولهذا قال العلامة قاسم ص: ۶۸ س ۱ - إلى قوله - التي تخالف المذهب ص: ۶۸ س ۲)

## تمرین: ۱۹

○ علامہ ابن الہمامؓ کی تین ایسی آراء کھیس جو مذہب ابوحنیفہ سے خارج ہوں۔

## متفرقہ مسئلہ سے عدول کی اجازت نہیں

قاضی خاںؒ نے لکھا ہے کہ اگر کوئی مسئلہ اصحاب مذہب سے روایات ظاہرہ میں بلا کسی اختلاف کے مردی ہو تو مفتی صرف اسی متفرقہ قول پر فتویٰ دینے کا پابند ہو گا اور اپنے اجتہاد کی بنابر اس اتفاق رائے سے خروج نہ کرے گا، اس لئے کہ ظاہر یہی ہے کہ حق اسی متفرقہ رائے کے ساتھ ہے، اور اصحاب مذہب کا اجتہاد اس مفتی کے اجتہاد سے بڑھا ہوا ہے، کیوں کہ انہوں نے دلائل کی معرفت حاصل کر کے صحیح اور غیر صحیح میں انتیاز کر لیا ہے۔ (ہاں اگر عرف و ضرورت کی وجہ سے مذہب کی متفرقہ رائے کو معتبر مشائن چھوڑنے کا فیصلہ کریں تو بات دوسری ہے۔ مثلاً تعلیم قرآن پر اجرت

کے جواز کا مسئلہ، تو ایسی صورت میں اصحاب مذہب کی رائے چھوڑنا درست ہوگا، جس کی تفصیل آگئے آنے والی ہے) (وقال فی تصحیحه علی القدوری ص: ۶۸ س: ۲ - إلى قوله وسیائی بسطہ أيضاً آخر الشرح عند الكلام على العرف. ص: ۶۸ س: ۹)

## حاصل بحث

امام صاحب<sup>ر</sup> کے قول کو چھوڑ کر دوسرے شاگردوں اور اصحاب مذہب کے اقوال پر عمل کرنے کی بحث کا حاصل یہ ہے کہ بنیادی طور پر تین وجوہات:— (۱) معتبر مشائخ نے دلیل کی بنا پر امام صاحب<sup>ر</sup> کے قول کو چھوڑ کر صاحبین<sup>ر</sup> وغیرہ کے قول کو ترجیح دی ہو۔ (۲) زمانہ کے بد لئے سے عرف بدل گیا ہوا اور مسئلہ کا مدار عرف پر ہو۔ (۳) دینی مصلحت اور ضرورت کی خاطر صاحب مذہب کی رائے سے صرف نظر ضروری ہو — کی بنا پر امام صاحب<sup>ر</sup> کے علاوہ کسی دوسرے امام کے قول پر عمل کرنا مقلد کے لئے جائز ہے اور حنفیت کے منافی نہیں ہے، اس لئے کہ دلیل کی بنیاد پر ترجیح کی اجازت خود امام صاحب<sup>ر</sup> کی طرف سے حاصل ہے۔ اور عرف و ضرورت کا معاملہ یہ ہے کہ اگر امام صاحب<sup>ر</sup> بھی اس زمانہ میں موجود ہوتے تو وہ بھی وہی فتویٰ دیتے جو متاخرین نے دیا ہے، کیوں کہ متاخرین کی رائے بھی امام صاحب<sup>ر</sup> کے قواعد پر منسوب ہے، اور اس اعتبار سے امام صاحب<sup>ر</sup> کے مذہب کا مقتضی ہے۔ (والحاصل أن ما خالف فيه الأصحاب ص: ۶۸ س: ۹ - إلى قوله - فهو مقتضى مذهبهم ص: ۶۸ س: ۱۲)

(۱۵) جو قول امام صاحب<sup>ر</sup> سے صراحتاً منقول نہ ہو، اسے لکھنے کا طریقہ

جو مسائل صراحتاً مذہب میں منقول نہ ہوں اور ان کا استنباط امام صاحب<sup>ر</sup> کے مقررہ اصول و ضوابط اور منصوص نظائر سے کیا گیا ہو تو انہیں مذہب ابوحنیفہ تو کہہ سکتے ہیں، مگر قول ابوحنیفہ کہنا خلاف واقعہ ہے، اس لئے ایسے غیر مصرحہ مسائل لکھتے وقت ”هو مقتضى مذهب أبي حنيفة“ یا ”هو القياس على قوله“ جیسے الفاظ استعمال کرنے چاہیں۔

## احتیاط لازم ہے

مفہتی کو ورع و تقویٰ اور احتیاط کے اس درجہ پر فائز ہونا چاہئے کہ اس کے کلام میں جھوٹ کا ادنیٰ شائیب بھی نہ پایا جائے، اس لئے اس پر ضروری ہے کہ جب تک امام صاحبؒ کی طرف صراحتہ کسی قول کی نسبت معلوم نہ ہو اس قول کو امام صاحبؒ کی طرف منسوب نہ کرے۔ چنانچہ جن مسائل کامشائخ نے امام صاحبؒ کے قواعد سے استنباط کیا ہے یا جن غیر منصوص مسائل کا حکم امام صاحبؒ کے منصوص مسائل سے معلوم کیا گیا ہے، ان کو نقل کرتے وقت ”قال أبو حنیفۃ“ نہیں کہیں گے، بلکہ ان پر ”مذہب أبو حنیفۃ“ کا اطلاق کریں گے، باس معنی کہ وہ اہل مذہب کے اقوال یا مذہب ابو حنیفۃ کا مقتضی ہیں۔ اسی بنا پر صاحب ”الدرر والغرر“ نے کہا کہ اگر قاضی اہل مذہب کے خلاف فیصلہ کرے تو نافذ نہ ہوگا، یعنی اگر مثلاً حنفی قاضی مالکیہ یا شافعیہ کے قول پر فیصلہ کرے تو اس کا نفاذ نہ ہوگا، ہاں اگر حنفی صاحبین کے قول کو اختیار کرے تو فیصلہ نافذ ہو جائے گا، اس لئے کہ یہ مذہب ابو حنیفۃ کے مطلقاً خلاف نہیں ہے۔ (لکن یہ بیغی ان لا یقال قال ابو حنیفۃ ص: ۶۸ س: ۱۲ - إلى قوله - فليس حكماً بخلاف رأيه ص: ۶۸ س: ۱۶)

### (۱۶) اقوال مخرجه علی قول الامام کا درجہ

جو غیر منصوص مسائل امام صاحبؒ کے اصول و ضوابط پر تخریج شدہ ہیں  
ان کا درج ان اقوال سے بڑھا ہوا ہے جنہیں صاحبینؒ وغیرہ نے اختیار کیا ہے۔

### تشریح

یہاں بحث یہ ہے کہ جو مسائل امام صاحبؒ سے صراحتہ منقول نہیں ہیں اور مشاءخ نے امام صاحبؒ کے دیگر اقوال و اصول کو سامنے رکھ کر ان کا حکم متعین کیا ہے، ان کی نسبت امام صاحبؒ سے زیادہ قریب ہے یا ان کے مقابلہ میں وہ مسائل زیادہ قابل لحاظ ہیں جنہیں حضرات صاحبینؒ نے اختیار کیا ہے؟ اس بارے میں علامہ شامیؒ کی رائے یہ ہے کہ وہ مسائل جن کی تخریج امام

صاحب کے قواعد و جزئیات کی روشنی میں کی گئی ہے ان کی نسبت صاحبین<sup>ؐ</sup> کے اختیار کردہ مسائل کے مقابلہ میں زیادہ قریب ہے، اور اس قربت کی دو وجہات ہیں:

**الف:** پہلی وجہ یہ ہے کہ صاحبین<sup>ؐ</sup> کے اختیار کردہ بہت سے مسائل ان کے اپنے مقرر کردہ قواعد پر بنی ہیں، امام صاحب<sup>ؒ</sup> کے قواعد پر ان کی تخریج نہیں ہوتی ہے، کیوں کہ اصول فقہ سے واقف ہر شخص جان سکتا ہے کہ صاحبین<sup>ؐ</sup> نے امام صاحب<sup>ؒ</sup> کے تمام قواعد کے اتباع کاالتزام نہیں کیا ہے۔  
**ب:** اور اگر یہ کہا جائے کہ حضرات صاحبین<sup>ؐ</sup> کے بیان کے مطابق ان کے قواعد امام صاحب<sup>ؒ</sup> ہی کے قواعد ہیں، پھر بھی ”مسائل محرّجہ علی قواعد الامام“ زیادہ قبل اعتماء ہوں گے، کیوں کہ ان کا مدار قواعد راجح پر ہے۔ اور صاحبین<sup>ؐ</sup> کے اقوال کا مدار قواعد مرجوہ یا مر جو ع عنہ پر ہے۔ (والظاهر ان نسبة المسائل المخرجۃ إلی مذهبہ ص: ۶۸ س: ۱۶ - إلی قوله - والله تعالیٰ أعلم بالصواب وإلیه المرجع والمأب ص: ۶۹ س: ۶)

## تمرین ۲۰

○ تین مثالیں ایسی تحریر کریں جس میں مسئلہ کا حکم امام صاحب کے قواعد سے مستنبط کیا گیا ہو۔

### (۱) روایات مذہب میں ترجیح کے اصول

اگر مسئلہ کے بارے میں روایات مختلف ہوں تو ان میں ترجیح کے متعلق اہل اصول کی تین رائے ہو گئی ہیں:

(۱) اولاً امام صاحب<sup>ؒ</sup> کا مختار قول تلاش کیا جائے، اگر امام صاحب<sup>ؒ</sup> سے کوئی صراحت نہ ملے تو امام ابو یوسف<sup>ؒ</sup> کے قول پر عمل کیا جائے، اور اگر امام ابو یوسف<sup>ؒ</sup> سے بھی کوئی تصریح نہ ملے تو امام محمد<sup>ؐ</sup> کے قول کو لیا جائے، اس کے بعد امام زفر<sup>ؓ</sup> اور امام حسن بن زیاد<sup>ؓ</sup> کے اقوال کا درجہ ہے۔

(۲) جب امام صاحب<sup>ؒ</sup> ایک جانب اور صاحبین<sup>ؐ</sup> دوسری جانب ہوں تو

مفتی کو اختیار ہے جس پہلو کو چاہئے اختیار کر لے۔

(۳) مختلف اقوال میں (قاتل سے قطع نظر کر کے) صرف قوت دلیل کو

ترجیح کی بنیاد بنایا جائے، یہی قول اصح ہے مگر اس کا علاقہ صرف ”مفتی مجہد“ سے ہے۔

مأخذ: وحيث لم يوجد له اختیار ص: ۶۹ س: ۶ - إلی قوله - وذا لمفتٍ

ذی اجتہاد الأصح ص: ۶۹ س: ۸ -

### مزید تفصیل

اس سلسلہ میں قدرے تفصیلی وضاحت یہ ہے کہ:

الف: اگر امام صاحب<sup>ؒ</sup> اور صاحبین<sup>ؒ</sup> کسی ایک جواب پر متفق ہوں تو عرف و ضرورت کے علاوہ کسی بھی مقلد کے لئے اس متفقہ مسئلہ سے عدول کی اجازت نہیں ہے۔

ب: امام صاحب<sup>ؒ</sup> کے ساتھ صاحبین<sup>ؒ</sup> میں سے کوئی ایک بھی ہو تو اس صورت میں بھی امام صاحب<sup>ؒ</sup> کا قول راجح ہوگا۔

ج: اگر امام صاحب<sup>ؒ</sup> اور صاحبین<sup>ؒ</sup> میں سے ہر ایک کا قول الگ الگ ہو تو بھی امام صاحب<sup>ؒ</sup> کے قول کو ترجیح ہوگی۔

د: اگر امام صاحب<sup>ؒ</sup> ایک طرف اور صاحبین<sup>ؒ</sup> دونوں ایک طرف ہوں تو اس بارے میں حضرت عبد اللہ بن المبارک<sup>ؓ</sup> (المتونی ۱۸۱ھ) نے مطلقاً امام صاحب<sup>ؒ</sup> کے قول کی ترجیح کی بات کہی ہے۔ اور بعض لوگوں نے اس صورت میں مفتی کو مطلقاً اختیار دیا ہے خواہ وہ مجہد ہو یا نہ ہو، اور حضرات محققین نے یہ تحقیق کی ہے کہ اگر مفتی مجہد ہے تو اسے اختیار ہے، اور اگر مفتی غیر مجہد ہے تو وہ اپنے امام ہی کا پابند ہے، یہ آخری رائے دراصل پہلی اور دوسری رائے میں تطبیق کی ایک شکل ہے کہ حضرت عبد اللہ بن مبارک<sup>ؓ</sup> کے قول کو مفتی غیر مجہد سے متعلق مانا جائے اور بعض لوگوں کے قول کو مفتی مجہد کے لئے خاص کریں، اس اعتبار سے دونوں اقوال میں تعارض نہ ہوگا، کیوں کہ دونوں کا محمل الگ الگ ہو گیا۔ یہ ساری تفصیل اس وقت ہے جب کہ بعد کے مشائخ نے کسی ضرورت وغیرہ

کی بنیاد پر صاحبین یا کسی اور کے مسلک پر فتوی نہ دیا ہو، اگر فتوی دیا ہو جیسے ظاہر عدالت پر قضاۓ نہ کرنے کا مسئلہ، تو پھر مشائخ کی ترجیحات پر عمل کرنا ہو گا۔ (قد علمت مما قرنا انفاً ص: ۶۹ س: ۸ - إلى قوله - يأخذ بقول أبي حنيفة ص: ۷۱ س: ۸)

## تمرین: ۲۱

○ مزارعہ اور معاملہ کے سلسلہ میں صاحبین کے قول کو ترجیح کیوں دی گئی ہے؟ اس کی بنیاد قوت دلیل ہے یا اور کوئی وجہ؟ تفصیل تحریر کریں۔

## ایک فائدہ

یعقوب، یہ امام ابو یوسف کا اصل نام ہے، امام ابو یوسف نے امام محمدؐ کو ہدایت کی تھی کہ جب وہ امام ابو حنیفہ کے ساتھ ان کا ذکر کریں تو کنیت کے ساتھ نہیں بلکہ اصل نام ذکر کریں، اپنے استاذ کے ادب کے پیش نظر انہوں نے یہ ہدایت کی تھی۔ یہی وجہ ہے کہ امام محمدؐ جب امام ابو یوسف کے حوالہ سے امام ابو حنیفہ کی کوئی روایت نقل کرتے ہیں تو لکھتے ہیں: یعقوب عن أبي حنيفة۔ (وهو اسم أبي يوسف أكابر أصحاب الإمام ص: ۶۹ س: ۱ - إلى قوله - وadam بهم النفع إلى يوم القيمة ص: ۶۹ س: ۱۲)

## دلیل پر مدار

امام صاحبؐ کی ہدایت إذا صح الحديث فهو مذهبى کا مطلب یہ ہے کہ اقوال مذهب میں سے اگر کسی قول کے موافق کوئی حدیث غیر موثوق اور غیر متعارض آجائے تو وہی مذهب کا راجح قول کہلانے گا۔ اس سے یہ نتیجہ نکلا کہ مذهب کے ہر قول میں (خواہ وہ امام صاحبؐ کا ہو یا صاحبین یا ان میں سے کسی ایک کا) ترجیح کے لئے دلیل کو معیار بنایا جاسکتا ہے، گویا کہ مفتی مجتهد کے لئے اختیار صرف اسی صورت میں مختصر نہیں ہے جب کہ امام صاحبؐ ایک طرف اور صاحبین دوسری طرف ہوں، بلکہ قوت دلیل، نیز زمانہ اور عرف کی ضرورت کی بنیاد پر وہ مذهب کی کسی بھی روایت کو

رانج قرار دے سکتا ہے۔ مثلاً فقیہ ابواللیثؒ نے متعدد مسائل میں امام زفرؓ کے قول کو اختیار کر لیا ہے، اسی طرح دیگر مشائخؒ نے بعض دوسرے مسائل میں شیخینؒ اور طرفینؒ سے اختلاف کیا ہے ب瑞ں بنا جس رائے کو مشائخؒ نہ ہب رانج قرار دیں بعد کے لوگوں پر اس کی پیروی لازم ہے، کیوں کہ وہ لوگ اگرچہ دنیا سے چلے گئے مگر ان کی ترجیحات اور تصحیحات مذہب میں بدستور موجود اور باقی ہیں۔ (قلت لکن قلمنا ص: ۷۱ ص: ۸ - إِلَى قُولِهِ - كَمَا لَوْ افْتَوَ أَمِنْ حَيَاتِهِمْ انتہی ص: ۷۲ ص: ۱)

## ۲۲: تمرين

○ دلیل کی قوت کی بنابر فتویٰ کی کم از کم تین مثالیں پیش کریں۔

### کونسا مجھتد مراد ہے؟

دلیل پر فتویٰ دینے کا اختیار صرف مجھتد فی المذہب کو ہے اور یہاں مجھتد فی المذہب سے مراد صرف وہیں جسے طبقات فقهاء میں طبقہ ثانیہ پر رکھا گیا ہے، بلکہ اصحاب تحریج اور اصحاب ترجیح کے درجہ کے ماہر فقہاء بھی اسی زمرہ میں داخل ہیں، آگے اس کی مزید وضاحت آرہی ہے۔ (تمہہ: قال العلامہ البیری ص: ۷۶ س: ۱ - إِلَى قُولِهِ - وَسِيَّاتِي توضیحہ ص: ۷۲ س: ۲)

### مشائخؒ کی ترجیحات کا یقیناً اعتبار ہے

اگر مسئلہ کے بارے میں مشائخؒ سے کوئی تصحیح منقول نہ ہو تو مفتی مقلد تصحیح کے اصول (یعنی امام صاحبؒ کی رائے، اس کے بعد امام ابو یوسفؒ کی رائے ایسی آخرہ) پر عمل پیرا ہوگا۔ لیکن اگر مشائخؒ نے کسی روایت کی ترجیح تصحیح کی ہے تو مطلقاً اس کی پیروی کی جائے گی اگرچہ وہ امام زفرؓ ہی کا قول کیوں نہ ہو، جیسا کہ اگر وہ مشائخؒ آج زندہ ہوتے تو ہم پر ان کے فتویٰ پر عمل کرنا ضروری ہوتا۔ اسی طرح ان کی ترجیحات پر بھی عمل ضروری ہے، مثلاً ان حضرات نے ۷۴ مسائل میں امام زفرؓ کے قول کو راجح کہا ہے، جن کی تعداد علامہ شامیؒ نے بڑھا کر ۲۰۰ تک پہنچادی ہے، اور بعض غیر موزوں مسائل کو خارج کر دیا ہے۔ اس سلسلہ کی ایک نظم ”رالمحتر باب الفقہ“ میں نقل کی گئی ہے۔ (فالان

لاترجیح إلا بالدلیل ص: ۷۲ س: ۳ - إلى قوله - في حاشیتی رد المحتار من باب النفقہ ص: ۷۲ س: ۱۰)

## امام زفر کے مفتی بے اقوال

علامہ شامی<sup>ؒ</sup> نے رد المحتار باب النفقہ میں مطلب فی نفقۃ المطلقة سے پہلے (شامی کراچی ۲۰۷۴، شامی زکریا ۵/۳۳۰-۳۳۱) پرانے مسائل کی تفصیل ذکر کی ہے، جن میں فتویٰ امام زفر کے قول پر دیا گیا ہے، ان کی نظر میں ایسے مسائل کی تعداد کل ۲۰ ہے (۱) ذیل میں وہ سب مسائل تفصیل کے ساتھ ذکر کئے جا رہے ہیں۔

### (۱) مریض کا نماز میں تشهید کی حالت کی طرح بیٹھنا :

جو مریض قیام سے عاجز ہو جائے وہ ائمہ ثلاثہ<sup>ؒ</sup> (امام ابوحنیفہ اور صاحبین<sup>ؒ</sup>) کے نزدیک جیسے چاہے بیٹھ کر نماز پڑھ سکتا ہے، اور امام زفر کے نزدیک وہ اس طرح بیٹھ کر نماز پڑھے گا جیسے تشهید کی حالت میں بیٹھا جاتا ہے۔ فتویٰ امام زفر کے قول پر دیا گیا۔ (البحر الرائق ۲/۱۳۳، در مختار مع الشافعی زکریا

۶۲۵/۵، شامی کراچی ۹۷/۲-۵۶۵/۵)

### (۲) متنفل کا تشهید کی طرح بیٹھنا :

اسی طرح نفل نماز بیٹھ کر پڑھنے والے کو ائمہ ثلاثہ<sup>ؒ</sup> ہر طرح بیٹھنے کا اختیار دیتے ہیں اور امام زفر تشهید کی طرح بیٹھنے کے قائل ہیں، یہی قول مفتی بہ ہے۔ (شامی کراچی ۲/۳۸۶، شامی زکریا ۲/۳۸۶، ہدایہ ۱/۱۵۰، البحر الرائق ۲/۶۳، مجمع الانہر ۱/۱۳۵)

### (۳) زوجہ مفقود کے نفقہ کا حکم :

شوہر مال چھوڑے بغیر غائب ہو گیا، اور بیوی نے قاضی کے سامنے اپنے نکاح کا بیان پیش

(۱) علامہ بن تجھیم<sup>ؒ</sup> نے البحر الرائق میں اس طرح کے ۷ مسائل میں بجا ذکر کے فرمایا کہ انہیں پر حصر نہیں بلکہ اس سے زائد بھی ہو سکتے ہیں۔ (البحر الرائق ۶/۲۰۰)

کر دیا تا کہ قاضی اس کے لئے نفقة مقرر کر کے اسے شوہر پر قرض لینے کا حکم کرے تو ظاہر مذہب یہ ہے کہ قاضی اس کے لئے نفقة کا فیصلہ نہ کرے گا کیوں کہ یہ قضاء علی الغائب ہے جو جائز نہیں اور امام زفر اور امام ابو یوسفؓ کی ایک روایت یہ ہے کہ اس صورت میں قاضی عورت کا نفقة مقرر کر کے اسے قرض لینے کا حکم دے سکتا ہے اسی پر فتویٰ ہے۔

**نوث:** اس مسئلہ میں چوں کہ امام ابو یوسفؓ کا قول بھی صاحب بحر نے امام زفرؓ کے موافق نقل کیا ہے، اس لئے یہ مسئلہ صرف امام زفرؓ کے مفتیٰ بے مسائل میں نہ رہا۔ (شامی کراچی ۳۷/۲۰۷، شامی زکریا ۳۲۰/۵، فتح القدر ۲/۲۰۲، بہاری ۲/۲۳۳، بحر الرائق ۲/۱۹۷)

**(۳) بیع مرا بحہ میں عیب جدید کی نشاندہی اور اصل قیمت کا بیان:**  
 اگر باعث کے پاس رہتے ہوئے بیع میں کوئی عیب پیدا ہو جائے پھر وہ اس بیع کو مرا بحہ کے طور پر فروخت کرنا چاہئے، تو ظاہر الروایہ میں اس پر مشتری کو یہ بتانا ضروری نہیں کہ میں نے اسے صحیح سالم مثلاً اتنی قیمت میں خریدا تھا اور امام زفرؓ اور امام ابو یوسفؓ کی رائے یہ ہے کہ مرا بحہ کی صورت میں باعث کو یہ بتانا چاہئے کہ میں نے اسے صحیح سالم خریدا تھا اور اس وقت اس کی یہ قیمت تھی۔ حضرات مشائخ نے اسی قول کو اختیار کیا ہے، اس لئے کہ مرا بحہ کا مدارحتی الامکان عدم خیانت پر کھا جاتا ہے۔ (الدر المختار مع الشامی کراچی ۵/۱۳۱، شامی زکریا ۷/۳۶۰، بحر الرائق ۶/۱۱۲)

**نوث:** اس مسئلہ میں صاحب درجتار کی تصریح کے مطابق امام زفرؓ کے ساتھ امام ابو یوسفؓ کا قول بھی ہے، اس لئے یہ مسئلہ محض امام زفرؓ کے مفتیٰ بے اقوال کی فہرست میں شامل نہ کیا جانا چاہئے۔

### **(۵) وکیل بالخصومۃ وکیل بالقبض نہ ہوگا :**

جمہور احناف کے نزدیک جو شخص خصومت کا وکیل بنایا جائے وہ خود بخود قبضہ کا وکیل بھی ہو جاتا ہے، گوکہ موکل نے صراحةً اسے قبضہ کا وکیل نہ بنایا ہو۔ اور امام زفرؓ فرماتے ہیں کہ خصومت کا وکیل قبضہ کا وکیل نہ ہوگا اس لئے کہ قبضہ کے بارے میں ہر شخص پر اعتماد نہیں کیا جا سکتا۔

متاخرین فقہاء نے فساد زمانہ کی وجہ سے امام زفرؑ کے قول کو راجح اور مفتیٰ بے قرار دیا ہے۔

(شامی کراچی ۵/۵۲۹، درج تاریخ الشامی زکریا ۸/۲۶۸، البحراں اقت ۲/۸۷، فتح القدیر ۸/۱۰۶)

## (۶) بادشاہ تک ناقص شکایت پہنچانے والا ضامن ہوگا :

اگر کسی شخص نے دوسرے کے بارے میں بادشاہ تک کوئی ناقص شکایت پہنچائی، جس کی وجہ سے بادشاہ نے دوسرے پر تداون و اجتب کر دیا تو حفیہ کے مشہور مذہب کے مطابق شکایت پہنچانے والا ضامن اور ذمہ دار نہ ہوگا، جب کہ امام محمدؐ اور امام زفرؑ کی رائے یہ ہے کہ شکایت کرنے والا ضامن ہوگا، فتویٰ اسی رائے پر ہے۔ (شامی کراچی ۶/۲۱۳، شامی زکریا ۹/۳۰۹، برازیل ۳/۱۸۹)

اسی مسئلہ کی نظریاً ایک جزئیہ صاحب بحر علامہ ابن نجیمؓ نے البحراں اقت ۵/۴۰-۶۰ میں ذکر کیا ہے اس کو بھی ملاحظہ کریں۔

**نوٹ:** یہ مسئلہ علامہ ابن نجیمؓ نے امام زفرؑ کے مفتیٰ بے اقوال میں ذکر کیا ہے، مگر فقہی کتابوں میں تلاش کے باوجود امام زفرؑ کا قول نہیں ملا، بلکہ صرف امام محمدؐ کی رائے ذکر کی جاتی ہے۔

## (۷) مکفول بے کم مجلس قضا میں سپرد کرنا :

اگر کفیل سے مکفول بے کم مجلس قضا میں سپرد کرنے کی شرط ہوئی ہو تو ظاہر مذہب یہ ہے کہ کفیل کے لئے اس شرط کی پابندی لازم نہیں، بلکہ اگر وہ بازار میں بھی مکفول بے کم مکفول لہ کے حوالے کر دے گا تو ذمہ داری سے بری ہو جائے گا، مگر امام زفرؑ نے فساد زمانہ کو دیکھتے ہوئے یہ فتویٰ دیا کہ ایسی صورت میں مکفول بے کو قاضی کی مجلس میں سپرد کرنا ضروری ہے ورنہ کفیل اپنی ذمہ داری سے بری نہ ہوگا، فتویٰ اسی پر ہے۔ (البحراں اقت ۶/۲۱۰، شامی کراچی ۵/۲۹۳، شامی زکریا ۸/۵۲۸)

## (۸) تہہ شدہ کپڑے کو اوپر سے دیکھنا کافی نہیں :

ظاہر الروایہ میں کپڑے کے تھان کو اوپر سے دیکھ لینے سے خیارِ رویت ساقط ہو جاتا ہے، اور امام زفرؑ کے نزدیک جب تک پورا تھان کھول کر نہ دیکھ لیا جائے خیارِ رویت ساقط نہ ہوگا۔ بعض مشائخ نے امام زفرؑ کے قول کو اس بنا پر راجح قرار دیا ہے کہ ان کے زمانہ میں کپڑوں کے ظاہر و باطن

میں بُنائی کے اعتبار سے بڑا فرق ہوا کرتا تھا۔ (شامی کراچی ۱۷/۵۹۸، شامی زکریا ۱۷/۴۵، الحجر الرائق ۳۰۶)

**قنبیہ :** اس مسئلہ کا مدار اس عرف پر ہے کہ کپڑوں کے ظاہر و باطن میں فرق ہوتا ہے یا نہیں؟ ائمہ ثلاش کے زمانہ میں زیادہ فرق نہیں ہوتا تھا اس لئے انہوں نے لپٹے ہوئے کپڑے کو اوپر سے دیکھ لینا کافی قرار دیا۔ مشائخ کے زمانہ میں عرف بدل گیا، اور کپڑوں میں اندر اور باہر میں فرق ہونے لگا، تو انہوں نے امام زفر کے قول کو مفتی بے قرار دے دیا۔ آج کے زمانہ میں عرف پھر بدل گیا ہے اور وہی عرف لوٹ آیا ہے جو ائمہ ثلاش کے زمانہ میں تھا، اب کپڑوں کے تھان میں ظاہر و باطن کے اعتبار سے عموماً کوئی فرق نہیں ہوتا، اس لئے آج کل اس معاملہ میں امام زفر کے قول پر نہیں بلکہ ظاہر مذہب پر فتویٰ دیا جائے گا، اور اس اعتبار سے یہ مسئلہ اب امام زفر کے مفتی بے اقوال میں شمار نہ ہوگا۔

واللہ اعلم بالصواب۔

## (۹) گھر کا خارجی حصہ دیکھنے سے خیار رویت ساقط نہ ہوگا:

اگر گھر خریدا تو اس کا محض خارجی حصہ دیکھنے سے ظاہر مذہب میں مشتری کا خیار رویت ساقط ہو جائے گا، اور امام زفر نے فرمایا کہ گھر کا داخلی حصہ دیکھنے بغیر خیار ساقط نہ ہوگا، اس لئے کہ گھروں کے اندر ورنی حصہ میں یکسانیت نہیں پائی جاتی، فتویٰ اسی قول پر ہے۔ (الحجر الرائق ۳۰۶، شامی کراچی ۱۷/۵۹۸)

## (۱۰) گھٹیا درہموں کے بدله میں عمدہ درہم ادا کرنا :

مذہب مشہور یہ ہے کہ اگر کوئی مقروض دائن کو گھٹیا کے بجائے عمدہ درہم ادا کرے تو دائن کو مجبور کیا جائے گا کہ وہ اسے قبول کر لے، امام زفر کا قول یہ ہے کہ دائن کو عمدہ درہم لینے پر مجبور نہیں کیا جاسکتا، فتاویٰ خانیہ میں اسی قول کی تصحیح کی گئی ہے، اور علامہ شامی نے ”منہی الخالق حاشیۃ الحجر الرائق“ میں بعض کتابوں کے حوالے سے مشہور مذہب کی تصحیح بھی نقل کی ہے۔ (الحجر الرائق مع حاشیۃ ۱۲۲۶، شامی کراچی ۱۷/۱۶۵)

## تہرین: ۲۳

○ ان مسائل کی عربی عبارتوں کو سمجھ کر کاپی میں نقل کریں اور کوئی بات قابل اشکال ہو تو استاذ صاحب سے حل کرائیں۔

### (۱۱) طلبِ خصوصت میں ایک مہینہ کی تاخیر سے حقِ شفعہ کا سقوط:

اگر شفیع طلبِ مواثیبت اور طلبِ اشہاد کے بعد خاموش بیٹھ جائے اور عرصہ دراز تک طلبِ خصوصت نہ کرے یعنی اپنے حقِ شفعہ کے حصول کے لئے عدالتی چارہ جوئی نہ کرے تو حضرات شیخینؒ کے نزدیک کتنی ہی مدت گزر جائے پھر بھی اس کا حقِ شفعہ ساقط نہ ہوگا، جب کہ امام محمدؐ اور امام زفرؓ نے فرمایا ہے کہ اگر ایک مہینہ میں شفیع نے طلبِ خصوصت نہیں کیا تو اس کا حق باطل ہو جائے گا، لوگوں کو نقصان سے بچانے کے لئے یہی قول مفتی ہے۔ (ہدایہ ۳۷۸/۳، شامی کراچی ۲۲۶/۶، شامی زکریا ۹/۳۳۰)

**نوٹ:** اس مسئلہ میں امام زفرؓ کے ساتھ امام محمدؐ بھی ہیں، لہذا سے بھی خالص مسائل زفریہ سے خارج مانا جا ہے۔

### (۱۲) لقطہ کرو کنے کے بعد ہلاکت کی صورت میں نفقہ کا سقوط:

اگر کوئی ملقط لقطہ پر کئے جانے والے خرچ کو وصول کرنے کے لئے لقطہ کو اپنے پاس روکے رکھے، اور مالک کونہ دے تو اسے اس کا حق حاصل ہے، لیکن اگر اس دوران لقطہ ہلاک ہو جائے تو اصحاب مذہب کے نزدیک ملقط نے لقطہ پر جو خرچ کیا ہے وہ مالک سے وصول کرے گا، اور امام زفرؓ کے نزدیک لقطہ مال مر ہون کے درجہ میں ہے، لہذا ہلاکت کی صورت میں اسے خرچ لینے کا حق نہ ہوگا۔ صاحب ہدایہ نے امام زفرؓ کے قول کو اختیار کیا ہے، اور یہی حکم متون میں مذہب کی حیثیت سے مذکور ہے۔ (شامی کراچی ۲۸۲/۲، شامی زکریا ۳۳۲/۶، فتح القدر ۱۲۶/۶، المحرر الرائق ۱۵۶/۵)

### (۱۳) أنت طالقٌ واحدةٌ فِي ثنتينِ كہنے کا حکم :

اگر کوئی شخص اپنی بیوی سے ضرب اور حساب کی نیت سے انت طالقٌ واحدةٌ فِي ثنتينِ

کہے تو اصحاب مذهب کے نزدیک ایک طلاق واقع ہوگی، اور امام زفر اور حسن بن زیاد کے نزدیک رطلاقیں واقع ہوں گی۔ محقق ابن الہام وغیرہ نے امام زفر کے قول کو ترجیح دی ہے۔ (شامی کراچی)

(۲۶۱/۳، شامی زکریا ۷/۲۶۲)

### (۱۴) غلام کی ”تدبیر“ کو موت یا قتل پر معلق کرنا :

اگر آقا نے غلام سے کہا: ان مٹ او قتلت فائت حُرّ یعنی اگر میں مر گیا یا قتل کیا گیا تو تو آزاد ہے۔ تو یہ غلام امام ابو یوسف<sup>ؒ</sup> کے نزدیک مدبر مقید ہے، اس کا بیچنا جائز ہے، لیکن امام زفر کے نزدیک مذکورہ بالا الفاظ کہنے سے وہ غلام مدبر مطلق ہو جائے گا۔ فتح القدری میں اسی قول پر فتویٰ دیا گیا ہے۔ (المحرر الرائق ۲/۲۶۷، شامی کراچی ۳/۸۸۲، شامی زکریا ۵/۲۲۹)

### (۱۵) نکاحِ موقت کا حکم :

کسی مدت متعینہ کے لئے گواہوں کے سامنے عقد نکاح کرنا جسے نکاحِ موقت کہتے ہیں، ظاہر مذهب میں حرام ہے۔ اور وہ متعہ (بلا گواہوں کے لڑکا لڑکی کا آپس میں متعینہ وقت کے لئے عقد کر لینے) کے حکم میں ہے۔ مگر امام زفر فرماتے ہیں کہ نکاحِ موقت صحیح ہے اس لئے کہ اس میں انعقاد نکاح کی شرط پائی جا رہی ہیں، البتہ وقت کی شرط لغو ہے، اس کا اعتبار نہ ہوگا، حنفیہ کا فتویٰ اسی پر ہے۔ (شامی کراچی ۳/۵۱، شامی زکریا ۳/۲۹۳، ہدایہ ۲/۲۹۳)

### (۱۶) دینار اور درہم کا وقف :

امام ابو یوسف<sup>ؒ</sup> کے نزدیک دینار و درہم کا وقف صحیح نہیں ہے اس لئے کہ وہ اشیاء منقولہ میں سے ہے اور اشیاء منقولہ میں ان کے نزدیک وقف نہیں ہوتا، اور امام محمد<sup>ؐ</sup> اور امام زفر<sup>ؒ</sup> کے نزدیک جس شے منقول کو وقف کرنے کا عام رواج ہو جائے اس کا وقف درست ہو جائے گا، چوں کہ درہم و دینار میں عرف جاری تھا، اس لئے انہوں نے ان میں وقف کے جواز کا فتویٰ دیا، یہی مذهب مفتی ہے۔ وبهذا ظهر صحة ما ذكره المصنف من الحالها بالمنقول المتعارف على قول

محمد المفتی<sup>۱</sup> به وإنما خصوها بالنقل عن زفر لأنها لم تكن متعارفة إذ ذكر

ولأنه هو الذي قال بها ابتداء. (شامی کراچی ۳۶۴/۱۴، شامی زکریا ۵۵۶/۶)

**نحوٰ :** یہ مثال بھی ہماری بحث سے خارج ہے، اس لئے کہ فتویٰ صرف امام زفر کے قول پر نہیں بلکہ امام محمدؐ کے قول پر ہے۔

### (۱۷) اجنبیہ سے بیوی سمجھ کروٹی کر لینے پر حد کا مسئلہ :

اگر کسی شخص نے اپنے کمرہ میں کسی عورت کو پایا اور اسے اپنی بیوی سمجھ کروٹی کر لی، تو امام ابوحنیفہ سے امام ابویوسفؓ نے یہ روایت نقل کی ہے کہ اس شخص پر حد زنا لگائی جائے گی خواہ یہ واقعہ رات کا ہو یا دن کا۔ اور امام زفرؓ نے امام ابوحنیفہ سے یہ قول نقل کیا ہے کہ اگر واقعہ رات کا ہو تو حد نہ لگے گی، اور دن کا واقعہ ہو تو حد لگے گی یہی قول مذهب میں مفتی ہے۔ (شامی

کراچی ۲۵/۲، شامی زکریا ۶۵/۳)

### (۱۸) محلوف علیہ کے وکیل کو عاریت پر دینا موجب حث ہے:

ایک شخص نے قسم کھائی کے فلاں چیز فلاں شخص کو عاریت پرندے گا، بعد میں محلوف علیہ نے اپنا وکیل صحیح کراس سے مذکورہ چیز بطور عاریت منگائی تو اگر قسم کھانے والا اس وکیل کو وہ چیز دے دے تو امام ابویوسفؓ کے نزدیک وہ حاث نہ ہوگا، اور امام زفرؓ کے نزدیک حاث ہو جائے گا، مشائخ نے امام زفرؓ کے قول پر فتویٰ دیا ہے۔ (تاتارخانیہ ۲/۴۷، شامی کراچی ۳/۸۱، شامی زکریا ۵/۲۳۱)

### (۱۹) عام نمازوں میں وقت نکلنے کے خوف سے تمیم کا جواز :

وقتیہ نمازیں اسی طرح جمعہ اور وتر جن کا بدل موجود ہے ان میں وقت جاتے رہنے کے خوف سے احتاف کے نزدیک تمیم کی اجازت نہیں ہے، مگر امام زفرؓ نے فرمایا کہ ایسی صورت میں تمیم کر کے فرض ادا کر لے، اور احتاط یہ ہے کہ بعد میں اس نمازوں کو دھرا لے، فتویٰ امام زفرؓ کے قول پر دیا گیا ہے۔ (شامی کراچی ۱/۲۴۶، شامی زکریا ۱/۲۱۳)

## (۲۰) ضرورت گو بر کی طہارت کا حکم :

پانی کی نالیوں میں اگر گو بر کی لپائی کر دی جائے اور گو بر کا اثر پانی میں ظاہرنہ ہو تو مذہب کے قواعد کے مطابق وہ پانی ناپاک ہونا چاہئے، کیوں کہ وہ نجاست سے متصل ہو رہا ہے، مگر اس بارے میں امام زفرؑ کی ایک روایت یہ ہے کہ ماکول الحُمَّمَ کا فضلہ پاک ہے۔ اور امام محمدؓ کی ایک روایت یہ ہے کہ ماکول الحُمَّمَ جانوروں کا گو بر اصلاً تو نجس ہے مگر ضرورت اور عموم بلویٰ کے وقت اس کی طہارت کا قول کیا جائے گا۔ ان دونوں روایتوں کو سامنے رکھ کر متاخرین فقهاء نے محل ضرورت میں گو بر کی طہارت کا فتویٰ دیا ہے، چنانچہ علامہ شامیؒ نے شیخ عبدالغنی نابلسیؒ سے نقل کیا ہے کہ نالیوں میں گو بر سے لپائی کے بعد اگر اس کا اثر پانی میں نہ ظاہر ہو تو پانی پاک رہے گا۔ (شامی کراچی ار۱۸۹، شامی زکریا ار۳۳۶-۳۳۷)

**نوث:** یہ مثال بھی اپنے موضوع پر تام نہیں ہے اس لئے کہ اصلاً مشايخ کا فتویٰ امام محمدؓ کی روایت پر ہے، نہ کہ امام زفرؑ کے مطلق قول پر۔

**قتنبیہ:** یہیں مسائل علامہ شامیؒ کی صراحة کے مطابق نقل کردئے گئے ہیں، مگر غور کرنے سے معلوم ہوتا ہے کہ ان میں ۲۳۷/۲۰۲۰ اور ۲۰۲۰/۲۱۲ میں موضوع سے خارج ہیں، اس لئے کہ ان میں مفتیؒ بقول تنہا امام زفرؑ کا نہیں ہے، اور مسئلہ ۲۰۲۰/۲۱۲ میں آج کے عرف کے اعتبار سے ظاہر مذہب ہی پر فتویٰ دینا چاہئے نہ کہ امام زفرؑ کے قول پر، الہمذہب مسائل میں سے صرف ۲۰۲۰/۲۱۲ مسائل قابل لحاظ ہیں۔ (مرتب)

### تیرین: ۲۲:

○ الف: مذکورہ مثالوں کے متعلق فقہی عبارتیں تحریر کریں۔

○ ب: شامی ”باب الغفقة“ میں مذکورہ مسائل کے بارے میں علامہ شامیؒ نے جو نظم نقل فرمائی ہے اس کی مکمل تشرح و تفصیل اردو میں اپنی کاپی میں تحریر کریں۔

علامہ ابن نجیمؓ کی رائے

علامہ ابن نجیمؓ نے البحر الرائق (كتاب القضاياء ۲۶۹/۶) میں بڑے زور دار انداز سے یہ

ثابت کیا ہے کہ بعد کے مقلدین کے لئے صرف امام صاحبؒ کے قول کی اتباع ضروری ہے۔ مشائخ کی ترجیحات پر عمل کرنا ان کے لئے درست نہیں ہے، وہ فرماتے ہیں کہ ایک زمانہ تک مجھے یہ اشکال رہا کہ مشائخ اختلاف جب امام صاحبؒ کے مقلد ہیں تو ان کے لئے امام صاحبؒ کے علاوہ دوسرے کسی امام کی تقلید و ترجیح کیسے جائز ہے؟ کافی عرصہ کے بعد ان کے بارے میں یہ جواب سمجھ میں آیا کہ چوں کہ امام صاحبؒ نے ان کو ہدایت دے رکھی تھی کہ لا یحل لأحد أن یفتی بقولنا حتی یعلم من أین قلنا (کسی شخص کے لئے اس وقت تک ہمارے قول پر فتویٰ دینے کی اجازت نہیں جب تک وہ یہ نہ جان لے کہ ہم نے وہ قول کہاں سے لیا ہے) تو وہ مشائخ اس ہدایت کے پابند تھے اور ان کے لئے دلیل جانے بغیر فتویٰ دینے کی اجازت ہی نہ تھی۔ اب بعض مسائل میں وہ امام صاحبؒ کے قول کے علاوہ دوسرے قول کی دلیل راجح سمجھتے اس لئے دوسرے قول پر فتویٰ دے دے تھے۔ چنانچہ خود امام صاحبؒ کے شاگرد عاصم بن یوسفؓ امام صاحبؒ کے قول کے خلاف فتویٰ دیتے تھے، لہذا اس معنی کر مشائخ کے لئے تو امام صاحبؒ کے قول سے عدول جائز ہے۔ اس کے بعد آگے فرماتے ہیں کہ: ظاہر ہے کہ فتویٰ دینے کے لئے امام صاحبؒ کی دلیل جانے کی شرط انہی مشائخ کے لئے تھی، دیگر مقلدین کے لئے یہ شرط نہیں ہے، لہذا ہم دلیل جانے بغیر امام صاحبؒ کے قول پر عمل کرنے کے پابند ہیں۔ اس کا صاف تقاضا یہ ہے کہ مشائخ کی ترجیحات کے مقابلہ میں امام صاحبؒ کے راجح قول کی تقلید ضروری ہے، اسی بنا پر محقق ابن الہمامؓ نے صاحبینؓ کے قول پر مشائخ کے فتویٰ دینے پر یہ کہہ کر نکیر کی ہے کہ: لا یعدل عن قوله إلا لضعف دلیله ظاہر ہے کہ ضعیف دلیل پر اطلاع ہر کس و ناکس کو نہیں ہو سکتی، اس کا حق تو صرف اسی شخص کو ہے جو نظر فکر کی صلاحیت رکھتا ہو، اقوال فقہاء میں غلط اور صحیح کی تمیز رکھتا ہو، بعض کو بعض پر ترجیح دینے کا اہل ہو، اور اس کے صحیح فتاویٰ کا تناسب غلطی سے زیادہ ہوا یہ شخص ہی حقیقت میں مفتی اور فتویٰ کا اہل ہے، اور اس کے فتویٰ دینے کے لئے دلیل جانے کی شرط ہے، مگر جو اہلیت نہیں رکھتے جیسے کہ عام مقلدین، تو ان کے لئے صرف ایک ہی راستہ ہے کہ وہ اپنے امام کی تقلید اور پیروی کریں، گوکہ مشائخ نے اس کے خلاف

رائے اپنائی ہو۔ حضرت عبد اللہ بن مبارکؓ سے پوچھا گیا کہ مفتی کے لئے فتویٰ دینا کب جائز ہے؟ تو آپ نے جواب دیا کہ: ”جب وہ حدیث اور قیاس کی معرفت رکھنے والا اور امام ابوحنیفہؓ کے مذہب کو سمجھ کر یاد رکھنے والا ہو“، تو آپ کا یہ جواب اس وقت کے لئے تھا جب مذہب کی باقاعدہ مدون نہیں ہوئی تھی۔ آج جب کہ کتابیں مدون ہو چکی ہیں اور امام صاحب کے قول راجح بھی ہمارے سامنے آگئے ہیں تو ہمیں سوائے امام صاحبؓ کے قول کے کوئی اور رائے نہ اپنائی چاہئے۔ و قال في البحر في كتاب القاضي ص: ۷۲ س: ۱: إلی قوله - انتهى هذا اخر کلام البحر ص: ۷۳ س: ۴)

## علامہ ابن بحیرؓ کا نقطہ نظر محل نظر ہے

علامہ ابن بحیرؓ کی یہ رائے کہ مقلد م Hispan کے لئے مشائخؓ کی ترجیحات معمول بہانہیں، محققین مذہب کی رائے سے میل نہیں کھاتی، چنان چشمی بحر علامہ خیر الدین رملیؓ (المتونی ۱۰۸۱ھ) نے بھی علامہ ابن بحیرؓ پر اعتراض کرتے ہوئے کہا ہے کہ ان کا یہ کہنا کہ ہم پر امام صاحبؓ کے قول پر فتویٰ دینا واجب ہے اگرچہ ہمیں دلائل کا علم نہ ہو، یہ امام صاحبؓ کے ارشاد: لا يحل لأحد أن يفتى بقولنا الخ کے منافی ہے، کیوں کہ اس ارشاد سے صاف معلوم ہوتا ہے کہ دراصل مفتی مجتہد کے علاوہ کسی اور کے لئے فتویٰ دینے کی گنجائش نہیں، چہ جائے کہ اس کے وجوب کا قول کیا جائے۔ بات اصل میں یہ ہے کہ غیر مجتہد مفتی کا فتویٰ حقیقتہ فتویٰ نہیں بلکہ Hispan نقل فتویٰ ہے، لہذا جب وہ Hispan نقل ٹھہرا تو اس کے لئے امام صاحبؓ کے ساتھ ساتھ مشائخؓ کے فتاویٰ کو بھی نقل کرنے کی اجازت ہوگی۔ علامہ شامیؓ اس کی مزیدوضاحت کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ مشائخؓ نے امام صاحبؓ اور دیگر اصحابِ مذہب کے دلائل و مأخذ کو اچھی طرح جان کر ہی امام صاحبؓ کے علاوہ دوسری رائے پر فتویٰ دیا ہے، ہم یہ تصور نہیں کر سکتے کہ انہوں نے دلائل سے علمی کی وجہ سے مذہب سے عدول کیا ہے کیوں کہ ان کی تصانیف دلائل سے بھر پور ہیں۔ اور بعد میں آنے والے لوگ نہ تو

ان جیسی اہلیت رکھتے ہیں اور نہ جزئیات کی تحریخ تج اور قواعد کی تاسیس میں ان کے ہم پلہ ہیں، لہذا وہ اگر مشائخ سے ان کا فتویٰ نقل کریں تو یقیناً درست ہوگا، اس لئے کہ ان مشائخ نے اپنی زندگیاں مذہب کے شرعاً شاعت اور مذدویں میں لگادی ہیں۔ اسی وجہ سے علامہ قاسمؒ کا قول ہے کہ مجتہدین فی المذہب بدستور پائے جاتے رہے، تا آں کہ انہوں نے تصحیح و ترجیح کا کارنامہ انجام دیا اور ہم پر ان کی ترجیحات کی پیروی لازم ہے، اور علامہ ابوالعباس احمد بن شہاب الدین بن الحشری (المتوفی ۱۰۲۱ھ) کے فتاویٰ سے بھی اسی نقطہ نظر کی تائید ہوتی ہے، وہ فرماتے ہیں کہ امام صاحبؒ کے قول سے عدول صرف اس وقت جائز ہے جب مشائخ نے اس کے خلاف فتویٰ دیا ہو۔ اور جن مسائل میں امام صاحبؒ کے قول کے خلاف مشائخ نے کسی قول کو ترجیح نہ دے رکھی ہو ان میں امام صاحبؒ کی رائے کی پابندی ضروری ہے۔ (وأقوال ولا يخفى عليه ما في هذا الكلام ص: ۷۳ س: ۴)

—إلى قوله - ليس له غير الانتقاد. ص: ۷۳ س: ۱۵)

## تمرین: ۲۵

○ البحر الرائق سے یہ بحث نکال کر کاپی میں نوٹ کریں۔

### لا يحل لأحد أن يفتى بقولنا كامخاطب كون؟

امام ابوحنیفہؓ کا اپنے شاگردوں کو یہ ہدایت دینا کہ ”لا يحل لأحد أن يفتى بقولنا حتى يعلم من أين قلنا“ اپنے اندر دو معنی کا احتمال رکھتا ہے۔

**پہلے معنی:** اول یہ کہ جب کسی مفتی کے سامنے امام صاحبؒ کا مذہب آئے تو وہ اس وقت تک اس پر فتویٰ نہ دے جب تک اس کی قوت نہ جان لے۔ مثلاً نمازوں کے وجوہ کا اس وقت تک فتویٰ نہ دے جب تک کہ اسے وجوہ وتر کے بارے میں امام صاحبؒ کے دلائل کا علم نہ ہو جائے، اس معنی کے اعتبار سے مذکورہ مقولہ کا مخاطب صرف اسی مفتی کو بنایا جا سکتا ہے جو اپنے اندر اجتہاد کی صلاحیت رکھتا ہو کیوں کہ:

**الف:** مقلد تو دلیل جانے بغیر اپنے امام کے قول پر عمل کرنے کا پابند ہے، اس لئے کہ تقلید کی تعریف یہ ہے کہ ”أخذ قول الغیر بغیر معرفة دلیله“ (دلیل جانے بغیر دوسرے کے قول کو اختیار کرنا) اب اگر کوئی شخص دلیل جان کر کسی کے قول کو لے گا تو وہ مقلد نہ کہلانے گا بلکہ براہ راست دلیل سے نتیجہ اخذ کرنے والا ہوگا، لہذا امام صاحبؒ کے مذکورہ قول کا مخاطب اگر ایسے مفتی کو بنایا جائے جو مقلد م Hispan ہو تو یہ بالکل بے معنی بات ہوگی، لازمی طور پر یہ کہنا پڑے گا کہ یہ خطاب مفتی مجتهد کو کیا جا رہا ہے۔

**ب:** اور اسے سے بھی اہم بات یہ ہے کہ یہاں دلیل جان لینے سے م Hispan یہ جان کاری مراد نہیں کہ فلاں مجتهد نے فلاں دلیل سے فلاں مسئلہ اخذ کیا ہے بلکہ دلیل کی قوت وضعف کو جانا مراد ہے اور یہ علم اسی وقت ممکن ہے جب کہ مفتی کے سامنے مسئلہ کے تمام دلائل ہوں اور اس کی نظر میں قوی دلیل تعارض سے محفوظ ہو، ظاہر ہے کہ یہ صلاحیت مجتهد کے علاوہ کسی میں نہیں پائی جاسکتی اور سوچا جائے تو حقیقت میں مفتی کہلانے جانے کے لائق بھی ایسی صلاحیت رکھنے والا مجتهد فی المذہب ہی ہے ورنہ دوسرے لوگ تو محض ناقل ہیں، لہذا امام صاحبؒ کی ہدایت بھی ایسے ہی مجتهد کے لئے ہوگی۔ (شم اعلم ان قول الإمام لا يحل لأحد الخ ص: ۷۳ س: ۱۵ - إلى قوله - وهو المفتى حقيقة أما غيره فناقل. ص: ۷۴ س: ۶)

## مجتهد فی المذہب کو مخاطب قرار دینے پر ایک اصولی اعتراض

علامہ شامیؒ فرماتے ہیں کہ امام صاحبؒ کے مقولہ: ”لا يحل لأحد أن يفتى بقولنا“ کا مخاطب مجتهد فی المذہب کو قرار دینا اصولی اعتبار سے ناقابل فہم ہے اس لئے کہ مجتهد مطلق سے کم درجہ کے سبھی مجتهد علماء کو بہر حال مجتهد مطلق کی پیروی اور تقليد ضروری اور لازم ہے اور اپنے امام کی دلیل جاننا ان کے لئے بالکل ضروری نہیں ہے، حتیٰ کہ صاحب تحریر الاصول علامہ ابن الہمامؓ کے قول کے مطابق اگر اجتہاد میں تجزی کا قول کریں۔ (یعنی وہ مجتهد فی المذہب بعض مسائل فقهیہ یا بعض علوم میں اجتہاد کی صلاحیت رکھتا ہو) پھر بھی اس کے لئے ان مسائل میں مجتهد مطلق کی تقليد لازم ہے جن

میں وہ مجتهدانہ صلاحیت سے محروم ہے، جبکہ رکاوٹ یہی ہے (۱) اور اس تقلید کے وقت اسے مجتہد مطلق کی دلیل جاننے کا پابند نہیں بنایا جاسکتا، تو علامہ ابن الہمامؑ کی اس صراحت اور تقلید کی مقررہ تعریف سے معلوم ہوا کہ دلیل کی معرفت کا کام صرف مجتہد مطلق کا ہے اس کے علاوہ کسی بھی شخص (خواہ وہ مجتہد فی المذہب ہی کیوں نہ ہو) کے لئے دلیل جاننا لازم نہیں ہے۔ بریں بنا لای حل لرجل ان یفتی بقولنا کے ذریعہ مجتہد فی المذہب کو فتویٰ دینے کو معرفت دلیل کا پابند بنانا سمجھ میں نہیں آتا۔ (لکن کون المراد هذا بعيد ص: ۷۴ - إلی قوله - ولو كان ذلك الغیر مجتهدًا في المذهب ص: ۷۴)

## مشکل کا حل

یہاں آکر معاملہ مشکل میں پڑ گیا کہ امام صاحبؒ کے قول کے مصدق مجتہدین فی المذہب نہیں تو آخر اور کون سے مجتہد مراد ہیں، اس لئے کہ اس قول کا مخاطب اگر مجتہدین مطلق کو قرار دیں تو یہ بالکل مہمل بات ہوگی، کیوں کہ وہ تو خود اپنے علم پر فتویٰ دینے کے پابند ہیں، وہ دوسرے کے اقوال کو سامنے ہی کیوں رکھیں گے؟ اور نہ یہ بات سمجھ میں آنے والی ہے کہ امام صاحبؒ نے اپنے زمانہ کے مجتہدین مطلق کو یہ ہدایت جاری کی ہو، اس لئے مجتہد مطلق مراد نہیں ہو سکتے، اور درج بالا بحث کی روشنی میں مجتہدین فی المذہب مراد لینا بھی بعید ہے، تو کون سے نئے مجتہد مراد لئے جائیں؟

اس مشکل کو حل کرنے کے لئے علامہ شامیؓ نے شافعی کے شوافعی کے بڑے عالم علامہ زرشیؓ کے حوالہ سے یہ بات نقل کی ہے کہ مجتہدین فی المذہب کو نزے مقلدین کے درجہ میں رکھنا محل نظر ہے۔ خاص طور پر وہ مجتہدین فی المذہب جن پر مذہب کا مدار ہے، انہوں نے خود اپنے آپ کو محض مقلد کے درجہ میں رکھا ہے، لہذا انہیں بلاشبہ مجتہدین مطلق کے ساتھ ملحت کرنا چاہئے، کیوں کہ کوئی مجتہد دوسرے مجتہد کی تقلید کا پابند نہیں ہوتا اور علامہ ابن المغیرؓ نے کہا کہ پسندیدہ بات یہ ہے کہ یہ اصحاب (۱) اس کے مقابلہ میں محنۃ کا قول ہے، وہ کہتے ہیں کہ اگر مجتہد کی صحیح دلیل کے ساتھ کوئی قول عالم کے سامنے آئے تو اس پر اس کی تقلید ضروری ہے، ورنہ تقلید جائز نہیں ہے۔ شرح عقود رسم امفوٰتی (۷۸)

مذہب ”مجتہد مطلق ملتزم“ تھے، یعنی انہوں نے اجتہاد مطلق کی مکمل صلاحیت موجود ہونے کے باوجود یہ التزام کر لیا تھا کہ وہ نئے مذہب کی تدوین نہیں کریں گے، اور ان کے اس التزام کی وجہ یہ تھی کہ تخریج و استنباط کے تمام ہی طریقے ائمہ اربعہ کے مذاہب میں جمع ہو چکے ہیں۔ اور اب کسی ایسے جدا گانہ مذہب کا وجود دشوار ہے جو مذاہب اربعہ سے بالکل مختلف ہو، تو ایسے مجتہدین کے لئے قواعد میں کسی بھی امام کی تقلید روا ہے، لیکن اگر وہ کسی خاص جزئیہ یا قاعدہ میں دوسری رائے زیادہ راجح سمجھیں تو ان پر تقلید کے بجائے اپنے راجح موقف کو اپنانالازم ہو گا۔ یہی مطلب ہے ان سے خطاب کرتے ہوئے امام صاحب<sup>ؒ</sup> کے لا یحل لأحد أَن يفتَن بِقُولِنَا حتَّى يعْلَم مِنْ أَيْنَ قَلَّنَا كہنے کا! تو خلاصہ یہ یہ کا کہ پہلے معنی کے اعتبار سے مذکورہ مقولہ کے مخاطب مجتہدین فی المذہب ہیں جو مجتہدین مطلق کے ساتھ متحق کئے گئے ہیں۔ (لکن نقل الشارح عن الزركشی من الشافعیۃ

ص: ۷۴ س: ۱۱ - إلی قوله - لکمال نظر من قبلہ انتہی۔ ص: ۷۵ س: ۱)

## ٢٦: تمرین:

○ اردو عبارت کو بغور عربی عبارت سے ملائیں۔

## دوسرے محتمل معنی

امام صاحب<sup>ؒ</sup> کے ارشاد: ”لا یحل لأحد أَن يفتَن بِقُولِنَا حتَّى يعْلَم مِنْ أَيْنَ قَلَّنَا“ کے دوسرے معنی یہ ہیں کہ غیر منصوص مسائل میں امام صاحب<sup>ؒ</sup> کے اصول و قواعد پر تخریج و استنباط کر کے فتویٰ دینا اس وقت تک جائز نہیں جب تک کہ مفتی امام صاحب<sup>ؒ</sup> کے دلائل و مأخذ پر پوری طرح مطلع نہ ہو جائے، چنانچہ علامہ ابن الہمام<sup>ؓ</sup> نے تحریر الاصول میں لکھا ہے کہ غیر مجتہد کا مجتہد کے مذہب سے تخریج کر کے فتویٰ دینا اسی وقت جائز ہے جب کہ وہ درج ذیل پانچ صفات سے متصف ہو۔

(۱) مجتہد کے اصول و مأخذ پر مطلع ہو (۲) غور و فکر کی صلاحیت رکھتا ہو (۳) قواعد سے جزئیات نکالنے پر قادر ہو (۴) ایک جیسے مسائل میں فرق و جمیع کی صلاحیت رکھتا ہو (۵) اپنے موقف پر مناظرہ کرنے پر تیار ہو، اور جس شخص میں یہ صفات نہ ہوں اسے تخریج و استنباط کا بالکل حق

نہیں ہے۔ علامہ عمر بن الحسن ابو حفص سراج الدین الہندی<sup>ؒ</sup> (المتوفی ۶۳۷ھ) نے شرح بدیع (کاشف بیان البدیع و بیان مشکلہ المنشیع) میں تحریر کیا ہے کہ علامہ ابن الہمام<sup>ؒ</sup> کی مذکورہ تفصیل لا یحل لأحد السخ کے دوسرے محتمل معنی اکثر محققین کے نزدیک مختار ہیں۔ اس لئے کہ امام ابو یوسف<sup>ؒ</sup> امام زفر وغیرہ اصحاب مذهب سے بھی یہی ہدایت منقول ہے کہ لا یحل لأحد أن يفتى بقولنا حتى یعلم من أین قلنا۔ چنانچہ بعض فقهاء نے یہ فرمایا ہے کہ جو شخص دلائل نہ جانتا ہو اور ویسے ہی اقوال فقهاء یاد کر لے تو اسے اختلافی مسائل میں (کسی ایک جانب) اپنی طرف سے فتویٰ دینا درست نہیں ہے، جب کہ چند لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ اگر کوئی مجتہد نہ پایا جائے تو ایسے شخص کو مطلقاً کسی بھی رائے پر فتویٰ دینے کا اختیار ہے، (یہ رائے علامہ ہندی کی نظر میں زیادہ وزنی نہیں، بلکہ غریب ہے) اور بعض حضرات نے مقلد کے لئے امام صاحب<sup>ؒ</sup> کے اصل مذهب کو نقل کرنے کی بہر حال اجازت دی ہے خواہ وہ ماذ وغیرہ پر مطلع ہو یانہ ہو، اور زمانہ میں مجتہد پایا جائے یانہ پایا جائے۔ صاحب بدیع علامہ مظفر الدین احمد بن علی<sup>ؒ</sup> (المتوفی ۲۹۲ھ) اور بہت سے علماء کا رجحان یہی ہے۔ مگر ان مختلف اقوال کا ہماری بحث سے کوئی جوڑ نہیں، کیوں کہ عین مذهب مجتہد کو راوی کی عدالت و ثقاہت کا لحاظ رکھتے ہوئے مطلقاً قبول کیا جاسکتا ہے، اس میں ناقل کے نہ مجتہد ہونے کی شرط ہے اور نہ ضرورت، یہاں تو اصول پر تخریج واستنباط کی بحث جل رہی ہے، جس میں بہر حال الہیت کی شرط لگانا ضروری ہو گا، نااہل کو اس اہم کام کی ذمہ داری ہرگز نہیں دی جاسکتی۔ (والثانی فی الاحتمالین ص: ۷۵ - إلی قوله - یقبل بشرط الرأی من العدالة وغیرها اتفاقاً ص: ۷۵)

## طبقاتِ فقهاء میں سے کون سا طبقہ مخاطب ہے؟

دوسرے معنی کے اعتبار سے جس طرح امام صاحب<sup>ؒ</sup> کے اقوال پر تخریج واستنباط کا حق مجتہد فی المذهب وغیرہ کو حاصل ہوتا ہے اسی طرح امام صاحب<sup>ؒ</sup> کے شاگردوں (امام ابو یوسف<sup>ؒ</sup> اور امام محمد<sup>ؒ</sup> وغیرہ) کے اصول مقررہ پر ضرورت کے وقت تخریج واستنباط کا استحقاق بھی ان مفتیان کو ہو گا جو

فی الجملة اجتہاد کی صلاحیت رکھتے ہوں۔ اور لای حل لأحد الخ کے قول کے مخاطب طبقات فقهاء میں سے طبقہ ثالثہ (مجتہدین فی المسائل) سے لے کر طبقہ خامسہ (اصحاب الترجیح) تک کے فقهاء قرار پائیں گے۔ لہذا ان کی ترجیحات و تحقیقات ان سے نیچے درجہ کے مفتیان کے لئے قابل قبول ہوں گی، اس لئے کہ وہ محض اٹکل سے تحقیق و ترجیح نہیں کرتے بلکہ مأخذ و مصادر پر مطلع ہونے کے بعد ہی کوئی رائے قائم کرتے ہیں۔

**امام صاحبؒ کے شاگردوں میں اجتہاد مطلق کی صلاحیت ہے**  
 فقهاء کے طبقہ ثانیہ سے وابستہ حضرات یعنی امام صاحبؒ کے اصحاب دراصل اجتہاد مطلق کی صلاحیت رکھتے ہیں مگر انہوں نے بیشتر اصول و ضوابط میں امام صاحبؒ کی تقیید کر لی ہے اور اس تقیید کی دو وجہات ہیں:

**الف:** اول یہ کہ ایک مجتہد کو دوسرے مجتہد کی تقیید کرنے یا نہ کرنے کے متعلق امام ابوحنیفہؓ کی دو روایتیں ہیں، ایک روایت جواز کی اور دوسری عدم جواز کی، جواز کی روایت کی تائید اس واقعہ سے ہوتی ہے کہ ایک مرتبہ امام ابو یوسفؓ نے جمعہ کی نماز پڑھی بعد میں لوگوں نے بتایا کہ جس حمام سے وضو کیا گیا ہے اس میں چوہا مر اپڑا ہے، تو آپ نے خود مجتہد ہونے باوجود جواب دیا کہ نقلد اہلالمدینہ یعنی اس وقت ہم پانی کے معاملہ میں اہل مدینہ کی تقیید کرتے ہیں کہ جب تک پانی کے اوصافِ شلاش میں تغیر نہ ہو گا ہم اس پانی کو ناپاک نہ کہیں گے، اسی طرح امام محمدؐ نے فرمایا ہے کہ ایک مجتہد اپنے سے بڑے اور زیادہ جانے والے مجتہد کی تقیید کر سکتا ہے۔

**ب:** دوسری بات یہ ہے کہ انہوں نے امام صاحبؒ کی تقیید نہیں کی بلکہ اتفاقاً ان کا اجتہاد امام صاحبؒ کے اجتہاد کے موافق ہو گیا ہے، جیسا کہ شافعیہ میں سے قفال مروزی (المتومنی ۳۶۵ھ) شیخ ابو علی (المتومنی ۳۱۳ھ) اور قاضی حسین (المتومنی ۳۶۲ھ) وغیرہ سے اسی قسم کی صراحتیں منقول ہیں۔ وہ کہا کرتے تھے کہ ہم امام شافعیؓ کے مقلد نہیں بلکہ اتفاقاً ہمارا اجتہاد ان کے موافق ہو گیا ہے، تو یہی بات امام ابوحنیفہؓ کے فیض یافتگان امام ابو یوسفؓ اور امام محمدؐ کے بارے میں بدرجہ اولیٰ کہی

جاسکتی ہے اس لئے کہ انہوں نے بہت سی جزئیات میں امام ابوحنیفہ سے اختلاف کیا ہے، تاہم ان کے اقوال، مذہب سے خارج نہیں ہیں (کیوں کہ وہ بھی امام صاحبؒ کی روایات پر ہی مبنی ہیں) (اقول ویظہر مما ذکرہ الہندی ص: ۷۵ س: ۹ - إلى قوله - خلافاً لما قاله في البحر ص: ۷۶ س: ۸)

## تمرين: ۲۷

○ شرح عقود رسم المفتی کی عبارت سے مضمون کو ملائیں اور تصحیح کیں کہ مذکورہ بالادعو عنوانوں کا مأخذ کون کوں سی عبارتیں ہیں؟

## طبقاتِ فقہاء سے متعلق تین فائدے

(۱) علامہ ابن الہمامؓ صاحب ترجیح تھے :

صاحب بحر کے کلام سے معلوم ہوتا ہے کہ علامہ ابن الہمامؓ (المتوفی ۸۶۱ھ) کم از کم "طبقہ اہل ترجیح" سے تعلق رکھتے تھے چنانچہ خود ان کے بعض ہم عصروں نے ان کے کمال کا اعتراف کیا ہے، علامہ برہان الانبیاء الشافعیؓ (المتوفی ۸۰۲ھ) نے فرمایا کہ اگر دلائل شرعیہ کا مطالبہ کیا جائے تو ہمارے دیار (مصر) میں محقق ابن الہمامؓ کے علاوہ کوئی اس ذمہ داری سے عہدہ برآ نہیں ہو سکے گا۔ اور شیخ الاسلام علی المقدسیؓ (المتوفی ۵۵۷ھ) نے تو یہاں تک کہہ دیا کہ علامہ ابن الہمامؓ درجہ اجتہاد پر فائز تھے۔ (اسی قول کی تائید صاحب نہر، صاحب درمحابر وغیرہ کی تصریحات سے بھی ہوتی ہے اور حضرت مولانا عبدالحیٰ صاحب فرنگی محلیؓ نے بھی اسے قابل قبول رائے قرار دیا ہے) لہذا بعد میں آنے والے مفتیان کرام کے لئے اقوال مذہب کے اندر اندر محقق ابن الہمامؓ کی ترجیحات و تحقیقات اختیار کرنے کی گنجائش ہوگی۔ ہاں اگر ان کا کوئی ایسا قول ہو جو مذہب سے بالکل یہ خارج ہو تو اسے مفتی بے اور معمول بہانہ نہیں بنایا جائے گا، جیسا کہ ان کے شاگرد رشید علامہ قاسم بن قطلو بناؓ (المتوفی ۸۷۹ھ) نے تنبیہ کی ہے۔ (تنبیہ: کلام البحر صریح ص: ۷۶ س: ۸ - إلى قوله - بلغ

## (۲) علامہ قاسم بھی ترجیح کے اہل تھے :

محقق ابن الہمام<sup>ؓ</sup> کے شاگرد رشید علامہ قاسم<sup>ؓ</sup> (المتوئی ۹۷۶ھ) کا درجہ بھی طبقہ اہل ترجیح سے کہنیں ہے، جیسا کہ ان کے رسالہ: ”رفع الاشتباہ عن مسئلة المیاہ“ کی اس تمهیدی عبارت سے پتہ چلتا ہے کہ ”جب ہمارے علماء نے غور و فکر کی صلاحیت رکھنے والے شخص کو دلائل جانے بغیر فتویٰ دینے سے منع کر دیا ہے تو میں نے اسی بنیاد پر فقهاء کے بیان کردہ احکامات کے مأخذ و مصادر کی تلاش و جستجو کی، اور مجده تعالیٰ کافی حد تک اس میں کامیاب ہو گیا، اور میں نے عام کتابوں پر بھروسہ نہیں کیا۔“ اسی طرح انہوں نے ایک دوسرے رسالہ میں لکھا ہے کہ ”میں بھی طحاویٰ کے اس مشہور مقولہ کی تائید کرتا ہوں کہ لا یقلد إلا عصبي أو غبي يعني کم فهم او رہٹ و هرم کے علاوہ کوئی شخص انڈھی تقیید نہیں کرتا ( بلکہ اگر اس میں صلاحیت ہوتی ہے تو دلائل پر نظر کرتا ہے ) ان وضاحتوں سے معلوم ہوتا ہے کہ علامہ قاسم<sup>ؓ</sup> نے مقلد نہ تھے؛ بلکہ اللہ تعالیٰ نے انہیں ترجیح و تحقیق کے ملکے سے نوازا تھا۔ (و كذلك نفس العلامہ قاسم ص: ۷۷ س: ۴ - إلى قوله -

لا یقلد إلا عصبي أو غبي ص: ۷۷ س: ۹)

## (۳) علامہ ابن نجیم کا تعلق طبقہ ترجیح سے نہیں ہے :

علامہ شامی<sup>ؓ</sup> کے خیال میں صاحب ”الحرارائق“ علامہ ابن نجیم مصری<sup>ؓ</sup> (المتوئی ۹۷۰ھ) اہلیت ترجیح نہیں رکھتے تھے، اس لئے کہ خود انہوں نے فرمایا کہ: ”هم پر امام صاحب<sup>ؒ</sup> کے قول پر فتویٰ دینا لازم ہے، اگرچہ مشائخ نے اس کے خلاف رائے اپنائی ہو“۔ اس سے صاف معلوم ہوا کہ ان میں دلائل پر غور کر کے ترجیح کی صلاحیت نہیں تھی، لہذا اگر ان کی تصحیح کسی دوسرے معتبر فقیہ کی تصحیح سے تکرارے تو اس کا اعتبار نہ ہو گا، چہ جائے کہ ان کے اصول و ضوابط سے تخریج کردہ مسائل پر اعتماد کیا جائے (یعنی جب تصحیح میں ان کی رائے دوسرے کے مقابلہ میں با وزن نہیں تو تخریج میں بھی ان کی

بات دوسرے کے مقابلہ میں مرجوح ہوگی) یہ تو علامہ شامیؒ کی رائے ہے، دوسری طرف علامہ ابن نجیمؒ کی شہرۃ آفاق کتاب ”الأشیاء والناظر“ کی عبارت:

پہلی قسم ان قواعد کا جاننا جن کی طرف جزئیات پیش کی جاتی ہیں اور فقهاء نے ان احکام کی تخریج کی ہے اور یہی قواعد دراصل فقه کے اصول ہیں، اور انہیں کے ذریعہ فقیرہ اجتہاد کے درجہ تک ترقی کرتا ہے اگرچہ اجتہاد صرف فتویٰ کی حد تک ہو اور اس طرح کی اکثر جزئیات پر میں مطلع ہونے میں کامیاب ہو گیا ہوں۔

النوع الأول معرفة القواعد التي يرد إليها وفرعوا الأحكام عليه وهي أصول الفقه في الحقيقة وبها يرتفع الفقيه إلى درجة الاجتهاد ولو في الفتوى وأكثر فروعه ظفرت به. (الأشباه والنظائر)

پر تبصرہ کرتے ہوئے الاشیاء کے شارح علامہ سیریؒ (المتونی ۱۰۹۹ھ) نے علامہ ابن نجیمؒ کو مجتهد فی المذهب (بمعنی عام) کے درجہ میں رکھنے کی کوشش کی ہے۔ علامہ شامیؒ کو یہ رائے پسند نہیں، وہ فرماتے ہیں کہ محض زیادہ جزئیات کے علم سے آدمی درجہ اجتہاد تک نہیں پہنچ جاتا، اور جب صاحب بحر کا کلام ان سے اجتہادی صلاحیت کی لنفی کر رہا ہے تو پھر کسی کو کیا حق ہے کہ وہ انہیں مجتهد کہے؟ (ویؤخذ من قول صاحب البحر ص: ۷۷ - ۹: إلی قوله - وعلى أنها شرط للاجتہاد فی المذهب فتأمل ص: ۷۸ س: ۴)

## تمرين: ۲۸

○ کوئی ایسی مثال پیش کریں جس میں صاحب بحر کی رائے کو دوسرے فقهاء نے رد کر دیا ہو۔

(۱۸) متاخرین کی روایتوں میں ترجیح کا اصول

اصحاب مذهب حضرات ائمہ مجتهدین سے جب مسئلہ کے متعلق صراحةً کوئی روایت منقول نہ ہو اور مشايخ متاخرین کی آراء بھی مختلف ہوں تو ضابطہ یہ

ہے کہ اکابر فقهاء متاخرین مثلاً امام طحاویٰ (المتوفی ۳۲۱ھ) امام ابو حفص کبیر (المتوفی ۲۱۸ھ) اور امام ابواللیث (المتوفی ۳۷۳ھ) وغیرہ کی اکثریت جس حکم کی طرف مائل ہو گی اس پر فتویٰ دیا جائے گا۔

مأخذ: ثم إذا لم توجد الرواية ص: ۷۸ س: ۴ - إلى قوله - وأبوى جعفر واللیث الشہیر ص: ۷۸ س: ۵ -

## وضاحت

”الحاوی القدسی“ کے اخیر میں درج ہے کہ جب کسی مسئلہ میں امام ابوحنیفہ سے کوئی صراحت نہ ملے تو امام ابویوسفؓ کے ظاہر قول پر عمل کیا جائے، ورنہ امام محمدؓ کے قول کو لیا جائے، پھر امام زفرؓ اور حسن بن زیادؓ کی آراء کو اختیار کیا جائے اخ۔ (جیسا کہ پہلے بھی گذر چکا ہے) اور اگر ان میں سے کسی امام سے کوئی روایت منقول نہ ہو مگر مشائخ نے اس مسئلہ کا حکم بیان کیا ہو اور ان میں اس کے متعلق کوئی اختلاف نہ ہو تو اسی متفق علیہ قول کو لینا منتعین ہے۔ اور اگر مشائخ کا اختلاف ہو تو اکابر کی اکثریت کی رائے کا اعتبار ہو گا اور اسے قابل اعتماد قرار دیا جائے گا۔ (قال فی الآخر الحاوی القدسی ص ۷۸ س: ۸ - إلى قوله - فبعثتمد عليه ص: ۷۸ س: ۱۱)

## مشائخ میں اختلاف کی مثالیں

(۱) نمازی کے سامنے سے کتنے فاصلہ سے گذر سکتے ہیں؟:

بڑی مسجد یا میدان میں اگر کوئی شخص بغیر سترہ کے نماز پڑھ رہا ہو اور اس کے آگے سے کسی کو گذرنے کی ضرورت پیش آئے تو وہ کتنے فاصلہ سے گزرے کہ گنہ گارنہ ہو، اس بارے میں انہے متفقہ میں سے کوئی حد منصوص نہیں ہے، اور مشائخ کے اقوال اس کے متعلق مختلف ہیں: (۱) بعض نے کہا کہ ۵۰ رہاتھ سے زیادہ ہو تو گذرنا جائز ہے (۲) بعض نے اس کی حد ۳۰ رہاتھ مقرر کی ہے (۳) بعض نے ۲۰ رہاتھ سے صرفیں مقرر کی ہیں (۴) بعض نے تین یا پانچ رہاتھ کا اندازہ لگایا ہے (۵)

قاضی خاں (المتوفی ۵۹۳ھ) صاحب الکافی علامہ حاکم شہید (المتوفی ۳۳۲ھ) صاحب ہدایہ (المتوفی ۵۹۳ھ) صاحبِ محیط اور علامہ زیلیٰ فرماتے ہیں کہ ایسی صورت میں نمازی کے سجدہ کی جگہ سے آگے گذرنا جائز ہے (۲) جب کہ علامہ فخر الاسلام بزدوی (المتوفی ۲۸۲ھ) اور علامہ جعفر علامہ تمثیلی (المتوفی ۱۰۰۳ھ) علامہ کاسانی (المتوفی ۷۵۸ھ) اور صاحب نہایہ اور محقق ابن الہمام (المتوفی ۲۸۱ھ) کی رائے یہ ہے کہ اگر آدمی خشوع و خصوع کے ساتھ نماز پڑھے تو اس حالت میں جہاں تک اس کی نظر جاتی ہو اس سے آگے سے گذرنا درست ہے۔

صاحب عنایہ علامہ اکمل الدین محمد بن محمود بابری (المتوفی ۷۸۶ھ) نے قول ۵ اور قول ۶ میں اسی طرح تطبیق دی ہے کہ قول ۵ میں سجدہ کی جگہ سے اس کی مخصوص جگہ مراد نہیں ہے بلکہ آس پاس کی جگہ کا بھی یہی حکم ہے۔ اور یہی معنی مال کے اعتبار سے قول ۶ کے نکتے ہیں۔ (دیکھئے عنایہ علامہ شامی نے بھی صاحب ہدایہ کی کتاب لتحییس کی عبارت حاشیہ میں نقل کر کے صاحب عنایہ کی پروزور تائید کی ہے، اور ان لوگوں کی تردید کی ہے جو دونوں اقوال کو الگ الگ قرار دیتے ہیں (شامی کراچی ۱۳۴۱، شامی زکریا ۱۳۹۸ھ) جیسا کہ صاحب بحر علامہ ابن نجیم نے پورا زور اس پر صرف کر دیا ہے کہ قول ۵ ہی اصح ہے۔ (ابحر ۱۶۱/۲) خلاصہ یہ کہ زیر بحث مسئلہ میں ابتدائی چار اقوال بالکل متروک ہے، اور قول ۵ اور قول ۶ میں صرف لفظی فرق ہے معنی وہ ایک ہی ہیں، لہذا اکثر مشائخ کی رائے کے موافق ہونے کی بنا پر اسی کوتر حجج ہوگی۔

**ضروری تنبیہ:** اس مسئلہ کے متعلق تمام کتب مذہب: صغیری، کبیری، طباطبائی، شامی، ابحر الرائق، مجمع الانہر، فتح القدیر اور فتاویٰ تاتار خانیہ وغیرہ میں یہ تحریر ہے کہ علامہ سمش اللائمہ سرخسی نے قول ۵ یعنی محض سجدہ کی جگہ سے آگے گذرنے کی اجازت والی رائے کی تصحیح کی ہے، مگر ہم نے جب مبسوط سرخسی کا مطالعہ کیا تو اس میں علامہ سرخسی کی یہ عبادت درج ہے :

وأصلح ما قيل فيه إن المصلى لو صلى بخشوع فإلى الموضع الذى يقع بصره

على المار يكره المرور بين يديه وفيما وراء ذلك لا يكره۔ (المبسوط السرخسی ۱۹۲۱)

اس عبارت سے صاف معلوم ہوتا ہے کہ علامہ فخر الاسلام بزدیٰ اور شمس الائمه سرخسی کے قول میں کوئی فرق نہیں ہے، اور شمس الائمه سرخسی قول ۶ کو ہی اصح قرار دے رہے ہیں، مگر نہ جانے کیوں تمام فقہی کتابوں میں شمس الائمه کے قول کو قول ۵ میں شمار کر لیا گیا۔ البته علامہ شمس الدین محمد الخراسانی القهتا نی (المتوفی ۹۶۲ھ یا ۹۵۰ھ) کی کتاب جامع الرموز میں شمس الائمه کا قول صحیح نقل کیا ہے کہ وہ اس قول کے قائل ہیں جسے ہم نے قول ۶ کے عنوان سے ذکر کیا ہے۔ (دیکھئے جامع الرموز مطبوعہ محمدی دہلی ۱۳۶۱) اسی بنابر ہم نے بھی علامہ سرخسی کو قول ۶ کے قائلین میں شامل کیا ہے، واللہ اعلم۔

## تمرين ۲۹:

○ اس مسئلہ کے متعلق درج ذیل کتابوں سے حوالے اپنی کاپی میں نوٹ کریں۔ (۱) فتح القدر قبل فصل ویکرہ المصلی طبع بیروت ۱۴۰۵-۳۰۲، (۲) عناصر مع فتح القدر بیروت ۱۴۰۲، (۳) رد المحتار مع الدر المختار مع حاشیہ مطلب اذا قرأ تعالیٰ انْ مطْبُوعَ كِراچی ۱۴۲۳، مطبوعہ زکریا ۱۴۲۲، (۴) طحطاوی علی المراتی ۱۸۸۱، (۵) البحر الرائق ۱۵-۱۶، (۶) شرح وقایہ ۱۴۶۱، (۷) فتاویٰ تاتار خانیہ ۱۴۰۰، (۸) کبیری طبع لکھنؤ ۱۴۵۳، (۹) عینی شرح بدایہ ۱۴۸۸۔

## (۲) وضو میں گردن کا مسح سنت ہے یا مستحب؟ :

وضو میں گردن کے مسح کے متعلق ائمہ متقدمین سے کوئی صراحة مตقول نہیں ہے اور مشائخ کی آراء مختلف ہیں: (۱) بعض مشائخ نے کہا کہ یہ بدعت ہے۔ (۲) علامہ قاضی خالی نے کہا کہ یہ سنت ہے نہ مستحب۔ (۳) ابو بکر اعمش (المتوفی ۱۴۷۵ھ) فقیہ ابو جعفر (المتوفی ۱۴۲۲ھ) اور بہت سے علماء نے فرمایا کہ یہ سنت ہے۔ (۴) اور علامہ شمس الائمه سرخسی (المتوفی ۱۴۸۳ھ) علامہ ابو بکر الاسکاف (المتوفی ۱۴۳۳ھ) علامہ ابن الہمام (المتوفی ۱۴۸۱ھ) وغیرہ حضرات کے نزدیک گردن کا مسح مستحب اور مستحسن ہے، متأخرین اکابر فقهاء اسی قول ۶ کے قائل ہیں اور یہی قول مفتی ہے۔

قال في المبسوط: والأصح أنه مستحسن في الوضوء (۱۰۱) وفي فتح القدير: ومسح الرقبة مستحب. (۲۶۱) وفي البحر الرائق: وقد اختلف فيه فقيه بدعوة

وقيل سنة وهو قول الفقيه أبي جعفر وبه أخذ كثير من العلماء كذا في شرح مسكين وفي الخلاصة الصحيح أنه أدب وهو بمعنى المستحب كما قلمناه.  
 (٢٨١) وفي البدائع: وأما مسح الرقبة فقد اختلف المشائخ فيه قال أبو بكر الأعمش أنه سنة وقال أبو بكر الإسكاف أنه أدب. (٢٣١) وفي غنية المتملى: قال بعضهم هو أى مسح الرقبة أدب الخ، واقتصر في الكافي على أنه مستحب وهو الأصح رواية فعله صلى الله عليه وسلم في بعض الأحاديث دون غالبيها فأفاد عدم المواظبة وهو دليل الاستحباب. (٤٢) وأمثال ذلك في التاتارخانية. (١١١)

### ٣٠ تمرین:

- الف: مرافق الفلاح نے گردن کے مسح کو سنت قرار دیا ہے، اور مستحب کہنے والوں کی دلیل کو تسلیم نہیں کیا۔ آپ طھاوی کا بغور مطالعہ کر کے بتائیں کہ صاحب مرافق کا یہ موقف کہاں تک درست ہے؟
- ب: اختلاف مشائخ کی کم از کم تین مثالیں اور پیش کریں۔

(۱۹) جو مسئلہ کتب مذہب میں نہ ملے اسے کیسے لکھا جائے؟

اگر مسئلہ کے بارے میں امام صاحب یاد گیر اصحاب مذہب اور مشائخ متقدمین و متأخرین سے کوئی صراحت منقول نہ ہو تو بالغ نظر مفتی اپنے مقام و منصب اور خوف و خشیت خداوندی کو ملحوظ رکھتے ہوئے قواعد و ضوابط اور نظائر کو سامنے رکھ کر فتویٰ دے گا، جب کہ مفتی مقلد کو اپنی رائے پر فتویٰ دینے کا حق نہ ہوگا، بلکہ وہ اپنے سے بڑے مفتی اور فقیہ کا جواب نقل کر کے فتویٰ اسی کی طرف منسوب کر دے گا۔

## مفتي مقلد (غير مجتهد) صرف ناقل ہے

آج کل اکثر مفتیاںِ کرام حقیقتہ مفتی نہیں بلکہ ناقل فتاویٰ ہیں، ان میں جو بالغ نظر ہیں ان کے لئے غیر منصوص مسائل میں اپنے اجتہاد اور اصول پر تخریج قواعد کی استعداد پر مدارکتے ہوئے کوئی ایک رائے اختیار کرنا درست ہے لیکن جو مفتی بالغ نظر بھی نہیں یعنی ان میں کسی بھی درجہ میں اجتہاد اور تخریج مسائل کی صلاحیت نہیں پائی جاتی، ان کے لئے ایسے غیر منصوص مسائل میں رائے زنی ہرگز رو انہیں ہے۔ انہیں تو معاملہ اپنے سے بڑے درجہ کے مفتیاں کو سونپ دینا چاہئے، اور اپنی علمی کے اظہار میں کوئی تکلف نہ کرنا چاہئے، یہاں یہ بھی واضح رہے کہ اگر کسی شخص نے مذہب کی چند کتابیں قاعدہ سے پڑھ رکھی ہوں اور اسے ان کتابوں سے مسائل نکالنے کا سلیقہ بھی آگیا ہو پھر وہ کسی مسئلہ کو ان کتابوں میں نہ پائے تو ایسے شخص کو بھی اپنی رائے پر فتویٰ کی اجازت نہ ہوگی۔ اسے صاف کہہ دینا چاہئے کہ میرے مطالعہ میں یہ بات نہیں گذری، اس لئے کہ عموماً جزئیہ نہ ملنے کی بنیاد مطالعہ کی کمی یا مسئلہ کے اصلی مقام سے نواقفیت ہوتی ہے۔ اور تجربہ سے یہ بات ثابت شدہ ہے کہ اکثر مسائل کا ذکر صراحتہ یا دلالۃ یعنی قواعد کے ضمن میں مذہب میں ضرور پایا جاتا ہے، الاما شاء اللہ۔ (وَإِن لَمْ يُوجَدْ مِنْهُمْ جَوابُ الْبَيْتَةِ ص: ۷۸ س: ۱۱ - إِلَى قَوْلِهِ - أَوْ بِذَكْرِ

قواعدة کلیۃ تشملها ص: ۷۹ س: ۱۰)

## (۲۰) محض نظیر پر اعتماد نہ کیا جائے

غیر منصوص مسائل کا حکم تلاش کرتے وقت اگر ان کے مشابہ کوئی جزئیہ اور نظیر مل جائے، تو آنکھ بند کر کے اس پر اعتماد نہ کرنا چاہئے بلکہ گہرائی سے مسئلہ کی علتوں کا معائنہ کرنا چاہئے۔

کیا وجہ ہے؟

اس کی وجہ یہ ہے کہ بہت سے مسائل دیکھنے میں یکساں ہوتے ہیں جب کہ ان کے احکامات

میں بہت فرق ہوتا ہے۔ جس کا بسا اوقات ہماری فہم ناقص ادارا ک نہیں کر پاتی، اسی وجہ سے علماء نے ”فروق“ کے موضوع پر باقاعدہ کتابیں تالیف فرمائی ہیں، اگر یہ کام مخصوص ہماری رائے پر چھوڑ دیا جائے تو ہم اپنی کم فہمی کی بنا پر اس ذمہ داری کو کما حقہ انجام نہ دے پائیں گے، جس کا نتیجہ غلط فتویٰ کی شکل میں ظاہر ہو گا۔ (ولایکتھی بوجود نظیرہا ص: ۷۹: ۱۰ - إلی قولہ - لم ندرک الفرق بینهما ص: ۷۹: ۱۱)

## نظائر میں فرق کی چند مشا لیں

(۱) بکری کے رویڑ اور غلمہ کے ڈھیر کے حکم میں فرق :

اگر گیہوں کے ڈھیر میں سے ایک غیر متعین کلوکو بیچا جائے تو یہ بیع درست ہے، اور اگر بکری کے رویڑ میں سے ایک غیر متعین بکری کی بیع کی تو یہ درست نہیں، حالاں کہ بظاہر دونوں مسئلہوں کی نوعیت یکساں معلوم ہوتی ہے۔ وجہ فرق یہ ہے کہ ہر بکری دوسرا بکری سے وزن قیمت اور قوت وضعف میں جدا گانہ ہوتی ہے، اگر وہ بیع میں متعین نہ ہو تو یہ جہالت مفضی الی الزراع ہو گی جو منوع ہے، اور گیہوں کے تمام اجزاء برابر ہوتے ہیں۔ وہاں اجزاء کی جہالت باعث نزاع نہیں ہے اس لئے اس کی بیع درست ہو گی۔ و بیع شاۃ من قطیع وذراع من ثوب لايجوز للتفاوت و بیع قفیز من صبرة یجوز لعدم التفاوت فلا تفضی الجھالة إلى المنازعۃ فيه، و تفضی إليها فی الأول فوضح الفرق۔ (هدایہ ۶۱۳)

(۲) حق مرور اور حق تعلیٰ :

مذہب کی ایک روایت کے مطابق راہ داری کے حق کو بیچنا جائز ہے، جب کہ سبھی انہے احناف متفق ہیں کہ حق تعلیٰ یعنی بالاخانہ (غیر تغیر شدہ) کی بیع درست نہیں ہے، حالاں کہ حق ہونے کے اعتبار سے حق مرور اور حق تعلیٰ میں کوئی فرق نہیں معلوم ہوتا۔ اور ظاہر یہ ہے کہ دونوں کا حکم بھی یکساں ہونا چاہئے، مگر فقہاء نے ان میں یہ فرق کیا ہے کہ حق تعلیٰ کا تعلق عمارت سے ہے جو بذات

خود باقی رہنے والی چیز نہیں ہے، الہذا یہ منافع کے مشابہ ہو گیا، کہ ان کا بانفرادہ بیچنا درست نہیں۔<sup>(۱)</sup> اور حق مرور کا تعلق زمین سے ہے جو باقی رہنے والی چیز ہے تو وہ اعیان سے مشابہ ہو گیا الہذا جس طرح اعیان کی بیچ بانفرادہ درست ہے، اسی طرح حق مرور کی بیچ بھی بانفرادہ درست ہو گی۔ ووجہ الفرق بین حق المرور حق التعلیٰ علیٰ إحدی الروایتین أن حق التعلیٰ یتعلق بعین لاتبقي وهو البناء فأشبہ المنافع أما حق المرور یتعلق بعین تبقى وهو الأرض فأشبه الأعیان۔ (هدایہ ۴۰/۳)

### (۳) شیٰ مغصوب میں غاصب کے تصرف کا حکم :

اگر غاصب شیٰ مغصوب میں ایسا تصرف کر دے جس کی بنابر مغصوب کا نام بدل جائے اور اس کی پرانی حیثیت باقی نہ رہے مثلاً مغصوب بگھوں کو پیس کر آٹا بنا دیا، یا لو ہے کتووار کی شکل دیدی یا پیتل کا برتن بنا دیا، تو اس شیٰ مغصوب سے اصل مالک کی ملکیت ختم ہو جاتی ہے، اور غاصب اس کا مالک بن جاتا ہے، لیکن اگر کوئی غاصب مغصوب بہ بکری کو ذبح کر کے اس کی کھال اتار دے اور اس کے ٹکڑے ٹکڑے کر دے تو مغصوب منه (اصل مالک) کی ملکیت اس سے ختم نہیں ہوتی، حالاں کہ بظاہر یہاں بھی ملکیت ختم ہو جانی چاہئے تھی، اس لئے کہ غاصب نے بکری کو ختم کر دیا ہے، لیکن ان دونوں مسئللوں میں فقهاء نے یہ فرق کیا ہے کہ گھوں کا آٹا بنا دینے، لو ہے کی تلوار اور پیتل کا برتن بنا دینے میں مغصوب کا اصل نام ہی زائل ہو گیا اور منافع میں واضح فرق ہو گیا، الہذا وہاں ایک نئی صفت غاصب کی جانب سے پائی جانے کی وجہ سے اس کی ملکیت کا قول کریں گے، جب کہ بکری کو محض کھال اتار کر ٹکڑے کر دینے میں اس کے گوشت پر بکری کا نام بدستور باقی ہے، اس لئے اصل مالک کی ملکیت باقی رہے گی۔ بخلاف الشاة لأن إسمها باق بعد الذبح والسلخ۔ (هدایہ ۳۶۱/۳)

### تیرین: ۳۱

○ نظائر میں تفرقی کی کم از کم ۱۰ مثالیں ہدایہ کا بنظر غائر مطالعہ کر کے کاپی میں تحریر  
 (۱) یہ تو ایک فقہی مثال ہے ورنہ اس دور میں بعض علماء محققین نے حق تعلیٰ کو بھی پائیدار حق مان کر اس کی بیچ کے جواز کا فتویٰ دیا ہے۔ (فقہی مقالات ۹۲/۱۹۱)

کریں۔ (ہدایہ میں بکثرت نظائر میں فرق کی مثالیں ملتی ہیں)

## (۲۱) قواعد و اصول پر فتویٰ

عام مفتیان مقلدین پر یہ بھی لازم ہے کہ وہ مسئلہ کے بارے میں صریح جزئیہ مذہب کی معتبر کتابوں سے تلاش کریں، اور محض قواعد و اصول کو معتمد علیہ نہ بنائیں، اس لئے کہ یہ قواعد کلی نہیں بلکہ اکثری ہیں، ہاں اگر کسی مسئلہ میں عرف یا ضرورت کی بناء پر فتویٰ دینا ضروری ہو تو بالغ نظر مفتی اصول و قواعد پر اپنے فتویٰ کا مدار رکھ سکتا ہے، مگر فتویٰ کے اخیر میں اسے صراحت کر دینی چاہئے کہ اس بارے میں جزئیہ نہیں ملا، قواعد سامنے رکھ کر جواب لکھا گیا ہے۔

### وضاحت

چاروں ہی مذاہب متناولہ میں یہ بات طے شدہ ہے کہ قواعد مذہب کلی نہیں ہیں، بلکہ اکثری ہیں اسی بناء پر حضرات فقہاء کرام اصول سے مستثنی مسائل بھی اہتمام سے ذکر کرتے ہیں، بریں بنا اگر مفتی مقلد کو اصول پر فتویٰ کی چھوٹ دی جائے گی تو علمتوں کے درمیان فرق و جمیع کی صلاحیت اور استعداد نہ ہونے کی وجہ سے سخت گمراہی اور غلطی کا احتمال ہو گا، جو کسی طرح جائز اور مناسب نہیں ہے۔ اس لئے ایسی صورت میں کم علم مفتی کو اپنے سے بڑے مفتی کی طرف رجوع کرنا چاہئے، ہاں اگر عرف و ضرورت سے متعلق مسائل ہوں یا ایسے مسائل ہوں جو پہلے نہ پائے جاتے ہوں اور ان کے بارے میں مذہب کی کتابوں میں صراحةً جزئیہ ملنے کا امکان ہی نہ ہو تو اہل نظر مفتیان کو یہ حق ہو گا کہ وہ اصول و قواعد کو سامنے رکھ کر اس مسئلہ کا حکم متعین کریں۔ (قال العلامہ ابن نجیم فی الفوائد الزيینیة ص: ۷۹: ۱۱ - إلی قوله - كما سنذکرہ

آخر المنظومة ص: ۸۰ س: ۱)

# اصول سے استثناء کی مثالیں

## قاعدہ: إضافة الحادث إلى أقرب أوقاته :

اس قاعدہ کے تحت یہ مسئلہ بیان کیا گیا ہے کہ اگر شوہر کے انتقال کے بعد بیوی یہ دعویٰ کرے کہ اس کے شوہرنے اسے مرض الموت میں طلاق دی تھی، لہذا اسے وراثت ملنی چاہئے، اور شوہر کے ورثاء یہ کہ شوہرنے حالتِ صحّت میں طلاق دی ہے اس لئے اسے وراثت نہ ملنی چاہئے، تو ایسی صورت میں (اگر کوئی اور ثبوت نہ ہو) تو عورت کا قول معتبر ہوگا، کیونکہ وہ طلاق کو اقرب الاؤقات کی طرف منسوب کر رہی ہے، لیکن یہ قاعدہ اس صورت میں جاری نہ ہوگا جب کہ کسی ذمی کی بیوی شوہر کے مرنے کے بعد دعویٰ کرے کہ شوہر کی موت کے بعد اس نے اسلام قبول کیا ہے، اور شوہر کے مرتے وقت وہ بھی کافر تھی، لہذا اسے شوہر کی وراثت ملنی چاہئے، اور میت کے ورثاء یہ دعویٰ کریں کہ یہ عورت شوہر کی زندگی میں اسلام قبول کر چکی ہے، اس لئے یہ وراثت کی حق دار نہیں ہے۔ تو اس جزئیہ میں عورت کا دعویٰ قبول نہ ہوگا، اور دلالت حال کی بندیا پر عورت کو وراثت سے محروم کر دیا جائے گا، یعنی چوں کہ وراثت سے محرومی کا سبب (اسلام) فی الوقت موجود ہے، اس لئے سابق میں بھی اسے ہی باقی رکھا جائے گا۔

**قاعدہ:** "الأصل إضافة الحادث إلى أقرب أوقاته" ومنها: إدعت أن زوجها أبانها في المرض وصار فاراً فترت وقالت الورثة أبانها في صحته فلا ترث كان القول قولهما فترت، وخرج عن هذا الأصل: إن مات ذمي فقالت زوجته أسلمت بعد موته وقالت الورثة أسلمت قبل موته فالقول لهم مع أن الأصل المذكور يقتضي أن يكون القول قولهما وبه قال زفر، وإنما خرجوا عن هذه القاعدة فيها لأجل تحكيم الحال وهو أن سبب الحرمان ثابت في الحال فيثبت فيما مضى. (الأشبه والنظائر ۱۱۳/۱)

## قاعدہ: إذا تعارض المانع والمقتضى يقدم المانع :

اس قاعدہ کی مثال یہ ہے کہ اگر کسی شخص کو دوزخم لگے، ایک عمدًا اور دوسرا خطاء، جس سے وہ مر گیا تو یہاں قصاص کا حکم نہ ہوگا، اس لئے کہ ایک زخم (زخم خطاء) قصاص سے مانع ہے، اور دوسرا زخم (زخم عمد) قصاص کا مقتضی ہے، لہذا قاعدہ کے بحسب مانع اور مقتضی میں تعارض کے وقت مانع کو ترجیح ہوگی۔ اس قاعدہ سے یہ مسئلہ مستثنی کر دیا گیا ہے کہ شہید اگر حالت جنابت میں جام شہادت نوش کر لے تو گوہ کہ شہادت مانع غسل ہے، مگر یہاں امام ابوحنیفہؓ نے اس مانع کا اعتبار نہیں کیا، بلکہ غسل کی مقتضی یعنی جنابت کا خیال کرتے ہوئے ایسے شہید کو نہلانے کا حکم دیا ہے۔ وجہ یہ ہے کہ شہادت غسل سے مانع تو ہے مگر جنابت کو رفع کرنے والی نہیں ہے۔

”إذا تعارض المانع والمقتضى فإنه يقدم المانع“ - لو جرحد جرحين عمدًا أو خطأً ومات بها فلا قصاص - وخرجت عنها لو استشهاد الجنب فإنه يغسل عند الإمام ومقتضاهما (القاعدة) أن لا يغسل كقولهما. (الأشباه ١٨١/١) وفي الهدایة: وعلته أن الشهادة عرفت مانعة غير رافعة فلا ترفع الجنابة. (هدایة ١٨٣/١)

### ٣٢: تمرین:

○ اس طرح کی مثالیں الاشواہ والنظائر میں بکثرت آتی ہیں، آپ ان میں سے کم از کم ۵ مثالیں سمجھ کر باحوالہ تحریر کریں۔

## اصول وقواعد پرفوئی کے چند نمونے

### (۱) بیع میں گارنٹی :

حنفیہ کا راجح اصول یہ ہے کہ بیع میں ایسی شرط لگانا جو مناسب عقد ہو یا مناسب عقد تو نہ ہو بلکہ اس کا رواج عام ہو گیا ہوا اور اس کی وجہ سے لوگوں میں تنازع نہ پیدا ہوتا ہو جائز ہے۔ (بدائع ۱۷۱/۵)

اب اس زمانہ میں کچھ ایسی شرطیں پائی جاتی ہیں جن کا پہلے وجود نہیں تھا، مثلاً مشنری (فرج، سلامی مشین، سونکھے وغیرہ) خریدتے وقت بائع کی طرف سے ایک سال یا چند سالوں کے لئے گارنٹی دی جاتی ہے کہ اس دوران اگر مبیع میں کوئی خرابی آئے تو اس کا ذمہ دار بائع ہو گا، وہ اسے ٹھیک کر کے دے گا یا بدل کر دے گا، یہ شرط اگرچہ تقاضائے عقد کے خلاف ہے کیوں کہ اس میں احد العاقدين (مشتری) کا نفع ہی نفع ہے، لیکن اب چوں کہ عرف عام ہو چکا ہے، اس لئے ایسی شرط لگانی اصولاً جائز ہے، کیوں کہ یہ شرط نہ تو کسی نص سے مکراتی ہے اور نہ یہ مفہومی ایں النزاع ہے۔ (دیکھئے تتمہ فتح الملبم ۱/۲۳۵)

## (۲) امام کی مکروہ نماز کا اثر مقتدیوں کی نماز پر :

امام کی نماز اگر کسی وجہ سے مکروہ ہو جائے تو اس کا اثر مقتدیوں کی نماز پر پڑے گا یا نہیں؟ اس سلسلہ میں حکیم الامت حضرت مولانا اشرف علی تھانویؒ فرماتے ہیں اس کے متعلق کوئی روایت نہیں ملی، لیکن قواعد سے یہ سمجھ میں آتا ہے کہ کراہت اگر کسی داخل فی الصلاۃ فعل سے ہے تو امام کی نماز کی کراہت مقتدی کی نماز تک متعدد ہو گی، کیوں کہ اس صورت میں خود امام کی نماز مکروہ ہے۔ وصلاتہ متنضمہ لصلاحۃ المقتدی اور اگر امام کی نماز میں کراہت خارج عن الصلاۃ فعل سے آئی ہو تو اس وقت مقتدی کی نماز مکروہ نہ ہو گی۔ (امداد الفتاویٰ ۱/۴۰)

## تقریں: ۳۳

○ اصول پر فتویٰ کی پانچ مثالیں تحریر کریں، اور بالخصوص جدید اردو فتاویٰ کا مطالعہ کریں۔

## (۲۲) عبادات میں امام ابوحنیفہؓ کے قول پر فتویٰ

جو مسائل نماز، روزہ وغیرہ عبادات سے متعلق ہیں ان میں امام صاحبؓ کا مشہور قول عموماً راجح قرار دیا جاتا ہے، الایہ کہ امام صاحبؓ کی کسی مرجوع عنہ روایت پر مشايخ نے فتویٰ کی صراحت کی ہو۔

## وضاحت

علامہ ابراہیم حلبی<sup>ؒ</sup> (المتوفی ۹۵۶ھ) نے ”کبیری شرح منیۃ“ میں لکھا ہے کہ استقراء اور تتبیع سے یہ بات واضح ہے کہ علماء نے عبادات میں امام ابوحنیفہ کے مشہور قول کو اختیار کیا ہے، اور اگر کبھی مشہور قول کو کسی مسئلہ میں چھوڑنے کی ضرورت پیش آئی بھی ہے تو ایسے قول کو اختیار کیا ہے جس کے موافق امام صاحب<sup>ؒ</sup> کی کوئی روایت بھی موجود ہو، مثال کے طور پر:

- (۱) ماء مستعمل کی طہارت کے بارے میں امام صاحب<sup>ؒ</sup> کی ایک روایت ہے، جسے امام محمد<sup>ؐ</sup> نے اپنا مذہب بنایا ہے اسی پر فتویٰ ہے۔ اس کے مقابلہ میں امام صاحب<sup>ؒ</sup> کا مشہور قول عدم طہارت کا ہے۔ (۱)
- (۲) نبیذتمر کی موجودگی میں اگر کوئی اور پانی موجود نہ ہو تو صرف تمیم کرنے جانے پر فتویٰ ہے، یہ امام ابویوسف<sup>ؒ</sup> کا مذہب اور امام ابوحنیفہ<sup>ؒ</sup> کی ایک روایت ہے، اس کے مقابلہ میں امام ابوحنیفہ<sup>ؒ</sup> کا مشہور قول صرف وضوء کا اور امام محمد<sup>ؐ</sup> کا قول وضواہ تمیم دونوں کا ہے۔ (بدایہ اربعون، کبیری ۲۳) الأولی مافی شرح المنیۃ ص: ۸۰ س: ۸ - إلى قوله - عند عدم غير نبیذ التمر ص: ۸۰ س: ۱۱)

## امام صاحب<sup>ؒ</sup> کے قول پر فتویٰ کی مثالیں

(۱) کنویں میں مراہ و اپرندہ وغیرہ پائے جانے کا مسئلہ :

اگر کسی کنویں میں چڑیا چوہا وغیرہ جانور پڑا ہو املے اور وہ پھولا پھٹانہ ہو تو اس پانی کے وضو سے پڑھی گئیں ایک دن اور ایک رات کی نمازیں لوٹائی ہوں گی، اور اگر وہ پھول اور پھٹ گیا ہے تو تین دن اور تین رات کی نمازیں لوٹائی جائیں گی، یہ امام صاحب<sup>ؒ</sup> کا مذہب ہے، اور اسی پر فتویٰ ہے۔ اس کے مقابلہ میں حضرات صاحبین<sup>ؒ</sup> کا مذہب ہے وہ فرماتے ہیں کہ خواہ جانور پھولا پھٹا ہو یا نہ ہو، انہیں کسی نماز کے لوٹانے کا حکم نہیں دیا جائے گا، تا آں کہ پتہ چل جائے کہ کب سے یہ جانور (۱) شارح منیۃ نے یہ مثال امام صاحب<sup>ؒ</sup> کے قول کو چھوڑ دینے کی پیش کی ہے، مگر طحا وی علی المراتی میں لکھا ہے کہ ماء مستعمل کی طہارت کا قول اتفاقی ہے، اس میں کسی امام کا کوئی اختلاف نہیں ہے۔ (طحا وی ۱۲) جب کہ صاحب ہدایہ نے اختلاف نقل کیا ہے۔ (بدایہ ۲۲) واللہ عالم۔

گرا ہے کہ اسی وقت سے نماز لوٹانے کا حکم کریں گے۔ صاحبین کا یہ قول قیاس پر مبنی ہے، جب کہ امام صاحب کی رائے احسان پر مبنی ہے۔ دوسرے یہ کہ عبادات میں امام صاحب کے قول کو ترجیح ہوتی ہے، اس لئے فتویٰ امام صاحب کی رائے پر دیا گیا ہے، اسی وجہ سے علامہ شامی نے زیر بحث مسئلہ میں صاحبین کے قول پر فتویٰ دینے پر تلقید کرتے ہوئے ارشاد فرمایا ہے کہ:

قلت لم يوافق على ذلك فقد اعتمد قول الإمام البرهاني والنسفي  
والموصلى وصدر الشريعة ورجح دليله فى جميع المصنفات وصرح فى البدائع  
بأن قولهما قياس وقوله استحسان وهو الأحوط فى العبادات. (رد المحتار مع الدر

المختار شامي زكرياء ۳۷۸/۱، هداية ۴۴/۱، ۴۵-۴۶)

## (۲) حالتِ نفاس میں خون کا انقطاع :

عورت حالتِ نفاس میں تھی کہ درمیان میں کچھ دن خون آنا بند ہو گیا، تو امام صاحب کے نزدیک اسے حالتِ نفاس ہی میں شمار کیا جائے گا، خواہ وقفہ کی مدت پندرہ دن سے کم ہو یا زائد گویا اس طہر متخلل کو دم متوالی کے حکم میں سمجھا جائے گا، اور حضرات صاحبین کے نزدیک اگر وقفہ پندرہ دن سے کم ہو تو یہی حکم ہے، اور پندرہ دن سے زیادہ ہو جائے تو اسے پاک قرار دیا جائے گا، اس مسئلہ کا تعلق چوں کہ عبادات سے ہے اس لئے فتویٰ امام صاحب کے قول پر دیا گیا ہے۔ الطهر المتخلل بين الأربعين في النفاس لا يفصل عند أبي حنيفة سواء كانت خمسة عشر أو أقل أو أكثر ويجعل إحاطة الدمين بطرفيه كالدم المتوالي وعلىه الفتوى، وعندهما الخمسة عشر تفصيل۔ (شامی کراچی ۲۹۰/۱، شامی زکریاء ۴۸۴/۱)

تمرين: ۳۳

○ عبادات میں امام صاحب کے مفتی بہ راقوال تلاش کر کے لکھیں۔

## (۲۳) قضا اور متعلقات قضائیں امام ابو یوسف کے قول پر فتویٰ

حضرت امام ابو یوسف عرصہ دراز تک منصب قضا پر فائز رہے، مسائل

قضايا میں ان کو زیادہ تجربہ تھا، اسی وجہ سے قضا اور اس کے متعلقہ مسائل میں امام ابو یوسفؒ کا قول زیادہ تر معتبر مانا جاتا ہے۔

## تجربہ علم کی زیادتی کا سبب ہے

تجربہ کی زیادتی سے بھی مسائل کو سمجھنے اور ان کا حکم بیان کرنے میں کافی سہولت ہو جاتی ہے، اسی وجہ سے مشہور ہے کہ ابتداء میں حضرت امام ابوحنیفہؓ فتویٰ دیا کرتے تھے کہ نفلی حج کے مقابلہ میں صدقہ کرنا افضل ہے، لیکن جب آپ نفس نفیس حج کو تشریف لے گئے اور سفر کی مشقتوں سے آگاہ ہوئے تو آپ نے سابق قول سے رجوع فرمالیا، اور ہر حالت میں حج کی افضليت کا قول ارشاد فرمایا۔ اسی طرح چوں کہ امام ابو یوسفؒ کو مسائل قضا میں اشتغال کا زیادہ موقع ملا، اور عملی طور پر انہوں نے مشکلاتِ قضا کا مشاہدہ کیا ہے، اس لئے قضا و شہادات وغیرہ میں ان کی رائے زیادہ وزنی ہو گی۔ علامہ ابن نجیمؓ (المحرر الرائق)، کے کتاب الدعویٰ میں تحریر فرماتے ہیں کہ: ”اگر مدعا علیہ دعویٰ کا کچھ جواب نہ دے اور خاموش رہے تو حضرات طرفینؓ کے نزدیک اسے مکر قرار دے دیا جائے گا، جب کہ امام ابو یوسفؒ کے نزدیک اس وقت تک قید میں رکھا جائے گا جب تک کہ وہ ہاں یانہ میں جواب نہ دے دے، جیسا کہ علامہ سرسیؓ نے نقل کیا ہے، علامہ ابن نجیمؓ فرماتے ہیں کہ چوں کہ قضا و متعلقاتِ قضا میں امام ابو یوسفؒ کے قول پر فتویٰ ہے اس لئے میں نے بھی مذکورہ شکل میں مدعا علیہ کو قید میں ڈالنے کا فتویٰ دیا ہے۔“ (المحرر الرائق ۲۰۳) والثانیة ما فی البحر قبیل فصل الحبس ص: ۸۰ س: ۱۱ - إلى قوله - بأنه يحبس إلى أن يجيء. ص: ۸۰ س: ۱۵)

## قضايا میں امام ابو یوسفؒ کے قول پر فتویٰ کی مثالیں

(۱) کتاب القاضی الی القاضی سمجھنے کا طریقہ :

ایک قاضی کے دوسرے قاضی کی جانب تحریر سمجھنے کے مسئلہ میں حضرات طرفینؓ یہ شرط

لگاتے ہیں کہ جو گواہ اس تحریر کو لے کر جاری ہے ہیں ان کو قاضی تحریر کی عبارت سنا کر ان کے سامنے مہر بند کرے پھر ان کے حوالے کرے، جب کہ امام ابو یوسفؓ اس قسم کی کوئی شرط نہیں لگاتے، ان کے نزدیک بس اتنا کافی ہے کہ انہیں اس بات کا گواہ بنادیا جائے کہ یہ تحریر قاضی مرسل کی ہے، حتیٰ کہ انہوں نے تحریر کو مہر بند کرنا بھی ضروری قرار نہیں دیا، یہ مسئلہ چوں کہ قضا کا ہے اس لئے شمس الائمه سرخیؒ نے امام ابو یوسفؓ کی رائے کو ترجیح دی ہے۔ (ہدایہ ۱۲۲/۳)

## (۲) شاہد کو شہادت کی تلقین :

جب گواہ قاضی کی مجلس میں حاضر ہوں تو دیگر ائمہ کا مذہب یہ ہے کہ قاضی گواہوں کو تلقین نہیں کر سکتا کہ تم اس طرح اپنی بات کہو، جب کہ امام ابو یوسفؓ اس کی نہ صرف اجازت دیتے ہیں، بلکہ اسے مستحسن قرار دیتے ہیں، باشرطیکاہ اس سے مزید معلومات ہونے کی امید ہو اور جانب داری کا قرینہ نہ پایا جائے، فتویٰ اسی قول پر ہے۔

ولا يلقن الشاهد شهادته واستحسنہ أبو یوسفؓ فيما يستفيده به زيادة علم  
والفتویٰ على قوله فيما يتعلق بالقضاء. (الدر المختار مع الشامي کراچی ۳۷۵/۱۵، در مختار ز کریا ۵۳۸)

## ۳۵ تمرین:

○ اس طرح کی تین مثالیں کتب فقه سے تلاش کر کے تحریر کریں اور اس کے لئے کتاب القضاء، ہدایہ اور الحجر الرائق کا بالخصوص مطالعہ کریں۔

## (۲۳) میراث ذوی الارحام میں امام محمدؓ کی رائے کو ترجیح

ذوی الارحام کے مابین تقسیم میراث کا جو طریقہ امام محمدؓ نے اختیار فرمایا ہے یعنی تقسیم میں جہاتِ اصول کا اعتبار ہوگا، یہی مفتی بہ اور امام ابو حنیفہؓ کی مشہور روایت کے مطابق ہے، اس کے مقابلہ میں امام ابو یوسفؓ کا مذہب کہ تقسیم میں صرف موجودہ ابدان کا اعتبار ہوگا، مفتی بہ نہیں ہے۔

الثالثة ما في متن الملتقي وغيره ص: ۸ س: ۱۵ - إلى قوله - وعليه

الفتوى ص: ۸۱ س: ۳ -

## مثال سےوضاحت

ذوی الارحام کی تقسیم میراث میں اگر اصول یکساں ہوں تو فروع میں بالاتفاق جہاتِ ابدان کا اعتبار ہوتا ہے لیکن اگر موجودہ مستحقین کے اصول میں ذکوریت اور انوشتیت کے اعتبار سے یکساں نیت نہ ہو تو حضرت امام ابو یوسفؓ اپنے اصول کے مطابق صرف جہاتِ فروع کا اعتبار کرتے ہیں (یعنی تقسیم میراث کے وقت جو مستحقین زندہ ہوں انہیں کو بنیاد بنا کر لذکر مثل حظ الانشین کے ضابط سے ترکہ تقسیم کیا جائے گا۔ مثال کے طور پر اگر کسی شخص نے نواسی کا لڑکا اور نواسہ کی لڑکی چھوڑی تو امام ابو یوسفؓ کے نزدیک مسئلہ ۳ سے بننے گا، لڑکے کو ۲ اور لڑکی کو ایک ملے گا اور ان کے اصول کو نہیں دیکھا جائے گا اس کے برخلاف امام محمدؐ کا مذهب یہ ہے کہ ذوی الارحام کے ترکہ کی تقسیم میں اصول میں جس بطن میں ذکور و اناش کا اولاً اختلاف ہو وہاں سے تقسیم کا حساب شروع کیا جائے گا اور ان اصول کے نیچے موجودہ مستحقین میں جتنی تعداد میں وارثین موجود ہوں گے ان کی وہی تعداد فرض کی جائے گی۔ مثلاً اگر نواسہ کی ۲ لڑکیاں ہوں تو نواسہ کو عدد میں ۲ فرض کیا جائے گا اور اس میں ذکور و اناش کا لحاظ نہیں رکھا جائے گا، پھر اس طبقہ اول میں ذکور و اناش کے گروپ الگ الگ بنائ کر ان کے فروع میں تقسیم اسی اعتبار سے ہوگی۔ تو گویا کہ امام محمدؐ کے نزدیک اصالۃ اصول کا اور تبعاً فروع کا اعتبار کیا جاتا ہے اس کی مزید وضاحت اس مثال سے ہوگی کہ میت نے نواسی کی دو لڑکیاں چھوڑیں جو دونوں نواسہ کی لڑکیاں بھی ہیں (یعنی نواسی اور نواسہ کے نکاح سے یہ دونوں لڑکیاں پیدا ہوئی ہیں) اور ساتھ میں ایک اور نواسی کا لڑکا چھوڑا توب نواسی والے بطن سے حساب اس طرح شروع ہوگا کہ جس نواسی کی ۲ لڑکیاں ہیں اس نواسی کو ۲ نواسی فرض کیا جائے گا اور چوں کہ نواسہ کی بھی ۲ لڑکیاں ہیں اس لئے اس نواسہ کو ۴ نواسوں کی جگہ رکھا جائے گا، اور جس نواسی کا صرف ایک لڑکا ہے وہ نواسی ایک ہی کے درجہ میں رہے گی۔ اب اس درجہ کے افراد کو لذکر

مثل حظ الأنشيin کے اعتبار سے جب تقسیم کیا جائے گا تو جس نواسی کی ۲ رلٹر کیاں ہیں اس کے حصہ میں ۲ رہنماء آئیں گے اور نواسہ چوں کے ۲ رلٹر کوں کے قائم مقام ہے اس لئے اس کے سہماں ۲ ہوں گے اور جس نواسی کا ایک رلٹر کا ہے اس کو ایک سہماں ملے گا۔ اس طرح مسئلہ سے بننے کا پھر رلٹر کوں کے گروپ کو الگ کیا جائے گا جن کا کل حصہ ۲ بیٹھے گا جو ان کی دو رلٹر کیوں کی طرف منتقل ہو گا۔ اور رلٹر کیوں کے گروپ کو الگ کیا جائے گا جن کا مجموعی حصہ ۳ بیٹھ رہا ہے جسے ان کے گروپوں کے موجودہ وارثین میں تقسیم کرنا ہے اور وہ وارثین نواسی کی ۲ رلٹر کیاں اور دوسری نواسی کا ایک رلٹر کا ہے، جن کے کل سہماں ۲ ہوتے ہیں اور ۳ اور ۲ میں تباہی ہے لہذا کے ۲ سے ضرب دیا جائے گا تو مسئلہ ۲۸ سے بننے کا توبطن اول میں ذکور کا حصہ ۲ تھا جو ضرب دینے سے ۱۶ ہو گیا یہ حصہ نواسہ کی ۲ رلٹر کیوں کی طرف منتقل ہو جائے گا۔ اور رلٹر کیوں کا حصہ ۳ تھا تحقیح کے بعد ۱۲ ہو گیا اس میں سے چھ حصے نواسی کے رلٹر کے کو ملیں گے اور بقیہ ۶ حصوں کی مستحقین نواسی کی ۲ رلٹر کیاں ہوں گی۔ خلاصہ یہ کہ رلٹر کیوں کو باپ (نواسہ) کی طرف سے ۲ اور ماں (نواسی) کی طرف سے ۶ حصے ملیں گے، اور وہ مجموعی طور پر ۲۲ رہنماء کی مستحق ہوں گی، جب کہ نواسی کے رلٹر کے کو صرف ۶ حصے ملیں گے۔ اور مسئلہ اس طرح بننے گا:

مسئلے میتہ ۲۸			
RLTR کی	RLTR کی	RLTR کی	RLTR کی
طائفہ انتہا	طائفہ انتہا	طائفہ انتہا	طائفہ انتہا
۱=۱=۲	۱=۲=۲	۲=۲=۳	۳=۳=۳
۲=۲	۲=۲	دو رلٹر کیاں	
			۲۲=۶+۱۶
			فی کس: ۱۱

### تیرمیز: ۳۶

- الف: مسئلہ بالا سے متعلق واضح فقہی عبارتیں تلاش کر کے کاپی میں نوٹ کریں۔
- ب: سراجی اور دیگر کتب فقہ میں ذوی الارحام کی بحث کا مطالعہ کریں، اور امام محمد

کے اصول پر کم از کم تین مسئلہوں کی تخریج کریں۔

## (۲۵) استحسان پر فتویٰ

اگر مسئلہ میں ایک حکم قیاسی اور دوسرا استحسانی ہو تو قوتِ دلیل کی بنا پر استحسان کو مفتی بہ بنایا جائے گا، البتہ اگر حکم قیاسی کی ترجیح کی صراحت ہو تو پھر اسے ہی اختیار کیا جائے گا۔

ماخذ: الرابعة ما في عامة الكتب من أنه إذا كان في مسئلة قياس واستحسان ترجح الاستحسان على القياس. (شرح عقود رسم المفتى ص: ۸۱ س: ۴-۳)

### راجح قیاسی مسائل کی تعداد

علامہ ناطقی (المتوفی ۳۲۶ھ) کی کتاب ”الاجناس“ میں راجح قیاسی مسائل کی تعداد اکملی ہے، اور علامہ محمد الدین نسفی (المتوفی ۵۳۷ھ) نے یہ تعداد ۲۲ تک پہنچائی ہے۔ (مگر ان میں حصر نہیں، یہ تعداد بڑھ بھی سکتی ہے) وہی احدی عشرہ مسئلة میں ص: ۸۱ س: ۴ - إلى قوله - اثننتین وعشرين. ص: ۸۱ س: ۵

### استحسان کی ترجیح کا مطلب کیا ہے؟

صاحب تلویح علامہ مسعود ابن عمر تقیازی (المتوفی ۹۱۷-۹۲۷ھ) نے لکھا ہے کہ استحسان کی ترجیح کا مطلب یہ ہے کہ قیاس کو بالکل ترک کر کے استحسان پر عمل کرنا متعین ہوگا، جب کہ علامہ فخر الاسلام بزدوي (المتوفی ۲۸۲ھ) کے کلام سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ یہاں ترجیح کے معنی یہ ہیں کہ قیاس کے مقابلہ میں استحسان پر عمل مخصوص اولی ہے، اور قیاس کے مقتضی پر عمل کرنے کی گنجائش ہے۔ (۱) و ذکر قبلہ عن التلویح ص: ۵ - إلى قوله - حتى یجوز العمل بالمرجوح ص: ۸۲ س: ۲)

(۱) ان دونوں میں سے پہلی رائے (یعنی استحسان کے مقابلہ میں قیاس متروک ہے) راجح ہے۔ (کشف الاسرار علی اصول فخر الاسلام بزدوي ۲۷۷)

## قياس اور استحسان میں فرق

اگر مسئلہ ایسا ہو کہ سطحی نظر سے اس کی معقولیت سمجھ میں آجائے اور علت حکم کی طرف بآسانی ذہن منتقل ہو جائے تو اسے مطلق قیاس یا قیاسِ جلی کہتے ہیں (۱) اور اگر مسئلہ کی علت معلوم کرنے میں گہرائی اور گیرائی کی ضرورت پڑے تو اسے قیاسِ خفیٰ کہا جاتا ہے (۲) اسی قیاسِ خفیٰ کا نام استحسان ہے، اور عام طور پر کتب فقہ میں استحسان اسی معنی میں بولا جاتا ہے۔ اور اکثر دلیل کی قوت کی بنا پر استحسان کو ترجیح ہوتی ہے، اسی بنا پر صاحبِ مجمع لغۃ الفقهاء نے استحسان کی درج ذیل دو تعریفیں فرمائی ہیں:

استحسان کی تعریف: (۱) شارع علیہ السلام کے منشاء کو بروئے کار لانے کے لئے قیاس کو چھوڑ دینا۔ (۲) کسی ایسی مضبوط تر دلیل کی بنا پر (جوعدول کی مقاضی ہو) مسئلہ کو اپنے مشابہ مسائل کے احکام سے عدول کر کے دوسرے حکم کو اختیار کر لینا۔

اس تعریف سے معلوم ہوا کہ استحسان کی طرف عدول قوتِ دلیل کی بنا پر ہے، لہذا اگر کسی جگہ استحسان کی طرف قوتِ دلیل نہ ہو، اور قیاس قوتِ دلیل کی دولت سے مالا مال ہو تو پھر استحسان کو ترجیح نہیں ہوتی۔ آگے تفصیل آرہی ہے۔

### استحسان کی دیگر وسیعیں

قياسِ خفیٰ کے علاوہ استحسان کی تین وسیعیں اور ہیں۔

(۱) قیاسِ جلی: ماتبادرت علتهٗ إلى الفهم عند سماع الحكم. (معجم لغۃ الفقهاء ۳۷۲)

(۲) قیاسِ خفیٰ: مالم تدرك علتهٗ إلا بالفکر والتأمل. (معجم لغۃ الفقهاء ۳۷۳) وفي التلویج: هو دلیل يقابل القياس الجلی الذي سبق إليه الأفهام، هذا تفسیر الاستحسان. (التوضیح والتلویج ۳۹۲)

(۱) استحسان بالنص : یعنی قیاس کے مقابلہ میں نص شرعی آجائے کی وجہ سے قیاس کو چھوڑ دینا، مثلاً بعیض سلم کے بارے میں قیاس عدم جواز کے حکم کا تقاضا کرتا ہے، اس لئے کہ یہ بعیض معدوم ہے۔ لیکن اس معاملہ کا جواز حدیث میں وارد ہونے کی وجہ سے استحسان سلم کے جواز کا فیصلہ کیا گیا ہے۔

(۲) استحسان بالاجماع : یعنی کسی مسئلہ میں قیاسی تقاضہ کے برخلاف اجماع امت ہو گیا ہو اور اس بناء پر قیاس کو چھوڑ کر استحسان کو اختیار کر لیں، مثلاً استصناع کا جواز، یہاں بھی قیاس عدم جواز کا متقاضی ہے اس لئے کہ بعیض معدوم ہے، لیکن امت کے تعامل اور جواز پر اجماع کی وجہ سے قیاس کے حکم کو پس پشت ڈال دیا گیا۔

(۳) استحسان بالضرورة : یعنی عموم بلوی اور ضرورت کی بنیاد پر قیاس کو ترک کر دینا، مثلاً تھوڑی بہت میگنیوں کے کنویں میں گر جانے کی وجہ سے کنویں کاناپاک نہ ہونا۔ یہاں قیاس نجاست کا متقاضی تھا، مگر لوگوں کی ضرورت اور تنگی کا خیال رکھتے ہوئے عدم نجاست کا فیصلہ کیا گیا۔ یہ تینوں قسمیں بہر حال قیاسِ جلی پر راجح رہتی ہیں، بلکہ ان کا درجہ نص کے برابر سمجھا جاتا ہے، اور عموماً استحسان کی اصطلاحی تعریف میں انہیں شامل نہیں کیا جاتا۔ (حایی ۱۰۶، التوضیح والتلویح ۳۹۳)

### تمرين: ۷

○ استحسان کی مذکورہ قسموں کی کم از کم ایک مثال اور تلاش کر کے مع عبارت کا پی میں تحریر کریں۔

**قیاس و استحسان میں ترجیح کے وقت کیا پیش نظر رہے؟**

البتہ جب قیاس خفی (استحسان) کا مقابلہ قیاسِ جلی سے ہو رہا ہو تو اہل اصول کے نزدیک دو حصیتوں (۱) قوت وضع (۲) صحت و فساد سے قیاس اور استحسان میں موازنہ کیا جاتا ہے، قوت وضع کے اعتبار سے عقلائی تعارض کی چار صورتیں نکلتی ہیں، جن میں صرف ایک شکل میں استحسان کو ترجیح ہے، اور صحت و فساد کے اعتبار سے عقلائی تعارض کی ۱۶ صورتیں نکلتی ہیں، جن میں سے نو میں قیاس کو ترجیح دی جاتی ہے، ۶ میں استحسان کو ترجیح ہوتی ہے، اور ایک قسم میں دونوں کو رد کر دیا جاتا ہے، اس بحث پر کچھ روشنی درج ذیل نقشہ سے پڑتی ہے۔

## قوت و ضعف کے اعتبار سے قیاس و استحسان کی تقسیم

نمبر شار	قیاس	بمقابلہ	استحسان	حکم
۱	قیاس قوی الاثر	//	استحسان قوی الاثر	قیاس کوترجیح
۲	قیاس ضعیف الاثر	//	استحسان ضعیف الاثر	کسی کوترجیح نہیں
۳	قیاس قوی الاثر	//	استحسان ضعیف الاثر	قیاس کوترجیح
۴	قیاس ضعیف الاثر	//	استحسان قوی الاثر	استحسان کوترجیح

ان میں سے ابتدائی تین فرمیں نادر الوقوع ہیں، اور چوتھی فرمیں یعنی استحسان کی ترجیح کی صورت کثیر الوقوع ہے، مثلاً طیور سباع کے جھوٹے کی حلت کا حکم استحسان پر مبنی ہے۔ (تفصیل آگے مثالوں کے ضمن میں ملاحظہ ہو) اور اسی کثرتِ وقوع کی بنا پر اصول نمبر ۲۵ میں استحسان کوترجیح دینے کی بات کہی گئی ہے۔

## صحیت و فساد کے اعتبار سے قیاس و استحسان کی تقسیم

نمبر شار	قیاس	بمقابلہ	استحسان	حکم
۱	قیاس صحیح الظاہر والباطن	//	استحسان صحیح الظاہر والباطن	قیاس کوترجیح
۲	//	//	استحسان فاسد الظاہر والباطن	//
۳	//	//	استحسان صحیح الظاہر فاسد الباطن	//
۴	//	//	استحسان فاسد الظاہر صحیح الباطن	//
۵	قیاس فاسد الظاہر والباطن	//	استحسان صحیح الظاہر والباطن	استحسان کوترجیح
۶	//	//	استحسان فاسد الظاہر والباطن	کسی کوترجیح نہیں
۷	//	//	استحسان صحیح الظاہر فاسد الباطن	استحسان کوترجیح

۸	استحسان کو ترجیح	استحسان فاسد الظاہر صحیح الباطن	//	//
۹	//	استحسان صحیح الباطن والظاہر	//	قياس صحیح الظاہر فاسد الباطن
۱۰	قياس کو ترجیح	استحسان فاسد الباطن والظاہر	//	//
۱۱	//	استحسان صحیح الظاہر فاسد الباطن	//	//
۱۲	استحسان کو ترجیح	استحسان فاسد الظاہر صحیح الباطن	//	//
۱۳	//	استحسان صحیح الباطن والظاہر	//	قياس فاسد الظاہر صحیح الباطن
۱۴	قياس کو ترجیح	استحسان فاسد الباطن والظاہر	//	//
۱۵	//	استحسان صحیح الظاہر فاسد الباطن	//	//
۱۶	//	استحسان فاسد الظاہر صحیح الباطن	//	//

(تخصیص حاشیہ حسن چپی برتو پنج وتلویع ۳۹۳-۳۹۲)

صحت و فساد کے اعتبار سے بھی قیاسی راجح مسائل کی تعداد استحسانی راجح مسائل کے مقابلہ میں بہت اقل قلیل ہے، عموماً استحسان کی ترجیح کے ہی مسائل پائے جاتے ہیں۔ انہا مذکور مثالیں قیاس کی ترجیح کی ملتی ہیں، مثلاً رکوع سے سجدہ تلاوت کی ادائیگی کا مسئلہ (پوری صورت مسئلہ آگے مثالوں میں دیکھیں) زیادہ تراہل اصول اسی مثال کو پیش کرتے ہیں۔

صاحب ”کشف الاسرار“ علامہ عبدالعزیز بن حنفی نے راجح قیاسی مسائل کی تعداد کی لکھی ہے۔ علامہ طحطاوی نے ”حاشیہ مراثی الفلاح“ میں دس مسائل کو شمار کرایا ہے، اور یہ کہہ دیا ہے کہ اس عدد میں حصہ نہیں، اس سے زیادہ مسائل بھی ہو سکتے ہیں۔

## استحسان کی ترجیح کی مثالیں

(۱) سباع طور کے جھوٹے کا مسئلہ :

از روئے قیاس پھاڑ کھانے والے پرندوں کا جھوٹا ناپاک ہے اس لئے کہ یہ ایک درندے

کا جھوٹا ہے، تو جس طرح درندے چوپا یوں کا جھوٹا ناپاک ہے، یہی حکم درندے پرندوں کا بھی ہونا چاہئے، اور اس مسئلہ میں احسان یہ ہے کہ ایسے پرندوں کا جھوٹا پاک مگر مکروہ ہے، کیوں کہ درندے نجس لعین نہیں ہیں، ان میں نجاست محض گوشت کے حرام ہونے کی وجہ سے ہے، لہذا پانی کی نجاست کا حکم بھی اسی جگہ لگایا جائے گا، جہاں پانی سے (ان کے گوشت سے پیدا شدہ) لعاب اور رطوبت کا مترادف پایا جائے۔ اور پھاڑ کھانے والے پرندوں میں یہ امترادف نہیں پایا جاتا، اس لئے کہ وہ اپنی چونچ سے پانی لے کر حلق میں ڈالتے ہیں، اور انکی چونچ ایک پاک ہڈی ہے، اس کے پانی میں پڑنے سے پانی ناپاک نہ کہا جائے گا، البتہ کراہت اس معنی کہ باقی رہے گی کہ عموماً ایسے جانوروں کی چونچ میں خارجی نجاست لگی رہتی ہے۔ اس مسئلہ میں قیاس کی دلیل اگرچہ ظاہری نظر میں بہت مضبوط ہے لیکن علت کی تاثیر کے اعتبار سے احسان کی دلیل کے مقابلہ میں کمزور پڑ گئی ہے، لہذا زیر بحث مسئلہ میں احسان کو ترجیح دی جائے گی۔ (اور قوت وضعف کے اعتبار سے مقررہ چونچی قسم کی یہ مثال بنے گی)۔ (التوثیق والتلویح ۳۹۲، کشف الاسرار ۷-۶)

## (۲) سواری پر نمازِ جنازہ کا مسئلہ :

سواری پر چلتے ہوئے نمازِ جنازہ کے متعلق اگر قیاس پر نظر رکھی جائے تو معلوم ہوگا کہ نمازِ جنازہ سواری پر جائز ہونی چاہئے، اس لئے کہ وہ دراصل نمازوں میں بلکہ دعاء ہے، اور دعا ہر حالت میں جائز ہے، اس کے لئے سواری پاپیدل کی کوئی قید نہیں ہے۔ اس کے برخلاف احسان کا تقاضہ یہ ہے کہ سواری کی حالت میں نمازِ جنازہ جائز نہ ہو، اس لئے کہ تکبیر تحریکہ وغیرہ پائے جانے کی وجہ سے اس کی حیثیت نماز کی سی ہے، لہذا اس پر فرض نماز کے احکامات جاری کرنے چاہئیں، اور بلا عندر سوای پر نمازِ جنازہ پڑھنے کی اجازت نہ ہونی چاہئے۔ اس مسئلہ میں بھی احسان کی دلیل قیاس کے مقابلہ میں قوی ہے، لہذا احسان ہی کو ترجیح دی گئی ہے۔

ولم تجز الجنائز را کباً استحساناً والقياس هلها أن يجوز را کباً لأنه ليس  
بصلة لعدم الأركان بل هو دعاء، الاستحسان أنها صلاة من وجهٍ لوجود

### (۳) تمام مال صدقہ کر دینے کی وجہ سے زکوٰۃ کا سقوط :

اگر کسی شخص پر زکوٰۃ واجب تھی پھر اس نے زکوٰۃ کی نیت کے بغیر سارا مال صدقہ کر دیا، تو اس سلسلہ میں قیاس کا تقاضہ یہ ہے کہ زکوٰۃ ادا نہ سمجھی جائے اور اس پر ادائیگی کا فرض بدستور باقی رہے، کیوں کہ صدقہ نفل اور فرض دونوں الگ الگ مشروع ہیں، ان میں امتیاز کے لئے فرض کی نیت متعین طور پر کرنا ضروری ہے، جو یہاں نہیں پائی گئی، امام زفر کی رائے بھی ہے۔ جب کہ استحسان کا نظریہ یہ ہے کہ سارا مال صدقہ کر دینے کی وجہ سے اس پر زکوٰۃ کی ادائیگی کا حکم ساقط ہو جاتا ہے، اس لئے کہ تعین کی ضرورت وہاں پڑتی ہے جہاں کوئی چیز متعین کئے بغیر متعین نہ ہو سکے، یہاں ایسا نہیں ہے بلکہ کل مال کا ایک حصہ ہی یہاں واجب تھا جو یقینی طور پر صدقہ کر دیا گیا، اب کچھ بچا ہی نہیں کہ اسے متعین کیا جاسکے، اس لئے بلا تعین بھی زکوٰۃ ادا سمجھی جائے گی۔ اس کی مثال ایسی ہے جیسے رمضان میں مطلق صوم کی نیت سے فرض روزہ ادا سمجھا جاتا ہے یہاں استحسان کی علت قوی اور اس کی تاثیر مضمبوط ہے، لہذا استحسان ہی کوتربیح دی گئی ہے۔

قال فی العناية: وقوله من تصدق بجميع ماله لاينوى الزكوة أى غير ناولها سقط عنه فرضها استحساناً، والقياس أن لايسقط قيل وهو قول زفر لأن النفل والفرض كلاهما مشروعان فلا بد من التعين كمافي الصلة. وجه الاستحسان ما ذكره أن الواجب جزء منه أى من جميع ماله وهو ربع العشر فكان متعيناً فيه أى في الجميع والمتعين لا يحتاج إلى التعين. (عنایہ ۱۷۰۱۲)

### ثمرین: ۳۸

- الف: پہلی مثال سے متعلق فقہی عبارتیں کاپی میں نقل کریں۔
- ب: استحسان کی ترجیح کی کم از کم ۵ مثالیں تحریر کریں۔

## راجح قیاسی مسائل

کتب فقہ سے تلاش بسیار کے بعد جو قیاسی راجح مسائل مل سکے وہ ذیل میں درج کئے جا رہے ہیں۔

### (۱) سجدہ تلاوت کی رکوع کے ذریعہ ادائیگی :

نماز کے دوران اگر کوئی شخص سجدہ تلاوت کی جگہ رکوع تلاوت کر لے تو قیاس کا تقاضہ یہ ہے کہ سجدہ تلاوت رکوع سے بھی ادا ہو جائے گا، کیوں کہ رکوع بھی سجدہ کی طرح تعظیم پر دال ہے۔ اور وَخَرَّ رَأِكِعًا کی نص سے بھی رکوع اور سجدہ کا حکم ایک ہونا معلوم ہوتا ہے۔ (۱) قیاس کے اس حکم میں ایک ظاہری فساد یہ پایا جاتا ہے کہ اس میں حقیقت یعنی سجدہ پر عمل ممکن ہونے کے باوجود مجاز یعنی رکوع سے سجدہ تلاوت کی صحت کا حکم دیا گیا ہے، اس کے برخلاف احسان کی نظر میں سجدہ تلاوت رکوع سے ادا نہ ہونا چاہئے، اس لئے کہ یہ امر شارع کے خلاف ہے، تو جس طرح نماز کا رکن سجدہ رکوع کے ذریعہ ادا نہیں ہوتا اسی طرح سجدہ تلاوت بھی رکوع سے درست نہ ہو گا احسان کی یہ دلیل بالکل ظاہر ہے۔ مگر اس میں ایک اندر ورنی نقش یہ پایا جا رہا ہے کہ اس میں سجدہ تلاوت کے اصل مقصد یعنی اظہارِ تعظیم (جس کا تحقق رکوع اور سجدہ دونوں صورتوں میں ہوتا ہے) سے صرف نظر کر لیا گیا ہے۔ لہذا اس احسان کو جو ”صحیح الظاہر اور فاسد الباطن“ ہے، اس قیاس جلی کے مقابلہ میں ترک کر دیا گیا ہے، جو فاسد الظاہر اور صحیح الباطن ہے۔ (یہ صحت و فساد سے متعلق صورت نمبر ۱۵ کی مثال بنے گی، زیادہ تر قیاس کو ترجیح اسی بنیاد پر ہوتی ہے)

**کس سجدہ التلاوة تؤدی بالرکوع قیاساً لأنه تعالى جعل الرکوع مقام السجدة**  
**فی قوله: ”وَخَرَّ رَأِكِعًا“ لا استحساناً، لأن الشرع أمر بالسجود فلا تؤدی بالرکوع**  
**کس سجود الصلاة، فعملنا بالصحة الباطنة في القياس وهي أن السجود غير مقصود**

(۱) قیاس کے حکم کی تائید اس مسئلہ میں حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ اور حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ کے اثر سے بھی ہوتی ہے، جس میں انہوں نے سجدہ تلاوت کی جگہ نماز میں رکوع کی اجازت دی ہے۔ (لطاوی علی المراتی ۲۶۵)

هُنَّا، وَإِنَّمَا الْغَرْضُ مَا يَصْلُحُ تواصِعًا مُخَالَفَةً لِلْمُتَكَبِّرِينَ۔ (التوضيح والتلويح ۳۹۴، كشف

الاسرار على اصول البزدوى ۷۱۴-۸، مراقي الفلاح مع الطحططاوى ۲۶۷، البحر الرائق ۱۲۲/۲)

## (۲) مسلم فيه کی مقدار کے بارے میں اختلاف :

اگر رب اسلام اور مسلم الیہ کے درمیان مسلم نیہ کپڑے کی مقدار کے بارے میں اختلاف ہو جائے تو قیاس کا تقاضا یہ ہے کہ دونوں کو منکر قرار دے کر ہر ایک سے قسم لی جائے، اس لئے کہ یہ اختلاف، عقد کے نتیجہ میں ملنے والے استحقاق کی مقدار کے بارے میں ہو رہا ہے، اور ہر ایک دوسرے کے خلاف استحقاقِ ثمن یا استحقاقِ بیع کا دعویٰ کر رہا ہے، اور دوسرے کے دعویٰ کا انکار کر رہا ہے۔ مگر استحسان کا تقاضا یہ ہے کہ کپڑے میں گزوں کی مقدار کو فقہاء نے چوں کہ وصف کے درجہ میں رکھا ہے، جس کے مقابلہ میں قیمت کا کوئی حصہ نہیں ہوتا، لہذا مسلم نیہ کپڑے میں گزوں کے اختلاف کی صورت میں مدعی رب اسلام ہوگا کہ اس صفت کا کپڑا عقد میں طے ہوا تھا، اور صرف مسلم الیہ منکر ہوگا، وہ رب اسلام پر کچھ دعویٰ نہیں کرے گا کہ رب اسلام کو بھی منکر قرار دیں۔ اس مسئلہ میں قیاس قوی ہے بایس معنی کہ بیع سلم میں اوصاف بھی اصل کے درجہ میں آ جاتے ہیں، اس لئے اس میں اوصاف کو اصل مان کر مسلم الیہ کو ایک خاص مقدار کا مدعی مان لیا جائے گا، اسی قوت کی بنابر مسئلہ میں قیاسی حکم کو ترجیح دی گئی ہے۔

وَمِنْهَا مَا إِذَا وَقَعَ الْخِتَالُفُ بَيْنَ الْمُسْلِمِ إِلَيْهِ وَرَبِّ السَّلْمِ فِي ذِرْعَانِ الْمُسْلِمِ  
فِيهِ فِي الْقِيَاسِ يَتَحَالَّفُانِ وَبِهِ نَأْخُذُ، وَفِي الْإِسْتِحْسَانِ القُولُ الْمُسْلِمُ إِلَيْهِ، وَجَهُ  
الْإِسْتِحْسَانُ أَنَّ الْمُسْلِمَ فِيهِ مَبِيعٌ، فَالْخِتَالُفُ فِي ذِرْعَانِهِ لَا يَكُونُ اخْتِلَافًا فِي أَصْلِهِ  
بَلْ فِي صَفْتِهِ مِنْ حِيثِ الطُّولِ وَالسُّعَةِ، وَذَلِكَ لَا يَوْجِبُ التَّحَالُفَ كَالْخِتَالُفِ فِي  
ذِرْعَانِ الشُّوبِ الْمَبِيعِ بَعْنِيهِ. وَجَهُ الْقِيَاسِ أَنَّهُمَا اخْتِلَافٌ فِي الْمُسْتَحْقِقِ بِهِذَا السَّلْمِ  
وَذَلِكَ يَوْجِبُ التَّحَالُفَ، ثُمَّ أَثْرُ الْقِيَاسِ مَسْتَرٌ وَلَكِنَّهُ قَوِيٌّ مِنْ حِيثِ أَنَّ عَقْدَ السَّلْمِ  
إِنَّمَا يُعْقَدُ بِالْأَوْصَافِ الْمَذْكُورَةِ لَا بِالإِشَارَةِ إِلَى الْمَعْنَى وَكَانَ الْمَوْصُوفُ بِأَنَّهُ

خمس في سبع غير الموصوف بأنَّه أربع في ست فبهذا يتبيَّن أنَّ الاختلاف هُل هنا في أصل المستحق بالعقد وذلِك يوجِب التحالف فلذلِك أخذنا بالقياس.

(كشف الأسرار ۱۱۴، توضيح تلویح ۳۹۴، طحطاوى ۲۶۷، هندیہ ۱۹۱۳)

### (۳) سجدہ کی آیت کا دور کعتوں میں تکرار :

اگر کوئی شخص نماز کی دور کعتوں میں سجدہ کی آیت مکرر پڑھے، یعنی ایک مرتبہ ایک رکعت میں پڑھنے کے بعد پھر وہی آیت دوسری رکعت میں بھی پڑھے تو ازروئے استحسان اس پر دو سجدے واجب ہوں گے، یہی امام محمد کامدہب اور امام ابو یوسفؒ کا قول اول ہے۔ جب کہ قیاس کا تقاضا یہ ہے کہ ایک سجدہ تلاوت، ہی دونوں مرتبہ پڑھنے کے لئے کافی ہو جائے گا، یہ امام ابو یوسفؒ کا آخری قول ہے، اور اسی پر فتویٰ ہے، کیوں کہ پوری نماز ایک مجلس کے حکم میں ہے۔

إِذَا كَانَ كَرْرَهَا فِي رَكْعَتَيْنِ فَالْقِيَاسُ أَنْ تَكْفِيهِ وَاحِدَةٌ وَهُوَ قَوْلُ أَبْيَيْ يُوسُفِ  
الْأَخْرُ وَفِي الْإِسْتِحْسَانِ أَنْ يَلْزَمَهُ لِكُلِّ سُجْدَةٍ تَلَاقُهُ وَهُوَ قَوْلُ أَبْيَيْ يُوسُفِ الْأَوَّلِ  
قَوْلُ مُحَمَّدٍ وَهَذِهِ مِنَ الْمَسَائِلِ الْثَلَاثُ الَّتِي رَجَعَ فِيهَا أَبْيَيْ يُوسُفُ مِنَ الْإِسْتِحْسَانِ إِلَى  
الْقِيَاسِ (بح) وَقَالَ فِي الْخَانِيَةِ وَبِالْقِيَاسِ نَأْخُذُ. (البحر الرائق ۱۲۵۱۲، کشف الأسرار ۱۱۴)

### (۴) مهر مثل کے عوض رہن شدہ چیز کیا متعہ کی جگہ بھی رہن بن سکتی ہے؟ :

اگر کسی شخص نے اپنے اوپر واجب مهر مثل کے عوض میں بیوی کے پاس کوئی چیز بطور رہن رکھوادی، اس کے بعد خلوت صحیح سے قبل دونوں کے مابین تفریق یا طلاق کی نوبت آگئی تو یہ شیءِ مرہون کیا متعہ مثل کے عوض بھی رہن قرار پائے گی یا نہیں؟ اس سلسلہ میں استحسانی حکم یہ ہے کہ متعہ کے مقابلہ میں بھی یہ شیءِ مرہون رہے گی، یہی امام محمد کامدہب ہے۔ جب کہ ازروئے قیاس اسے متعہ کے مقابلہ میں رہن نہیں بنایا جائے گا، یہی امام ابو یوسفؒ کا قول ہے، اور اسی پر فتویٰ دیا گیا ہے۔ إن الرهن بمهر المثل

لایکون رہناً بالمتعة قیاساً وہو قول أبي یوسفُ الأَخِیر وبالقياس نأخذ وفي الاستحسان

أن يكون رهناً بها وهو قوله الأول وقول محمدٌ. (البحر الرائق ۱۲۵/۲، كشف الاسرار ۱۱۴)

### (۵) مباشرت فاحشہ سے تقضی وضو :

اگر کسی نے برہنہ ہو کر اپنی بیوی سے مباشرت فاحشہ کی تو استحساناً اس پر وضو لازم ہے، گوکہ مذی نہ نکلی ہو، (یہ تین خین کا قول ہے) لیکن قیاس کا تقاضا یہ ہے کہ جب تک مذی نہ نکلے اس وقت تک اس پر وضو ضروری نہ قرار دیا جائے، فتویٰ اسی قیاسی حکم پر ہے جو امام محمدؐ کا قول ہے۔ وإذا باشر إمرأته مباشرة بتجرد وانتشار الله وملاقاة الفرج بالفرج ففيه الوضوء في قول أبي حنيفة وأبى یوسفُ استحساناً وفي شرح الطحاوى وإن لم يخرج المذى وقال محمدٌ لا وضوء عليه وهو القياس وفي النصاب هو الصحيح وفي

الینابیع وعليه الفتوى. (تاتارخانیہ ۱۴۴۱، هندیہ ۱۳۱)

### (۶) زمین کے غاصب پر ضمان :

اگر کوئی شخص کسی کی زمین غصب کر لے اور پھر زمین کسی وجہ سے بر باد ہو جائے تو ازروئے استحسان غاصب پر ضمان ہوگا یہی امام محمدؐ کا مذهب اور امام ابو یوسفؐ کا قول اول ہے۔ لیکن قیاساً زمین کے غصب کی صورت میں غاصب پر ضمان نہیں ہے، یہ امام ابو یوسفؐ کا آخری قول اور امام ابو حنیفہؓ کا مشہور مذهب ہے اور اسی پر فتویٰ ہے۔ غاصب العقار ضامن فی الاستحسان وہو قول محمدٌ وفی القياس ليس بضامن وهو قول أبي یوسفؐ، فأبويوسفؐ رجع فی هذه المسائل من الاستحسان إلی القياس لقوته. (کشف الاسرار ۱۱۴)

وإذا غصب عقاراً فهلك في يده لم يضمنه وهذا عند أبي حنيفة وأبى یوسفؐ،  
وقال محمدٌ يضمنه وهو قول أبي یوسفؐ الأول. (هدایہ ۳۵۷/۳ - ۳۵۸)

### (۷) پڑوسی کسے کہیں گے؟ :

پڑوس کا اطلاق استحساناً ان تمام اہل محلہ پر کیا جاتا ہے جو محلہ کی مسجد میں آ جاتے ہوں، یعنی

ایک مسجد کے حلقہ میں جو لوگ رہتے ہوں وہ آپس میں پڑوسی ہوں گے۔ اسی بنا پر حضرات صاحبین نے فرمایا کہ اگر کسی شخص نے پڑوسیوں کے لئے کوئی وصیت کی تو یہ سب محلہ والے اس میں شریک ہوں گے، جب کہ قیاس کا تقاضا یہ ہے کہ پڑوسی کا اطلاق صرف ان لوگوں پر کیا جائے جن کا گھر اس وصیت کرنے والے شخص کے گھر سے ملا ہوا ہو، اور ایسی وصیت کے مستحق بھی صرف قریبی پڑوسی ہوں گے، یہ امام ابوحنیفہ گاندھب ہے اور یہی مفتی ہے۔ جارہ من لصق به وقالا من یسكن فی محلته و یجمعهم مسجد المحلة و هو الاستحسان۔ (در مختار) و فی رد المحتار: والصحیح قول الإمام کذا أفاده فی الدر المنتقی و صرح به العلامة قاسم وهو القياس كما فی الهدایة فهو مما رجح فیه القياس علی الاستحسان۔

(شامی کراچی ۶۸۲۱۶، شامی زکریا ۰۴۸۳)

## (۸) جنایتِ عبد کے متعلق ایک مسئلہ :

اگر کسی شخص کے غلام نے کسی آزاد شخص کو غلطی سے زخمی کر دیا، تو اسی صورت میں موالی کو اختیار ملتا ہے کہ یا تو زخمی غلام کو دے دے یا جنایت کا ارش اور تاو ان اسے ادا کر دے۔ اب زخمی کے مطالبه پر موالی نے غلام اپنے پاس رکھ کر (قضاء قاضی کے بغیر) تاو ان کی ادائیگی پر رضا مندی ظاہر کر دی، گویا کہ فدیہ دینے کو اختیار کر لیا، اس کے بعد وہ زخمی اسی سابقہ زخم کے عود آنے کی بنا پر مر گیا، تو اب سوال یہ ہے کہ موالی کو دوبارہ غلام دینے یا تاو ان دینے کے درمیان اختیار ملے گا، یا سابقہ اختیار کو دیکھتے ہوئے براہ راست دیت کا فیصلہ کر دیا جائے گا۔ تو اس بارے میں احسان کا تقاضا یہ ہے کہ اسے از سر نو اختیار دیا جائے، کیوں کہ محض زخم پر ارش دینے کی رضا مندی پوری دیت کی ادائیگی پر رضا مندی نہیں سمجھی جائے گی، مگر قیاس کا تقاضا یہ ہے کہ جب اس نے پہلے فدیہ کو اختیار کر لیا تو اب اسے دیت کے علاوہ کوئی اختیار نہ دیا جائے، اس لئے کہ بغیر کسی دباؤ کے (قضاء قاضی کے بغیر) اس نے دور استوں میں سے ایک راستہ اپنایا تو وہی پرانا اختیار اب بھی باقی رکھا جائے گا۔ اسی قیاس پر امام ابو یوسف کا آخری قول ہے، اور امام ابو یوسف کا پہلا قول اور امام محمدؐ کی رائے احسان کے موافق ہے، مگر فتویٰ قیاس پر دیا جاتا ہے۔ وَإِذَا جَرَحَ الْعَبْدُ رَجَّاً

فخوصم فيه المولى فاختار العبد وأعطى الإرث ثم انتقضت الجراحة ومات المجروح فالقياس فيه أن يكون المولى مختاراً للهداية وهو قول أبي يوسف الآخر، وفي الاستحسان يخير المولى خياراً مستقبلاً وهو قول أبي يوسف الأول وهو قول محمد، ورجع أبو يوسف من الاستحسان إلى القياس الخ..... ثم قال: إلا أنه روى عن أبي يوسف أنه فرق بين ما إذا أعطى الإرث بغير قضاء وبين ما إذا أعطاه بقضاء القاضى قال إذا أعطاه بقضاء القاضى فإن المجروح يخير خياراً مستقبلاً بخلاف ما إذا أعطاه بغير قضاء القاضى فإن ذلك اختيار منه للدية طوعاً.

(كذا في المبسوط للسرخسى ۱۲۷، ۳۵-۳۶، ومثله في كشف الأسرار ۱۱۴)

**تنبيه:** اس مسئلہ کو قلن کرنے میں صاحب بحر علامہ ابن نجیمؒ تو سہو ہو گیا، اور انہوں نے استحسان کو قیاس اور قیاس کو استحسان کے عنوان سے نقل کر دیا ہے۔ (دیکھئے البح الرائق ۱۲۵/۲) پھر تکملہ بحر ۳۶/۸ میں بھی اسی طرح مسئلہ لکھا گیا۔ واللہ اعلم۔

## (۹) آبادی میں واقع مکان کو توڑنے کا حکم :

اگر کسی شخص کا مکان آبادی میں واقع ہو، اور وہ اسے توڑ کر خراب کرنا چاہے تو استحسان کی رو سے اس حرکت کی اجازت نہ ہوئی چاہئے، کیون کہ بنی بنائی چیز کو بگاڑنا اچھا نہیں، اگر اس کے مطلب کی نہ ہو تو فروخت کر دے، لیکن قیاس کا تقاضا یہ ہے کہ اسے اپنے مکان کو توڑنے کی اجازت ہوئی چاہئے، اس لئے کہ وہ اس کی ذاتی ملکیت ہے، وہ جیسا چاہے اس میں تصرف کر سکتا ہے، اسی قول پر فتویٰ دیا گیا ہے۔ ولو کانت له دار فى محلة عامرة فأراد أن يخر بها فالقياس أن له ذلك وأفتى الكرخي بالمنع واستحساناً وقال الصدر الشهيد

الفتویٰ الیوم على القياس. (البحر الرائق ۳۲/۷)

## (۱۰) ایک شیٰ مر ہوں پر دو مر ہنوں کا دعویٰ :

کسی معین شیٰ مر ہوں کے بارے میں دو مر ہنوں نے ایک ساتھ راہن پر دعویٰ کیا کہ یہ

چیز آپ نے میرے پاس ایک ہزار روپیہ قرض کے بدلہ میں رکھوائی تھی اور میں نے اس پر قبضہ بھی کر لیا تھا، پھر آپ نے اسے عاریت یا غصب یا چوری کے بطور مجھ سے واپس لے لیا اور اپنے قبضہ میں کر لیا ہے، ان دونوں مرتبہوں نے اپنے قبضہ پر بینہ بھی پیش کر دیا (اور اس کا کوئی علم نہیں کہ رہن کا واقعہ کس کا پہلے ہے اور کس کا بعد میں؟) تو استحسان کا تقاضا یہ ہے کہ یہ شی مرحون دونوں مرتبہوں کے قبضہ میں دے دی جائے، تاکہ کسی نہ کسی حد تک دونوں کے بینہ پر عمل درآمد ہو سکے۔ مگر قیاس کی رو سے ان دونوں کے بینہ کو رد کر دیا جائے گا، اس لئے کہ ہر ایک کا بینہ اسی کے لئے پوری شی کو مرحون بنانے کا اثبات کرتا ہے، اور اس پر عمل کرنا مفروضہ صورت میں ممکن نہیں، الہذا ”رد“ کے علاوہ کوئی چارہ نہیں۔ امام محمدؐ نے فرمایا کہ وبالقياس نأخذ اور اسی پر فتویٰ متعین ہے، ذے کیوں کہ یہاں استحسانی حکم، بینہ کے مقضی کے خلاف ہونے کی وجہ سے کمزور ہے اور قیاسی حکم، باطنی اعتبار سے قوی ہے۔ منها ما إذا إدعى الرهن الواحد رجلان كل واحدٍ منها يقول رهنتني بـالـفـ وـقـبـضـتـهـ وـيـقـيمـ الـبـيـنـةـ فـيـ الـاستـحـسـانـ يـقـتـضـيـ بـأـنـهـ مـرـهـونـ عـنـدـهـمـاـ وـيـجـعـلـ كـأـنـهـمـاـ اـرـتـهـنـهـمـاـ مـعـاـ لـجـهـالـةـ التـارـيـخـ كـمـاـ فـيـ الغـرـقـيـ وـالـهـدـمـيـ وـكـمـاـ لـوـ اـدـعـيـاـ الشـرـاءـ وـفـيـ الـقـيـاسـ تـبـطـلـ الـبـيـنـتـانـ لـتـعـذرـ القـضـاءـ بـالـكـلـ لـكـلـ وـاحـدـ منـهـمـاـ الـخـ. وـأـخـذـنـاـ بـالـقـيـاسـ لـقـوـةـ أـثـرـ الـبـاطـنـ. (کشف الاسرار ۱۰۱۴) قال في الهدایة بحثاً: وما ذكرناه وإن كان قیاساً لكن محمدًا أخذ به لقوته. (هدایہ ۵۲۰۱۴) وفي الكفاية: ووجه الاستحسان ضعيف لأن ذلك

عمل على خلاف ما قامت به البينة. (نقلًا عن حاشية الهدایة ۵۲۰۱۴)

## (۱۱) مستاً من کی وکالت کب تک باقی رہے گی؟ :

اگر کسی حرbi مستاً من مدعی علیہ نے دارالاسلام میں اپنا مقدمہ لڑنے کے لئے دوسرے مستاً من کو کیل بنا دیا، پھر موکل دارالحرب واپس لوٹ گیا، اور اس کا کیل دارالاسلام میں رہ گیا، تو استحسانًا اس کی وکالت باقی رہتی ہے، اس لئے کہ دونوں فریقوں کے درمیان برابری کا تقاضا

یہی ہے۔ لیکن قیاس کی رو سے مدعایہ حرbi کا یہ وکیل مؤکل کے دارالحرب چلے جانے کی وجہ سے وکالت سے خود بخوبی معزول ہو جائے گا، اس لئے کہ مقدمہ کا فائدہ اسی وقت ہوتا ہے جب کہ قاضی اصل ملزم (وکیل نہیں) کے خلاف فیصلہ کرنے کی قدرت رکھتا ہو، اور یہاں زیر بحث مسئلہ میں مؤکل کے چلے جانے کی وجہ سے وہ اس کے خلاف فیصلہ نہ کر سکے گا، لہذا مقدمہ چنان ہی بیکار ہے، اس لئے وکالت کو باطل قرار دے دیا جائے گا۔ قیاس کی دلیل مضبوط ہونے کی بنا پر اس مسئلہ میں بھی قیاس کو استحسان پر ترجیح دی گئی ہے۔ وكل المستأمن مستأمناً بخصوصة ثم لحق المؤکل بدارالحرب وبقى الوکيل يخاصم فإن كان الوکيل هو الذى يدعى للحربى الحق قبلت الخصومة فيه لما بینا وإن كان الحربى هو المدعي عليه ففى الاستحسان كذلك اعتباراً لأحد الجانبين بالأخر وتحقيقاً للتسوية بين الخصميين وفي القياس تنقطع الوکالة حين يلحق بالدار وبالقياس نأخذ لأن المقصود من الخصومة القضاء وإنما توجه القاضى للقضاء على المؤکل دون الوکيل۔ (المبسوط للسرخسی ۱۳۸۱۹، ومثله في الطھطاوی ۲۶۷)

## (۱۲) تعلیق طلاق کا ایک مسئلہ :

اگر کسی شخص نے بیوی سے کہا ان ولدت ولداً فائت طلاق۔ اگر تو نے بچہ جنمات تو تجھے طلاق، اب کچھ دن کے بعد عورت دعویٰ کرتی ہے کہ میں نے بچہ جنم دیا (لہذا مجھ پر طلاق واقع ہو چکی ہے) اور شوہراس کے دعویٰ کی تکذیب کر رہا ہے، تو استحساناً اگر ”دائی“ بچہ جنم کی گواہی دے دے تو بیوی پر طلاق واقع ہو جانی چاہئے، یہی حضرات صاحبین کا مذہب ہے۔ اور قیاس کا تقاضا یہ ہے کہ اگر عورت کا حمل ظاہر نہ رہا ہو، اور نہ پہلے کبھی شوہرنے اس حمل کا اپنے لئے اقرار کیا ہو تو محض ایک عورت (دائی) کی گواہی سے قضاۓ<sup>(۱)</sup> طلاق کا ثبوت نہیں ہو سکتا، اس لئے دو مرد یا ایک مرد اور ایک عورت (دائی) کی شرط اس مسئلہ میں اس لئے لگائی گئی ہے کہ اگر عورت اپنے کہنے میں بھی ہے تو پھر اس کا قول خود اس کے حق میں قبول ہو گا، اگرچہ مرد کے حق میں اس سے تسلیم نہ کیا جائے، اور یہاں المرأة کا القاضی کا القاعدہ جاری ہو گا۔ قال في الشامی: فالقول له أى إلا إذا لم يعلم وجوده إلا منها ففيه القول لها في حق نفسها۔ (شامی کراچی ۳۵۶۱۳، شامی زکریا ۶۰۹۱۴)

دوعروتوں کی گواہی یا شوہر کا خود اقرار ضروری ہے، یہ امام ابوحنیفہؓ کا مذہب ہے، اور اسی پر فتویٰ ہے۔  
 ولو قال لإمرأته إذا ولدت فأنت طالق فقالت ولدت وكذبها الزوج ولم يكن  
 الزوج أقر بالحبل ولا كان الحبل ظاهراً وشهدت القابلة على الولادة عند أبي  
 حنيفة رحمه الله تعالى لا يقضى بشهادة القابلة وعندهما يقضى بوقوع الطلاق  
 بشهادة القابلة كذا في شرح الجامع الصغير لقاضي خان في باب ما يثبت به  
 النسب وما لا يثبت. (عالمنگیری ۴۲۴۱)

منها إذا قال إن ولدت ولداً فأنت طالق وقالت قد ولدت وكذبها الزوج في  
 القياس أن لا تصدق ولا يقع عليها الطلاق وأخنوافيها بالقياس. (طحطاوى على المراقى ۲۶۷)

### (۱۳) شہود احصان کا رجوع :

اگر چار گواہوں نے کسی شخص کے خلاف زنا کی گواہی دی، اور دو آدمیوں نے اس کے شادی  
 شدہ (محسن) ہونے کی شہادت پیش کی، قاضی نے ان سب کی گواہیوں کو قبول کر کے اس شخص پر  
 حد رجم جاری کرنے کا فیصلہ کر دیا، اور سنگ ساری کی کارروائی شروع ہو گئی، مگر ابھی وہ شخص مرانہیں  
 تھا کہ اس پر شادی شدہ ہونے کی گواہی دینے والے گواہوں کا (غلام ہونے کی وجہ سے) نااہل ہونا  
 ثابت ہو گیا، یا ان دونوں نے اپنی گواہی سے رجوع کر لیا، تو سوال یہ ہے کہ اس شخص (مشہود علیہ)  
 پر حد زنا جاری ہو گی یا نہیں؟ استحسان کا تقاضا یہ ہے کہ شہرہ پیدا ہو جانے کی وجہ سے اس پر حد زنا ہر  
 طرح سے اٹھائی جائے گی۔ اور قیاس کا تقاضا یہ ہے کہ اصلاً زنا کا ثبوت چوں کہ چار گواہوں سے  
 ہو چکا ہے لہذا اس شخص پر ۱۰۰ روپے کی سزا بہر حال جاری ہو گی، یہی حضرات صاحبینؓ کا مذہب  
 ہے، اور اسی پر فتویٰ ہے۔ أربعة شهدوا على رجل بالزنا وشهد رجلان عليه  
 بالإحسان فقضى القاضى بالرجم ورجم ثم وجد شاهدا الإحسان عبدين أو  
 رجعا عن شهادتهم وقد جرحته الحجارة إلا أنه لم يتم بعد، فالقياس أن تقام  
 عليه مأة جلد و هو قول أبي يوسف و محمد وفي الاستحسان يدرأ عنه الجلد

وَمَا بَقِيَ مِنَ الرِّجْمِ۔ (التاتارخانیہ ۱۰۳۱۵، ومثُلُهُ فی الطَّحْطَاوی ۲۶۷، عالم گیری ۱۵۸۱۲)

## (۱۴) زنا کوڑے کی سزا کے بعد احسان کا ثبوت :

اگر زنا کا ثبوت ہو جانے پر قاضی نے ( مجرم کے بظاہر غیر محسن ہونے کی وجہ سے ) اس پر سوکوڑے لگانے کا حکم کیا، چنانچہ سوکوڑے لگادیئے گئے کہ اب دو گواہوں نے گواہی دی کہ وہ شخص محسن ہے ( لہذا اس پر رجم ہونا چاہئے ) تو احسانًا سے رجم نہیں کیا جائے گا، کیوں کہ بیک وقت دو حدود کو ایک شخص پر جمع کرنا لازم آئے گا۔ لیکن از روئے قیاس اس پر رجم کی حد جاری ہوگی، اس لئے کہ اصالۃ مشہود علیہ اسی حد کا مستحق ہے۔ اربعة شهدوا على رجل بالزنا ولم يشهد عليه أحدٌ بالإحسان فأمر القاضى بجلده ثم شهد شاهدان عليه بالإحسان بعد إكمال

الجلد فالقياس في هذا أن يرجم وفي الاستحسان لا يرجم۔ (التاتارخانیہ ۱۰۳۱۵)

**تنبیہ:** طھطاوی علی المراتی ۲۶۷ پر قیاسی راجح مسائل شمار کرتے ہوئے اس مسئلہ میں یہ قید لگائی ہے کہ سوکوڑے پورے لگنے سے قبل احسان کا ثبوت ہو جائے تو قیاساً رجم کا حکم ہو گا۔ ولم يكمل الجلد فالقياس في هذا الرجم۔ (الطھطاوی ۲۶۷) لیکن تاتارخانیہ میں لکھا ہے کہ اگر پورے کوڑے لگنے سے قبل احسان کا ثبوت ہو جائے تو پھر ایک ہی قول ہے کہ اس پر رجم کی سزا جاری ہوگی۔ چنانچہ لکھتے ہیں: وَهَذَا الَّذِي ذَكَرْنَا إِذَا أَكْمَلَ الْجَلْدَ فَإِمَّا إِذَا لَمْ يَكُمِّلْ حَتَّى شَهَدَ شَاهِدَانِ عَلَيْهِ بِالْإِحْسَانِ لَا يُمْنَعُ مِنْ إِقَامَةِ الرِّجْمِ وَلَمْ يُذَكَّرْ الْإِسْتِحْسَانُ هُنَّا۔ (التاتارخانیہ ۱۰۴۱۵) بظاہر تاتارخانیہ کی بات مضبوط معلوم ہوتی ہے، واللہ تعالیٰ اعلم۔

## (۱۵) متعدد لوگوں کا کنویں میں مردہ پایا جانا :

اگر کسی شخص نے عام راستہ میں ناحق کنوں کھو دیا، پھر اس کنویں میں تین آدمی ایک پر ایک گرے ہوئے مردہ پائے گئے، تو از روئے قیاس پہلے شخص کی دیت کنوں کھونے والے کے عاقله پر، دوسرے کی دیت پہلے گرنے والے کے عاقله پر اور تیسرا کی دیت دوسرے شخص کے عاقله پر ہوگی، اس لئے کہ بظاہر ایک دوسرے پر گرے ہوئے پائے جانے سے یہی معلوم ہوتا ہے

کہ گرتے وقت ایک کے دوسرے کو پکڑ لینے کے سبب یہ حادثہ پیش آیا ہے، یہ قیاس کا حکم امام محمدؒ کا اختیار فرمودہ ہے۔ اس کے برخلاف احسان کا تقاضا یہ ہے کہ پہلے شخص کی دیت کے تین حصے کر کے ایک حصہ کنوں کھونے والے اور ایک حصہ دوسرے گرنے والے پر لازم ہو اور ایک حصہ ہدر قرار دیا جائے، اور دوسرے کی دیت کے دو حصے کر کے ایک حصہ پہلے شخص پر ہو اور دوسرا حصہ ہدر قرار دیا جائے، اور تیسرے کی پوری دیت دوسرے شخص کے عاقله پر ہو، یہ احسان کا حکم حضرات شیخینؒ کی طرف منسوب ہے، لیکن فتویٰ حکم قیاس امام محمدؒ کے قول پر ہے۔ قال فی الخانیة: وإن كان بعضهم وقع على بعض في البیر ولم یعلم كيف كان حالهم ففی القياس وهو قول محمدؒ دیة الأول تكون على عاقلة الحافر ودیة الثاني على عاقلة الأول ودیة الثالث على عاقلة الثاني وذکر في الكتاب أن فيها قولًا آخر قيل ذلك قول أبي حنيفة وأبی يوسف رحمهما الله تعالى قالا دیة الأول تكون اثلاثاً ثلثها على الحافر وثلثها على الثاني وثلثها هدر ودیة الثاني نصفها هدر ونصفها على الأول ودیة الثالث كلها على الثاني۔ (فتاویٰ قاضی خاد ۴۶۲/۳)

**نوث:** اس مسئلہ کے بارے میں طحطاوی علی المرائق ۷۲ پر قدرے مختلف صورت نقل کی ہے، کہ قیاس اور احسان اس شکل میں ہے جب کہ گرنے والوں میں سے ایک نے دوسرے کو پکڑ لیا ہو، اور اس وجہ سے موت واقع ہوئی ہو، حالاں کہ فتاویٰ قاضی خاں میں اس صورت میں بالاتفاق ایک ہی حکم لکھا ہے، کہ پہلے کی دیت کنویں کے کھونے والے پر، دوسرے کی پہلے پر اور تیسرے کی دوسرے پر ہوگی۔ اور قیاس اور احسان کا اختلاف اس صورت میں نقل کیا ہے جب کہ صورت واقعہ کا صحیح علم نہ ہو، اور کنویں میں تین آدمی ایک دوسرے پر گرے ہوئے پائے جائیں، جیسا کہ ہم نے فتاویٰ قاضی خاں کی عبارت میں نقل کیا ہے، اس لئے یہاں طحطاوی کی بیان کردہ صورت مسئلہ محل نظر ہے، واللہ تعالیٰ اعلم۔

**(۱۶) آدھے مکاتب کی مولیٰ سخنیداری :**

اگر کسی شخص نے اپنے نصف غلام کو مکاتب بنادیا، پھر مولیٰ نے کوئی چیز اس نصف مکاتب

سے خریدی، تو یہ معاملہ صرف نصف حصہ میں جائز ہوگا، اس لئے کہ نصف حصہ مولیٰ ہی کے تصرف میں ہے، اور اگر مکاتب نے مولیٰ سے کوئی چیز خریدی تو احسان کا تقاضا یہ ہے کہ یہ معاملہ پوری شی میں صحیح ہونا چاہئے، اس لئے کہ یہ ایسا ہی ہے جیسا کہ غلام مولیٰ کے علاوہ کسی اور سے کوئی چیز خریدتا تو وہ جائز ہوتا۔ مگر قیاس کا مقتضی یہ ہے کہ مولیٰ سے غلام کی یہ خریداری بھی صرف نصف حصہ میں صحیح ہونی چاہئے، کیوں کہ نصف حصہ مطلق غلام ہونے کی وجہ سے اس کے بقدر مولیٰ سے معاملہ کا کوئی مطلب ہی نہیں ہے۔ اسی قیاسی حکم پر مبسوط میں فتویٰ کی صراحت کی گئی ہے، اور علامہ شامیؒ نے ”رد المحتار“ میں اسے قیاسی راجح مسائل میں شمار فرمایا ہے۔ ولو کاتب نصف عبدہ ثم اشتري السيد من المكاتب شيئاً جاز الشراء في النصف وإن اشتري المكاتب من مولاه عبداً ففي الاستحسان جاز شراءه في الكل كما لو اشتراه من غيره وفي القياس لا يجوز شراؤه إلا في النصف وفي القياس نأخذ كذا في المبسوط۔ (الهنديه ۱۰۵)

وذكر الشامي هذه المسئلة تحت عنوان ”مطلب القياس مقدم لهنا“۔ (رد المحتار)

(۱۱۰۶) شامي زکريا (۱۵۲۹)

## (۱۷) لکڑیاں چننے میں شرکت کا ایک مسئلہ :

جنگل سے لکڑیاں چننے میں دو آدمیوں کی شرکت کا معاملہ اصالۃؓ کو کہ فاسد ہے لیکن اگر اس پر عمل درآمد ہو تو پھر اس پر احکام شریعت مرتب ہوتے ہیں، انہی میں سے یہ مسئلہ بھی ہے کہ اگر دو آدمیوں نے شرکت کی کہ ہم دونوں جنگل سے لکڑیاں چنیں گے اور آمدنی آپس میں نصف انصاف تقسیم کر لیں گے۔ اب صورت یہ پیش آئی کہ لکڑیاں تو ان دونوں میں سے ایک نے جمع کیں لیکن دوسرے نے اس کی اعانت کی، مثلاً گھر بندھوا�ا، یا ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل کیا وغیرہ۔ تو اب احسان کا تقاضا یہ ہے کہ لکڑیاں تو صرف جمع کرنے والے کی ملکیت قرار دی جائیں اور اعانت کرنے والے کو اس کے عمل کی اجرت دی جائے۔ مگر اس کی مقدار لکڑیوں کی نصف قیمت سے زائد نہ ہو، اس لئے کہ نصف سے زائد قیمت کو وہ خود ہی نصف کی شرط لگا کر منع کر چکا ہے، یہ امام

ابو یوسفؐ کا اختیار کردہ مذہب ہے۔ اس کے بخلاف قیاس کا مقتضی یہ ہے کہ ساری لکڑیاں جمع کرنے والے کی ہوں، اور اعانت کرنے والے کو بھر پورا جرت دی جائے خواہ وہ لکڑیوں کی نصف قیمت سے بڑھ جائے، اس لئے کہ اگر پہلے شخص کو لکڑیاں نہ ملتیں پھر بھی اس کو اعانت پر اجرت ملتی، یہ امام محمدؐ کا قول ہے اور علماء نے اسی کو مختار قرار دیا ہے۔ اور علامہ شامیؐ نے اس مسئلہ کو بھی راجح قیاسی مسائل میں شمار کیا ہے۔ **وما حصله أحدهما بإعانة صاحبه فله ولصاحبه أجر مثله** مثلاً بالغًا ما بلغ، وعند أبي يوسف لا يجاوز به نصف ثمن ذلك قيل تقديمهم قول

محمدؐ يؤذن باختیاره۔ (الدر المختار ۳۲۵/۴، الدر المختار زکریا ۵۰۲/۶)

وفي الشامي: قوله يؤذن باختياره قال في العناية: وكذا تقديم أبي يوسف على دليل محمدؐ في المبسوط دليل على أنهم اختاروا قول محمدؐ - أي لأن الدليل المتأخر يتضمن الجواب عن الدليل المتقدم وهذه عادة صاحب الهدایة أيضاً أنه يؤخر دليل القول المختار وعبارة كافي الحكم تؤذن أيضاً باختيار قول محمدؐ حيث قال فله أجر مثله لا يجاوز نصف الثمن في قول أبي يوسف ، وقال محمدؐ له أجر مثله بالغاً مابلغ إلا ترى أنه لو أعانه عليه فلم يصب شيئاً كان له أجر مثله. ونقل طعن الحموي عن المفتاح أن قول محمدؐ هو المختار للفتوى وعن غایة البيان أن قول أبي يوسف استحسان - ثم ذكر بعده: مطلب يرجح القياس قلت: وعليه فهو من المسائل التي ترجح فيها القياس على الاستحسان. (شامی کراچی ۳۲۶/۴، شامی زکریا ۵۰۳/۶)

(۱۸) راستہ میں انتقال کر جانے والے حاجی کی طرف سے حج کہاں سے کیا جائے؟ :

اگر کسی حاجی کا سفر حج کے دوران راستہ میں انتقال ہو جائے اور وہ اپنی جانب سے (جگہ اور مال کی قید کے بغیر) مطلق حج کرنے کی وصیت کرے، تو استحسان یہ ہے کہ اسی جگہ سے حج کیا جائے جہاں اس کا انتقال ہوا تھا۔ اور قیاس کا تقاضا یہ ہے کہ مرنے والے کے وطن اصلی سے حج کیا

جائے، یہ امام ابوحنفیہ کا قول ہے۔ اور استحسان کا قول حضرات صاحبین کا مذهب ہے، متون میں امام صاحب کے مذهب کو راجح قرار دیا گیا ہے۔ اور علامہ قاسم نے بھی اس کی تصحیح کی ہے، مگر صاحب ہدایہ کے انداز سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ صاحبین کا قول ان کے نزدیک راجح ہے۔ حاصل یہ ہے کہ متون کے اعتبار سے یہ مسئلہ قیاس کے راجح مسائل میں سے شمار ہو سکتا ہے، علامہ شامی کی رائے یہی ہے۔ خرج المکلف إلى الحج و مات في الطريق وأوصى بالحج عنه الخ، فإن فسر المال أو المكان فالأمر عليه أى على ما فسره وإلا فيُحج عنـه من بلده قياساً لا استحساناً فليحفظ. (الدر المختار ۴/۶۰، در مختار زکریا ۲۳/۴) وفى الشامى: ”مطلب العمل على القياس دون الاستحسان هنا“. (قوله قياساً لا استحساناً) الاول قول الإمام والثانى قولهما واخر دليله فى الهدایة فيحتمل أنه مختار له لأن الماخوذ به فى عامة الصور الاستحسان ”عنایة“ وقواه فى المعراج لكن المتون على الأول وذكر تصحیحه العلامہ قاسم فی کتاب الوصایا فهو مما قدّم فیه القياس على الاستحسان وإليه أشار بقوله فليحفظ. (رد المختار ۲/۵۰، شامی زکریا ۲۳/۴)

## (۱۹) مسافر گھر واپس آکر روزہ توڑ دے تو کیا حکم ہے؟ :

اگر کوئی شخص سفر شرعی کے ارادہ سے گھر سے نکلے اور وہ روزہ دار ہو، پھر کچھ دیر بعد درمیان سفر سے واپس آکر روزہ توڑ دے تو اس پر صرف قضا لازم ہو گی یا کفارہ بھی ہو گا؟ استحسان کا تقاضا یہ ہے کہ چوں کہ وہ مسافر شرعی ہو گیا تھا الہذا ب روزہ توڑ دینے کی وجہ سے اس پر کفارہ نہ ہو گا۔ اور قیاس کا مقتضی یہ ہے کہ اس پر کفارہ بھی لازم ہو، کیوں کہ سفر درمیان میں چھوڑ کر وطن واپس آجائے کی وجہ سے وہ مقیم کے حکم میں ہو گیا ہے مسافرنہیں رہا ہے، اسی قیاسی قول پر فتویٰ ہے، اور علامہ شامی نے جموی کے حوالہ سے اس مسئلہ کو بھی راجح قیاسی مسائل کی فہرست میں شمار کیا ہے۔ إلا إذا دخل مصره لشيء نسييه فإنه يكفر (در مختار کراچی ۲/۴۳، در مختار زکریا ۳/۱۶۴) وتحتہ فی الشامیۃ تحت عنوان ”مطلب يقدم هنا القياس على الاستحسان“ قولہ: فإنہ

یکفر ای قیاساً لأنہ مقیم عند الأکل حیث رفض سفرہ بالعود إلى منزلہ وبالقياس نأخذ - خانیہ - فتزاد هذه على المسائل التي قدم فيها القياس على الاستحسان. حموی (شامی کراچی ۴۳۲۶، شامی زکریا ۱۷۱۳)

(۲۰) فتّم کھائی کہ دس روپیہ میں نہیں بیچوں گا، پھر نور روپیہ میں بیچ دیا  
اگر کسی شخص نے دوسرے سے کہا کہ یہ کپڑا تجھے دس روپیہ میں اس وقت تک نہ بیچوں گا جب تک تو قیمت میں اضافہ نہ کرے، اس کے بعد وہ نور روپیہ میں اسے کپڑا فروخت کر دے تو ازروئے استحسان وہ حانت ہو جائے گا، کیوں کہ اس کلام سے عرف میں مقصود یہ ہوتا ہے کہ دس سے کم میں نہ بیچوں گا۔ اور قیاس کا تقاضا یہ ہے کہ اسے حانت نہ قرار دیں، کیوں کہ تم اس نے دس پر نہ بیچنے کی کھائی تھی اور نور روپیہ پر بیچنا اس کے معارض نہیں ہے۔ ہشام نے امام ابو یوسفؓ نقل کیا ہے کہ ان کے نزدیک اس مسئلہ میں قیاس کا حکم راجح اور مختار ہے، اس اعتبار سے یہ مسئلہ بھی قیاسی حکم کی ترجیح کی مثال بن سکتا ہے۔ وروی هشام عن أبي یوسفؓ فی رجل قال والله لا يبعك هذا الثوب بعشرة، حتى تزيدني فباعه بتسعة لا يحتنث فی القياس، وفي الاستحسان يحتنث وبالقياس اخذ وجه القياس أن شرط حنته البيع بعشرة وما باع بعشرة بل بتسعة، وجه الاستحسان أن المراد من مثل هذا الكلام في العرف أن لا يبيعه إلا بأكثر من عشرة وقد باعه لا بأكثر من عشرة في حنته.

(بدائع الصنائع کراچی ۸۶۳، التاتار خانیہ ۸۳۴، عالمگیری ۱۳۲)

نوٹ: اس روایت کے خلاف امام محمدؐ کی روایت معلیٰ ابن منصورؓ کے واسطہ سے مردی ہے، جس سے استحسان کے قول کی ترجیح معلوم ہوتی ہے، والله اعلم۔

(۲۱) فتّم کھائی کہ درہم سے گوشت کے علاوہ کچھ نہ خریدوں گا:  
اگر کسی شخص نے قسم کھائی کہ میں اس درہم سے گوشت کے علاوہ اور کچھ نہ خریدوں گا، پھر اس نے آدھے درہم سے گوشت اور آدھے سے روٹی خریدی تو ازروئے قیاس وہ حانت نہ ہوگا، اس لئے

کہ حنث کی شرط یہ تھی کہ پورے درہم سے گوشت نہ خریدوں گا، اور یہاں یہ شرط نہیں پائی جا رہی، کیوں کہ اس نے پورے درہم سے گوشت نہیں خریدا، بلکہ اس کے بعض حصہ سے خریدا ہے۔ اس کے بخلاف احسان کا مقتضی یہ ہے کہ اسے حانث قرار دے دیا جائے، کیوں کہ عام عرف میں جب اس طرح کا کلام بولا جاتا ہے تو اس سے مقصود یہ ہوتا ہے کہ اس پورے درہم سے گوشت ہی خریدوں گا دوسری چیز نہ خریدوں گا، اب جب کہ اس نے اسی درہم سے روٹی بھی خریدی تو وہ حانث ہو جائے گا۔ یہ مسئلہ کی اصل نوعیت ہے، اس پر صاحب بدائع علماء کاسانی (المتوفی ۷۵۸ھ) نے ترجیح میں قدرے فرق کیا ہے: اس طرح کہ اگر لا اشتری بھلدا الدرهم غير لحم کے الفاظ بولے ہیں تو احسان کو ترجیح ہوگی۔ اور اگر لا اشتری بھلدا الدرهم إلا لحمًا کے الفاظ بولے ہیں تو قیاس کو ترجیح ہوگی، اسی معنی کے اعتبار سے یہ مسئلہ قیاس کی ترجیح کی مثال میں پیش کیا گیا ہے۔ قال والله لا اشترى بھلدا الدرهم غير لحمٍ فاشترى بنصفه لحمًا وبنصفه خبزاً يحنث استحساناً ولا يحنث فى القياس. وجه القياس أنه جعل شرط حنثه أن يشترى بجميع الدرهم غير اللحم وما اشترى بجميعه بل ببعضه فلم يوجد شرط الحنث فلا يحنث. ووجه الاستحسان أن مبني الأيمان على العادة، وعادة الناس أنهم يريدون بمثل هذا الكلام أن يشترى الحالف بجميع الدرهم اللحم ولم يشترى بجميعه اللحم فيحنث فإن كان يرى أن لا يشترى به كله غير اللحم لم يحنث ويدين فى القضاء لأنَّ يرى ظاهر كلامه فيصدق. ولو قال والله لا اشترى بھلدا الدرهم إلا لحمًا فلا يحنث حتى يشترى بالدرهم كله غير اللحم وهذا يؤيد وجه القياس فى المسئلة الأولى لأنَّ "إلا" و"غير" كلاهما من الفاظ الاستثناء وإنما نقول: قضية القياس لهذا فى المسئلة الأولى، إلا يرى أنه لو نرى أن يشترى به كله غير اللحم صدق فى القضاء إلا إنما ترکنا لهذا القياس هناك للعرف والعادة ولا عرف ههنا يخالف القياس فعمدنا للقياس فيه. (بدائع الصنائع ۴۰۱۳)

## (۲۲) دھلائی کامشترک کاروبار کرنے والوں پر ایک دعویٰ :

اگر دو دھوپی مشترک کاروبار کرتے تھے، ایک شخص نے دعویٰ کیا کہ ”یہ کپڑا جوان دونوں کے قبضہ میں ہے میرا ہے اور میں نے ان کو دھلائی کے لئے دیا ہے“، اس دعویٰ کے جواب میں ایک دھوپی تو مدعا کے لئے اقرار کر لے اور دوسرا دھوپی انکار کرتے ہوئے یہ کہہ کر وہ کپڑا میرا ہے، تو استحسان کی رو سے اقرار کرنے والے دھوپی کی تصدیق کی جائے گی اور پورا کپڑا مدعی کو دے کر اس سے اجرت لے لی جائے گی، جب کہ قیاس کا تقاضا یہ ہے کہ اقرار کرنے والے دھوپی کا اقرار صرف اسی کے لئے نافذ ہوگا، دوسرے دھوپی کے خلاف اس اقرار کا کوئی اثر نہ ہوگا۔ امام ابو یوسفؓ نے استحسان کا قول اختیار کیا ہے، اور امام محمدؐ نے قیاس کو اختیار فرمایا ہے دلیل اور قاعدہ کے اعتبار سے امام محمدؐ کی رائے با وزن معلوم ہوتی ہے۔ وَفِي الْمُنْتَقِيِّ: بَشَرٌ عَنْ أَبِيهِ يُوسُفَ فِي قَصَارِينَ شَرِيكِيْنَ طَلَبَ رَجُلٌ ثُوْبًا فِي أَيْدِيهِمَا أَنَّهُ دَفْعَهُ يَعْمَلُ لَهُ بِأَجْرٍ فَأَقْرَبَهُ أَحَدُهُمَا وَجَدَ الْأَخْرَ وَقَالَ هُوَ لِي فَالْمُقْرَنُ مِنْهُمَا يَصْدِقُ فِي ذَلِكَ فَيُدْفِعُ الثُّوبَ وَيَأْخُذُ الْأَجْرَ استحساناً والقیاس أن لا يصدق على شريكه، وروى عن محمدؐ أنه أخذ بالقياس، وقال محمدؐ ينفذ إقراره بالنصف الذي في يده خاصة۔ (التاتارخانیہ ۶۶۶/۱۵)

## (۲۳) تولیت وقف کا ایک مسئلہ :

اگر کسی مرجم شخص کے متعلق دعویٰ کیا گیا کہ وہ فلاں وقف جائداد کا واقف و متولی تھا، پھر اس کے وارثین میں سے بعض نے اس کی طرف سے وقف کی تصدیق کی اور بعض نے تکذیب کی، تو قیاس کا تقاضا یہ ہے کہ اس کے لئے ولایت اور تولیت کا ثبوت نہ ہو، کیوں کہ تولیت میں تجزی نہیں ہو سکتی، اسی قیاسی حکم پر ہلالؒ (المتونی.....) نے فتویٰ دیا ہے، اس کے برخلاف استحسان اس حکم کا مقاضی ہے کہ بعض کی تصدیق سے تولیت کا ثبوت ہو جانا چاہئے۔ وأما الولایة ففی تصدیق الورثة لہ استحساناً فإذا صدقہ البعض فی الوقفیة وکذبہ البعض فلا ولایة لہ قیاساً قال هلال وبالقياس نأخذ في هذه الصورة۔ (التاتارخانیہ ۷۳۴/۱۵)

اسی طرح اگر بعض وارثین نے وقف کا اقرار اور بعض دوسرے ورثاء نے تولیت کا انکار کیا تو بھی از روئے قیاس تولیت کا ثبوت نہ ہو گا، تا آں کہ دو معتبر گواہ تولیت پر شہادت نہ دے دیں۔ و كذلك إذا صدقواه في الوقف وكذبه البعض في الولاية فلا ولاية له قياساً قال هلال: وبالقياس نأخذ قال إلا أن يشهد شاهدان بالولاية على الجاحدين وشهادة الوارثين في ذلك مقبولة. (التاتارخانیہ ۱۵/۴۳۷)

## (۲۳) شک کی وجہ سے فسمنہ ٹوٹے گی :

اگر کسی شخص نے کہا کہ ”اگر میں دودھ پیوں تو میری بیوی کو طلاق“، پھر دودھ میں پانی ملا دیا جائے اور یہ پتہ نہ چل پائے کہ اس میں پانی زیادہ ہے یا دودھ؟ اس کے بعد وہ شخص اسے پی لے، تو از روئے قیاس وہ حانت نہ ہو گا۔ اور محض شک کی وجہ سے طلاق کے وقوع کا حکم نہ ہو گا، جب کہ استحسان اس بات کا متقاضی ہے کہ اسے حانت قرار دے دیا جائے، کیوں کہ حرمت اور اباحت میں شک پیدا ہونے کی وجہ سے حرمت کے پہلو کوتز جحیج دینا احتوط ہے، مگر اس صورت میں استحسان کو چھوڑ کر قیاس کو اختیار کیا گیا ہے، وجہ یہ ہے کہ جب دونوں طرف حقوق العباد ہوں تو ان میں تعارض کے وقت احتیاط پر عمل نہیں ہوتا، ہاں اگر اسی طرح کی صورت اس وقت پیش آتی جب کہ قسم کھانے والا یہ بتا کہ ”اللہ کی قسم میں دودھ نہ پیوں گا“ تو ہم استحسان کو ترجیح دیتے، کیوں کہ وہاں کفارہ اللہ کا حق ہے اور اس کا ثبوت احتیاط کا تقاضا ہے۔ وإن وقع الشك فيه ولا يدرى ذلك فالقياس أن لا يحيث لأنه وقع الشك في حكم الحنث فلا يثبت مع الشك وفي الاستحسان يحيث لأنه عند احتمال الوجود والعدم على السواء فالقول بالوجود أولى احتياطاً لما فيه من براءة اللئمة بيسقين وهذا يستقيم في اليمين بالله تعالى لأن الكفارة حق الله تعالى في حفاظ في إيجابها فأما في اليمين بالطلاق والعتاق فلا يستقيم لأن ذلك حق العبد وحقوق العباد لا يجرى فيه الاحتياط للتعارض. (بدائع الصنائع ۳/۶۲)

## (۲۵) اعتکاف میں مسجد سے باہر نکلنا :

اگر کوئی معتکف مسجد سے تھوڑی دیر بھی باہر نکل آئے تو قیاس کا مقتضی اور حضرت امام ابوحنیفہ کا مذہب یہ ہے کہ اس کا اعتکاف ٹوٹ جائے گا، اس لئے کہ مسجد میں ٹھہرنا اعتکاف کا بنیادی رکن ہے، اور باہر نکلنے کی وجہ سے معتکف اس رکن کو چھوڑنے والا ہے، خواہ یہ لکھنا تھوڑی دیر کے لئے ہو یا زیادہ دیر کے لئے دونوں کا حکم یکساں ہے، جیسے کہ روزہ میں کھانا اور پینا منوع ہے۔ اب اگر کچھ بھی کھانی لے خواہ زیادہ ہو یا کم روزہ ٹوٹ جاتا ہے، اسی طرح اعتکاف بھی ٹوٹ جائے گا۔ اس کے برخلاف صاحبین کا قول ہے (جسے صاحب ہدایہ، صاحب بحر اور علامہ طحطاوی نے احسان قرار دیا ہے) کہ: معتکف اگر مسجد سے آدھے دن سے کم بلاعذر باہر رہے تو اس کا اعتکاف فاسد نہ ہوگا، اس لئے ضرورت پکھ دیر لکھنا اعتکاف میں معاف ہے، اور اس ”پکھ دیر“ کی تحدید آدھے دن سے کی گئی، اس لئے کہ روزہ میں آدھے دن کے اندر اندر نیت کا شریعت نے اختیار دیا ہے۔ اس مسئلہ میں علامہ سرسی کے کلام اور متون مذہب سے اشارہ ملتا ہے کہ امام صاحب کا قول راجح ہے اور اسی پر فتویٰ ہے، اور اسی معنی کے اعتبار سے علامہ طحطاوی نے اس مسئلہ کو قیاس کے راجح مسائل میں شامل فرمایا ہے۔

**نبوت:** علامہ شامی نے رحمتی کے حوالہ سے اس مسئلہ کو قیاسی راجح مسائل کی فہرست سے خارج شمار کیا ہے، اور وجہ یہ بیان کی ہے کہ محقق ابن الہمام نے فتح القدير میں صاحبین کے قول کو احسان ماننے سے انکار کر دیا ہے، لہذا جب احسان ہی نہیں رہا تو قیاس کو اس پر راجح کرنے کی بات کیسے کہی جاسکتی ہے؟ لیکن علامہ رافعی نے ”تقریراتِ رافعی“ میں صاحبین کے قول کو احسان نہ ماننے کی اس دلیل پر جواب ابن الہمام نے پیش کی ہے نقد کیا ہے، اور ان کے کلام سے یہ اشارہ ملتا ہے کہ صاحبین کا قول احسان پرمنی ہے۔ تو اگر قول صاحبین کو احسان مان لیا جائے تو پھر یہ مسئلہ یقیناً قیاس کے راجح مسائل کی مثال بن سکتا ہے۔ (آپ خود بھی اس پہلو پر غور کریں اور فیصلہ کریں)

فَإِذَا خَرَجَ سَاعَةً مِنَ الْمَسْجِدِ فَعَلَىٰ قَوْلِ أَبِي حِينَفَةَ يُفْسَدُ اعْتِكَافُهُ  
وَعِنْدَ أَبِي يُوسُفَ وَمُحَمَّدٍ رَحْمَهُمَا اللَّهُ تَعَالَىٰ لَا يُفْسَدُ مَالَمْ يَخْرُجْ أَكْثَرُ مِنْ نَصْفِ

يُوْم وَقُولَّ أَبِي حَنِيفَةَ أَقِيسَ وَقُولَّهُمَا أَوْسَعٌ. (المبسوت ١١٨/٣)

وَلَوْ خَرَجَ مِنَ الْمَسْجِدِ سَاعَةً بِغَيْرِ عَذْرٍ فَسَدَ اعْتِكَافَهُ عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ لِوُجُودِ الْمُنَافِي وَهُوَ الْقِيَاسُ وَقَالًا لَا يَفْسُدُ حَتَّى يَكُونَ أَكْثَرُ مِنْ نَصْفِ يَوْمٍ وَهُوَ الْإِسْتِحْسَانُ لِأَنَّ فِي الْقَلِيلِ ضَرُورَةً. (هَدَايَةٌ ٢٣٠/١) وَفِي الطَّحَطَاوِيِّ: قَالُوا وَهُوَ الْإِسْتِحْسَانُ فَيُقْتَضِي تَرْجِيحَ قَوْلِهِمَا. (يَحِّ) وَبَحْثٌ فِيهِ الْكَمَالُ وَرَجْحٌ لِأَنَّ الْإِسْتِحْسَانَ الَّتِي يَنْبَاطُ بِهَا التَّخْفِيفُ الْلَّازِمَةُ وَالْغَالِبَةُ وَلَيْسَ هُنَا كَذَلِكَ. أَىٰ فَيَكُونُ مِنَ الْمَوَاضِعِ الَّتِي يَعْمَلُ فِيهَا بِالْقِيَاسِ كَذَلِكَ فِي تَحْفَةِ الْأَخْيَارِ. (الطَّحَطَاوِيُّ عَلَى الْمَرَاقِيٍّ ٣٨٤، وَمُثْلُهُ فِي الْبَحْرِ الرَّائِقِ ٢٠٢) وَقَالَ فِي الدَّرِّ الْمُخْتَارِ: وَأَمَا مَا لَا يُغْلِبُ كِإِنْجَاءِ غَرِيقٍ وَانْهَادَامِ مَسْجِدٍ فَسُقْطٌ لِلْإِثْمِ لَالْبَطْلَانِ، وَإِلَّا لِكَانَ النَّسِيَانُ أَوْلَى بِعَدْمِ الْفَسَادِ كَمَا حَقَّقَهُ الْكَمَالُ خَلَافًا لِمَا فَصَلَهُ الزَّيْلَعِيُّ وَغَيْرُهُ. (الْدَّرِّ الْمُخْتَارُ مَعَ دَرِّ الْمُخْتَارِ ٤٤٧/٢، دَرِّ الْمُخْتَارِ مَعَ شَامِي زَكْرِيَاٰ ٤٣٨/٣) وَأَنْظُرْ: فَتْحُ الْقَدِيرِ ٣٩٦/٢ بِيَرْوَتِ (٢٠٢٣-١٩٦٣)

وَقَالَ الرَّافِعِيُّ: وَالْإِسْرَارُ إِنَّمَا هُوَ عَلَةٌ لِإِثْبَاتِ أَصْلِ الْحُكْمِ بِدُونِ مَرَاعَاةٍ وَجُودِهَا فِي كُلِّ فَرِدٍ كَمَا هُوَ الْغَالِبُ فِي الْعُلُلِ الْفَقِهِيَّةِ الْخِ. (تَقْرِيرَاتُ الرَّافِعِيِّ عَلَى حَاشِيَةِ أَبْنِ عَابِدِيْنَ ١٥٥/٢)

## (٢٦) مَعْتَوْهٌ بَيْئِيٌّ كَيْ لَتَّ بَابٌ كَابَانِيٌّ خَرِيدَنَا :

اَگر کسی شخص نے غیر کی باندی سے نکاح کیا، جس سے اس کی اولاد بھی ہوئی، پھر وہ شخص اپنے کسی معتوہ (نا سمجھ) بیئی کی نیت سے اس باندی کو خریدنا چاہے تو احسان اس امر کا متناقضی ہے کہ یہ باندی بیئی کی سمجھی جائے اور وہ اس شخص کی ام ولد نہ بنے۔ لیکن قیاس کا تقاضا یہ ہے کہ باندی کو باپ کی ملکیت قرار دے کر اسے ”ام ولد“، تسلیم کر لیا جائے، اور باپ کے مرنے کے بعد وہ آزاد ہو جائے اسی قیاس کے حکم پر فتویٰ دیا گیا ہے۔ ومنها رجل لَهُ أَبْنَانٌ مِنْ أَمْمَةٍ غَيْرِهِ بِالنَّكَاحِ فَاشْتَرَى الْأَبُ هَذِهِ الْأُمَّةَ لِابْنِهِ الْمَعْتَوْهَ، الْقِيَاسُ أَنْ يَقْعُ الشَّرَاءُ لِلْأَبِ وَلَا يَقْعُ لِلْمَعْتَوْهِ وَفِي الْإِسْتِحْسَانِ يَقْعُ وَبِالْقِيَاسِ أَخْذُهُ (الْطَّحَطَاوِيُّ ٢٦٧، هَنْدِيَّةٌ ١٧٥/٣)

## تمرین: ۳۹

○ الف: مثالوں کی اصل کتابوں سے مراجعت کریں۔

○ ب: مثالوں میں ذکر کردہ عبارات کے علاوہ کم از کم ایک واضح عبارت دوسری فقہی کتابوں سے تلاش کر کے لکھیں۔

### مذہب کی شاذ روایتیں معمول بہانہ ہیں ہیں

یہ بات بار بار آچکی ہے کہ ظاہر روایت اور ترجیحات مشائخ کی پیروی عام مفتیان پر ضروری ہے، بلکہ معقول وجہ کے نہ تو ظاہر الروایہ کو چھوڑا جائے گا اور نہ ہی مشائخ کی ترجیحات سے صرف نظر کیا جائے گا۔ اور ظاہر الروایہ کے ہوتے ہوئے شاذ روایت معمول بہانہ ہوگی، الایہ کہ مشائخ نے اسے کسی صحیح وجہ سے اختیار کر لیا ہو، ہاں اگر مسئلہ ظاہر الروایہ میں نہ ملتا ہو اور مذہب کی کسی نادر روایت میں پایا جائے تو اس روایت پر عمل کرنا متعین ہوگا۔ الخامسة ما فی قضاء البحر (۱۷۰/۶) ص: ۸۲ - إلى قوله - تعین المصیر إلیها انتہی ص: ۸۲ س: ۵)

### (۲۶) درایت کا اعتبار

اگر کسی امام سے ایک ہی مسئلہ میں مختلف روایتیں منقول ہوں تو جو روایت دلیل کے اعتبار سے مضبوط ہوگی اسے اختیار کیا جائے گا۔

مائخذ: السادسة ما فی شرح المنیۃ ص: ۸۲ س: ۵ - إلى قوله - فالاولی

بالأخذ أقواها حجة. ص: ۸۳ س: ۳ -

### درایت پر فتویٰ کی مثالیں

#### (۱) تعلیلِ اركان کا وجوہ :

نماز میں تعلیلِ اركان حضرت امام ابو یوسفؓ کے نزدیک فرض ہے، اور حضرت امام

ابوحنیفہ اور حضرت امام محمدؐ سے اس سلسلہ میں ۲ روایتیں مروی ہیں۔ علامہ جرجانی (المتونی.....) کی تخریج کے مطابق سنت ہے۔ اور علامہ کرخی (المتونی ۳۸۰ھ) کی تخریج کے اعتبار سے واجب ہے، واجب کا قول روایت و درایت دونوں اعتبار سے مضمبوط ہے، اور اسی پر فتویٰ دیا جاتا ہے، حتیٰ کہ اگر نماز میں تعدیل اركان نہ کرے تو سجدہ سہو واجب ہو جاتا ہے۔ قولة: وتعديل الأركان هو سنة عندهما في تحرير الجرجاني وفي تحرير الكرخي واجب حتى تجب سجدة السهو بترکه كذا في الهدایة وجزم بالثانی في الكنز والوقایة والملتقی ومقتضی الأدلة كما يأتي قال في البحر وبهذا يضعف قول الجرجاني - وقال الشامی بحثاً - والحاصل أن الأصح رواية ودرایة ووجوب تعديل الأركان.

(شامی کراچی ۴۶۴/۱، شامی زکریا ۱۵۷۲)

## (۲) قومہ اور جلسہ کا واجب :

ركوع سے سراٹھانا اور دونوں سجدوں کے درمیان بیٹھنا اور ان میں تعدیل کرنا، امام ابو یوسفؓ کے نزدیک فرض ہے، اور حضرات طرفینؓ سے مشہور روایت سنیت کی ہے۔ اور دوسری روایت واجب کی ہے، یہی واجب کی روایت دلائل کے موافق ہے، کیوں کہ جناب رسول اللہ ﷺ سے قومہ اور جلسہ پر مواطبت ثابت ہے، لہذا قومہ اور جلسہ کے واجب کا فتویٰ دیا جائے گا۔ قال الشامی: وأما القومة والجلسة وتعديلهما فالمشهور في المذهب السنیة وروی وجوہها وهو الموافق للأدلة وعليه الكمال ومن بعده من المتأخرین وقد علمت قول تلمیذہ أنه الصواب وقال أبو يوسف بفرضیة الكل.

(شامی کراچی ۴۶۴/۱، شامی زکریا ۱۵۸۲)

وقال في شرح المنیۃ: وكذا القومة من الرکوع والجلسة بين السجدتين وطمأنينة فیهما كلها فرائض عند أبي يوسف للحادیث المذکور وعندہما سنن على ما ذکر في الهدایة وغيرهما، وقال الشیخ کمال الدین ابن الهمام وینبغی أن تكون القومة والجلسة واجبین للمواطبة ثم قال بعده: وأنت علمت أن

مقتضى الدليل الوجوب وفي كل من الطمانينة والقومة والجلسة الوجوب كذا قاله الشيخ كمال الدين ابن الهمام ولا ينبغي أن يعدل عن الدرایة إذا وافقتها

رواية. (غنية المتملى على المنية ۲۸۸-۲۸۹)

### (۳) عیدین کی نماز کا وجوب :

نمازِ عیدین کے سلسلہ میں روایات مذہب مختلف ہیں، بعض سنت کا پتہ چلتا ہے اور بعض وجوب پرداں ہیں۔ اور درایت وجوب کی مقاضی ہے، اس لئے کہ جناب رسول اللہ ﷺ نے جماعت کے ساتھ ہر سال بلاناغہ عیدین کی نمازیں ادا فرمائی ہیں، لہذا اس روایت کو ترجیح دیتے ہوئے وجوب کا حکم لگائیں گے۔ تجب صلاة العيدین ای تصریح بوجوبها و هو أحد الروایتین عن ابی حنیفة و هو الأصح ويدل عليه من جهة الروایة ومن جهة الدليل مواظبته ﷺ من غير ترك۔ (البحر الرائق ۲۵۲/۲، بدائع الصنائع ۲۷۵/۱)

### تمرین: ۳۰

○ ایک امام سے متعدد روایات منقول ہونے کی صورت میں دلیل کے اعتبار سے مضبوط قول پر فتویٰ کی مزید تین مثالیں تحریر کریں۔

### (۴) تکفیر مسلم میں احتیاط

مسلمان کے کلام کو بہتر معنی پر محمول کر کے امکانی حد تک اسے تکفیر سے بچایا جائے گا، خواہ اس کے لئے مذہب کی ضعیف روایت کو اختیار کرنا پڑے۔

### یہ کوئی مذاق نہیں!

کسی شخص کو کافر بنا دینا کوئی بنسی کھیل اور مذاق نہیں کہ ذرا سایہ انہا ملے اور تکفیر کا فتویٰ داع دیا جائے، بلکہ یہ انتہائی اہم اور خطرناک چیز ہے۔ علامہ ابن حجیمؓ نے البحر الرائق (باب المرتد ۱۲۷/۵) میں

فتاویٰ صغری سے نقل کیا ہے کہ کفر بڑی بھاری چیز ہے، مجھے اگر کوئی بھی روایت مل جائے (گوکہ وہ ضعیف ہو) تو میں کسی صاحب ایمان کو کافرنیس بناؤں گا، اور یہ بات طے شدہ ہے کہ مسلمان کے کلام کو امکانی حد تک ایسے معنی پر محدود کیا جائے گا جو اس کی تکفیر کا موجب نہ ہو۔ اور اگر کسی مسلمان کو تکفیر سے بچانے کے لئے مذہب کی کسی ضعیف روایت کا سہارا لینا پڑے تو اس سے بھی دریغ نہ کیا جائے گا۔ السابعة ما في البحر من باب المورثة. ص: ۸۳، س: ۳ - إلى قوله - ولو رواية ضعيفة. ص: ۸۳ س: ۴)

## تکفیر میں احتیاط کی چند مثالیں

(۱) کہا: ”میں شریعت کو نہیں مانتا“ :

علامہ شامیؒ نے فتاویٰ خیریہ سے نقل کیا ہے کہ علامہ خیر الدین رملیؒ سے سوال کیا گیا کہ ایک شخص سے قاضی نے کہا کہ اقبل الشرع (حکم شریعت مان لے) اس نے جواب دیا لا اقبل (نہیں مانتا) تو ایک مفتی نے اس پر کفر کا حکم لگایا اور اس کی بیوی کو جدا گی کی ہدایت کی، تو کیا وہ شخص واقعہ اپنے قول ”لا اقبل“ کی وجہ سے کافر ہو گیا ہے؟ علامہ رملیؒ نے اس کا یہ جواب دیا کہ اس شخص کو فوراً کافرنہ کہیں گے بلکہ اسے سزا دی جائے گی، کیون کہ اس کے کلام ”لا اقبل“ کے متعلق یہ تاویل ممکن ہے کہ اس کا مقصد حاکم کے فیصلہ کا انکار رہا ہونہ کہ نفس شریعت کا۔ علامہ شامیؒ فرماتے ہیں کہ کسی مسلمان کی تکفیر میں جلد بازی سے کام نہیں لینا چاہئے۔ (شامی/۲۳۰، شامی زکر یا/۶۷۴)

(۲) مسلمان سے کہا: ”تیرادِ دین بہت خراب ہے“ :

ایک مسلمان نے دوسرے مسلمان سے کہا تیرادِ دین بہت خراب ہے، بظاہر یہ مذہب اسلام کی تو ہیں ہے جو موجب کفر ہے، لیکن اس میں یہ تاویل کی جاسکتی ہے کہ متکلم کا مقصد اسلام کی تو ہیں کا نہیں تھا، بلکہ اس کا مقصد مخاطب کے خراب اخلاق پر نکیر کرنا تھا، اس معنی کے اعتبار سے اس پر کفر کا حکم نہیں لگایا جائے گا، اور فتویٰ دیتے وقت مفتی یہی تاویل سامنے رکھے گا۔ (شامی/۲۳۰، شامی زکر یا/۶۷۴)

(۳) کہا: ”نماز نہیں پڑھوں گا“ :

کسی شخص نے دوسرے سے کہا نماز پڑھ لے، اس نے جواب دیا: ”نہیں پڑھوں گا“، تو

اگرچہ نماز کا انکار ہے جو کفر ہے، مگر یہ ممکن ہے کہ کہنے والے کی مراد آمر کا حکم نہ ماننے کی رہی ہو، اور اصل حکم نماز کا انکار اس کے پیش نظر نہ ہو، لہذا مفتی اسے کافر قرار دے گا۔ (البحر الرائق ۱۲۲۵)

## ضروری تنبیہ:

یہاں یہ بات خاص طور پر ملحوظ رہتی چاہئے کہ مفتی نے کفر سے بچانے کے لئے جوتا میں اختیار کی ہے اگر قائل کی نیت وہ تھی تو وہ یقیناً مسلمان رہے گا، لیکن اگر اس کی نیت کفر تھی، اور مفتی نے حسن ظن کی بنا پر عدم تفیر کا فتویٰ دے دیا تو یہ فتویٰ اس شخص کو دیانتہ کفر سے نہیں بچاسکے گا، اور اس پر تجدید ایمان لازم ہوگی۔ زاد فی البزاریۃ: إِلَإِذَا صرَحَ بِالإِرَادَةِ فَوْجِبَ الْكُفُرُ۔ (البحر الرائق ۱۳۳۱/۵)

## تمرین ۳۱:

- اف: مثالوں کے متعلق عربی عبارتیں تلاش کر کے لکھیں۔
- ب: اس طرح کی مزید تین مثالیں تحریر کریں۔

## مرجوع عنہ قول پر عمل نہ کیا جائے

جس قول سے صاحب مذهب نے رجوع کر لیا ہو وہ منسون کے درجہ میں ہو جاتا ہے، عام مفتیوں کے لئے اس پر عمل اور فتویٰ دینا جائز نہیں ہے، اور شرح تحریر میں مذکور ہے کہ اگر مجتهد سے دو قول منقول ہوں اور ان میں سے ایک قول کا مؤخر ہونا معلوم ہو تو یہی آخری قول عمل کے لئے متعین ہے، اور پہلا قول منسون کے درجہ میں ہے، اور اگر کسی قول کا آخری ہونا نہ معلوم ہو سکے تو دونوں قول اس مجتهد کی طرف بلا کسی ترجیح کے منسوب کر دئے جائیں گے۔ (پھر مشائخ ان میں ترجیح و اختیار کا کام انجام دیں گے)۔ الثامنة ما فی البحر مما قدمناه قریباً ص: ۸۳ س: ۵ - إلى قوله

- من غير أن يحكم على أحدهما بالرجوع. ص: ۸۳ س: ۷)

## تمرین ۳۲:

- تین ایسی مثالیں تحریر کریں جس میں امام ابوحنیفہؒ کسی مسئلہ سے رجوع منقول ہو۔

## (۲۸) متون مذہب کی حیثیت

جو قول متن کی معترکتابوں میں لکھا جاتا ہے وہ درحقیقت التراجمی طور پر صحت کو تلزم ہوتا ہے، اس لئے کہ اصحاب متون نے خاص طور پر صحیح احوال نقل کرنے کا التزام کیا ہے، ہاں اگر متون کے علاوہ کسی دوسری روایت کی صراحةً صحیح کی گئی ہو تو یہ صحیح صریح، صحیح التراجمی پر راجح ہو گی۔

مأخذ: التاسعة ما ذكر العالمة قاسم ص: ۸۳ س: ۷ - إلى قوله - فيقدم

على التصحيح الالتزامي . ص: ۸۳ س: ۹ -

## شروحات اور فتاویٰ کا درجہ بعد میں ہے

فتاویٰ خیریہ میں ناپینا کی شہادت مقبول نہ ہونے کا فتویٰ دینے کے بعد لکھا ہے کہ جس قول پر متون متفق ہوں وہی مفتی ہے اور معتمد علیہ ہوتا ہے، اس لئے کہ علماء نے صراحت کی ہے کہ جب متن کے مسئلہ اور فتاویٰ میں تعارض ہو جائے تو متن کے قول کو ترجیح ہو گی۔ اسی طرح شروحات کے مسائل بھی فتاویٰ کے مقابلہ میں راجح سمجھے جائیں گے، یہی بات علامہ ابن نجیمؓ نے الجواب الرائق (فصل فی الحبس) میں نقل فرمائی ہے، اور انفع الوسائل میں تحریر ہے کہ مجض کتب فتاویٰ دیکھ کر فتویٰ نہیں دیا جائے گا، بلکہ ان فتاویٰ سے اسی وقت تائید حاصل کی جائے گی جب کہ ان کے مقابلہ میں کتب مذہب میں کوئی روایت منقول نہ ہو، اگر متون وغیرہ میں فتاویٰ کے مخالف روایت موجود ہو تو فتاویٰ کی طرف بالکل توجہ نہیں دی جائے گی۔ خاص کراس وقت جب کہ فتاویٰ میں ذکر کردہ مسائل عام علماء کے نزدیک مفتی بنہ ہوں۔

علامہ شامیؓ لکھتے ہیں کہ بعض متاخرین کی کتابوں سے معلوم ہوا کہ علامہ صدر الدین سلیمان ابن وہب (المتومنی ۲۶۷ھ) فرماتے تھے کہ یہ "فتاویٰ" مشائخ کے اختیار کردہ مسائل ہیں، لہذا ان کو کتب مذہب کے مقابلہ میں نہیں رکھا جاسکتا، یہی بات بہت سے متاخرین نے ارشاد فرمائی ہے، اور اس کے ناقل علامہ نسیم الدین الحیری (المتومنی ۲۸۷ھ) بھی یہی رائے رکھتے ہیں۔ وفی شهادات الخیرية فی

جواب سوال ص: ۸۴ س: ۹ - إلى قوله - وبه أقوال انتهي . ص: ۸۴ س: ۹ )

## متون معتبرہ

متاخرین کی اصطلاح میں جب لفظ متون بولا جاتا ہے تو اس سے صرف متون کی معتبر کتابیں مراد ہوتی ہیں، جن کا نقشہ ذیل میں درج ہے:

نمبر شمار	نام کتاب	مصنف	کیفیت
۱	ہدایہ	امام ابو الحسن علی بن ابی بکر المرغینانی (المتوفی ۵۹۳ھ)	اس میں مختصر قدوری اور جامع صغیر کے مسائل جمع کئے گئے ہیں۔
۲	مختصر القدوری	ابو الحسین احمد القدوری (۴۲۸ھ)	یہ فقہ کا نہایت مشہور متن ہے۔
۳	المختار الفتوی	ابو الفضل مجدد الدین عبد اللہ بن محمود الموصلي (۶۸۳ھ)	یہ کی معتمد متن ہے جس کی شرح خود مصنف نے "الاختیار" کے نام سے کی ہے۔
۴	الواقیہ	صدر الشریعہ عبید اللہ بن مسعود حنفی (المتوفی ۷۲۵ھ)	یہ متن و قاویہ کا خلاصہ ہے۔
۵	وقایہ	تاج الشریعہ محمود بن صدر الشریعہ (۶۳۷ھ)	شرح وقایہ اسی کی شرح ہے۔
۶	کنز الدقائق	ابوالبرکات حافظ الدین عبد اللہ بن احمد نسفي (المتوفی ۷۱۰ھ)	اس کی بہترین شرح البحر الرائق ہے۔
۷	ملتقی الاحجر	ابراهیم ابن محمد حلی (۹۵۶ھ)	اسے قدوری، کنز، وقایہ وغیرہ سامنے رکھ کر مرتب کیا گیا ہے۔
۸	مجموع البحرین	مظفر الدین احمد ابن علی بن ثعلب ساعاتی بعلبکی (المتوفی ۶۹۲ھ)	
۹	تحفة القبهاء	علاء الدین محمد ابن احمد سرقندی	اس کی شرح بدائع الصنائع ہے۔

جب فقهہ میں متون ثلاثہ بولا جاتا ہے تو اس سے تین متن وقایہ، کنز اور مختصر القدوری مراد ہوتے ہیں۔ اور جب متون اربعہ بولتے ہیں تو ان کے ساتھ ”جمع البحرين“ یا ”مختار“ کو بھی شامل کر لیا جاتا ہے، یہ سب متون زیادہ تر مذہب کی روایات ظاہرہ اور مشہور اقوال پر مشتمل ہیں، اسی لئے معتبر ہیں۔ ثم لا يخفى أن المراد بالمتون المعتبرة ص: ٤٨، س: ٩: إلی قوله –  
مما هو ظاهر الرواية. ص: ٨٥، س: ١)

## متون غیر معتبرہ

ان کے برخلاف وہ متن کی کتابیں جن میں ظاہر الروایہ کا زیادہ التزام نہیں کیا گیا ہے فتویٰ دیتے وقت ان کو سامنے نہیں رکھا جائے گا، اس طرح کے متون میں ”غیر الاحکام“ لملا خسرو محمد بن فراموز (المتوفی ٨٨٥ھ) اور ”تنویر الا بصار“ شمس الدین محمد بن عبد اللہ ابن احمد المتر تاشی (المتوفی ١٠٠٣ھ) کا نام لیا جاسکتا ہے، کیوں کہ ان میں بہت سے مسائلِ فتاویٰ بھی نقل کردئے گئے ہیں۔  
(بخلاف متن الغرر لملا خسرو و متن التنویر للتمرقاشی فإن فيهما كثير من مسائل الفتاوى. ص: ٨٥، س: ١)

## متون پرفتویٰ کی مثالیں

(۱) نابینا کی گواہی کا مسئلہ :

مذہب کے سبھی متون متفق ہیں کہ نابینا شخص کی گواہی پر فیصلہ نہیں کیا جائے گا، جب کہ شروحات وغیرہ میں امام صاحبؒ کی ایک روایت امام زہرؑ کے واسطہ سے یہ نقل کی گئی ہے کہ جن معاملات کا تعلق مخصوص سماں سے ہے، اور ان میں آنکھوں سے مشاہدہ کی ضرورت نہیں ان میں نابینا کی گواہی مقبول ہوگی۔ شروحات کی یہ روایت متون میں ذکر کردہ مسئلہ سے مکفراتی ہے، اور اس پر مشائخ کے فتویٰ کی صراحت بھی نہیں ہے۔ لہذا ہم اصولاً روایت متون کو ترجیح دینے کے پابند ہیں، اسی بنا پر علامہ خیر الدین رملی (المتوفی ۱۰۸۱ھ) نے بھی نابینا کی گواہی مقبول نہ ہونے کا فتویٰ دیا ہے۔ لاحقہ

من أعمى أى لا يقضى بها. (در مختار وقال الشامي: إلا في رواية زفرون عن أبي حنيفة فيما يجري فيه التسامع لأن الحاجة فيه إلى السمع ولا خلل فيه باقاني على الملتقى كذا في الهاشم - ثم قال بعده: - وأما قوله بالثانية فهو مروي عن الإمام أيضاً قال في البحر واختياره في الخلاصة ورده الرملاني بأنه ليس في الخلاصة ما يقتضي ترجيحه و اختياره. (شامي كراجي ٤٧٦١٥، شامي زكرياء ١٩٣٨، فتح القدير ٣٩٧-٣٩٨ بيروت)

## (۲) ہڈی توڑنے سے ذکوٰۃ اضطراری حاصل نہ ہوگی :

اگر کسی شکاری نے شکار پر اپنے ”کلب معلم“ کو چھوڑا، اس نے شکار کو پکڑ کر ہڈی توڑ دی جس سے وہ مر گیا، لیکن کوئی ظاہری زخم نہیں لگا اور دم مسروح خارج نہیں ہوا تو ایسی شکل میں سبھی متون مذہب اور ظاہر الروایہ کا فیصلہ یہ ہے کہ وہ شکار کھانا حلال نہ ہوگا، اس لئے کہ دم مسروح کے اخراج کی شرط نہیں پائی گئی۔ اس کے بخلاف امام صاحبؒ کی ایک روایت حسن ابن زیادؓ سے منقول ہے جسے امام ابوالحسن کرخیؓ اور قدوریؓ نے بھی اپنی شرح میں ذکر کیا ہے کہ چوں کہ ہڈی ٹوٹنا اندر وہی زخم ہے، لہذا ظاہری زخم پر قیاس کرتے ہوئے ہڈی ٹوٹنے سے مر نے والا جانور بھی حلال قرار دیا جائے گا۔ اس روایت کو فقهاء نے متون کے مقابلہ میں اختیار نہیں کیا ہے، اور آج متفقہ فتویٰ یہی ہے کہ دم مسروح نکل بغیر حلہ کا فتویٰ نہیں دیا جائے گا۔ وإن خنقه الكلب ولم یجرحه لم یؤکل لأن الجرح شرط على ظاهر الروایة على ما ذكرنا وهذا يدلک على أنه لا يحل بالكسر، وعن أبي حنيفة أنه إذا كسر عضواً فقتله لابأس بأكله لأنه جراحة باطنية فھی كالجراحة الظاهرة. وجہ الأول أن المعتبر جرح ینتھض سبباً لأنھار الدم ولا یحصل ذلك بالكسر فأشبیه التخنیق. (هدایہ ٤٩١٤، عینی شرح هدایہ ٣٦٥١٤)

تمرين: ۳۳

○ شروحتات کے مقابلہ میں متون پر فتویٰ کی ۵ مرثالیں لکھیں۔

## (۲۹) کتب فقہ میں مفتی بے قول کی پہچان

فہمی کتابوں میں مفتی بے قول نقل کرنے کے مختلف طریقے رہے ہیں، اس سلسلہ میں بعض ضابطے یہ ہیں:

(۱) ”فتاویٰ قاضی خاں“ اور ”ملتقی الاجر“ میں جو قول اولاً نقل کیا جائے وہ مصنف کے نزدیک مفتی بے اور راجح ہوتا ہے۔

(۲) ”ہدایہ“ اور اس کی نجح پر کھی جانے والی کتابوں میں جس قول کی دلیل اخیر میں ذکر کی جائے (جود گیر اقوال کے دلائل کے جواب کو بھی متنضم ہو) وہ راجح ہوتا ہے۔

(۳) اسی طرح جب فقہاء مختلف اقوال میں ایک قول کو دلیل سے مضبوط کریں اور دیگر اقوال کو بلا دلیل ذکر کریں تو دلیل والا قول راجح سمجھا جاتا ہے۔ یہ سب تفصیل اس وقت ہے جب کہ اس التزامی صحیح کے مقابلہ میں صراحتاً صحیح نہ پائی جائے۔

مأخذ: و سابق الأقوال في الخانية ص: ۸۵ - إلى قوله - وتعليق

سو اہم لوا. ص: ۸۵ س: ۳

## ○ مزید وضاحت :

### خانیہ اور ملتقی

علامہ قاضی خاں (المتوفی ۵۹۲ھ) نے فتاویٰ خانیہ (علی ہامش الہندیہ ۲۱) کے شروع میں لکھا ہے کہ ”جن مسائل میں متاخرین کے مختلف اقوال ہیں، ان میں سے میں نے دو ایک اقوال ہی نقل کئے ہیں، اور میں نے طالبان علوم کا خیال رکھتے ہوئے اور تشتگان علم کی آسانی کے لئے اس قول کو جو میرے نزدیک زیادہ ظاہر اور علماء میں زیادہ مشہور ہے مقدم رکھا ہے۔“ قاضی خاں کی اس

صراحت سے معلوم ہو گیا کہ ”فتاویٰ خانیہ“ میں پہلا ذکر کردہ قول راجح ہوتا ہے، اسی امر کا التزام صاحب ”ملتقی الابحر“ نے بھی کیا ہے، لہذا ”ملتقی الابحر“ کا پہلا قول بھی راجح سمجھا جائے گا۔ اُی ان اول الأقوال الواقعة في فتاوى الإمام قاضى خان ص: ۸۵ س: ۴ - إلى قوله - التزم تقديم القول المعتمد. ص: ۸۵ س: ۶)

## قول اول کی ترجیح کے نمونے

### (۱) فجر کی قبل الوقت اذان :

فتاویٰ قاضی خاں میں فجر کی اذان کے متعلق مسئلہ اس طرح لکھا ہے کہ (طرفینُ کے نزدیک) کسی بھی نماز کی اذان وقت شروع ہونے سے پہلے مکروہ ہے، اور وقت کے بعد اس کا اعادہ کیا جائے گا، یہ قول اول ہے۔ اور امام ابو یوسفؓ نے فرمایا کہ فجر کی نماز کے لئے جو اذان آدھی رات کے بعد دی جائے گی وہ معتبر ہوگی، اور اس کا بعد میں اعادہ لازم نہ ہوگا یہ قول ثانی ہے، حنفیہ کے نزدیک فتویٰ قول اول پر ہے۔ قال في الخانية: إذا أذن قبل الوقت يكره ويعاد في الوقت، وقال أبو يوسف لا يكره في الفجر في النصف الأخير من الليل ولا يعاد.

(خانیہ علی هامش الہندیہ ۷۷۱)

وقال في الہندیہ: تقديم الأذان على الوقت في غير الصبح لا يجوز اتفاقاً وكذا في الصبح عند أبي حنيفة ومحمد رحمهما الله تعالى وإن قدم يعاد في الوقت هكذا في شرح مجمع البحرين لابن ملك وعليه الفتوى. (تاتارخانیہ ناقلاً

عن المحيط ۵۲۲۱، الہندیہ ۵۳۱)

### (۲) بیمار شخص در میان نمازوں صحت یا ب ہو گیا :

ملتقی الابحر میں لکھا ہے کہ: ”اگر کسی مریض نے عجز کی بنیاد پر بیٹھ کر نمازوں شروع کی، پھر درمیان میں وہ کھڑے ہونے پر قادر ہو گیا، اور اس کا عذر رکھنی ہو گیا تو وہ کھڑے ہو کر نمازوں پر

کرے گا، یہ قول اول ہے۔ آگے فرماتے ہیں: اور امام محمدؐ کے نزدیک از سرنو نماز پڑھے گا، یہ قول ثانی ہے۔ صاحب ملتقی نے ان میں سے کسی کی ترجیح نقل نہیں کی ہے، لیکن الدر المتنقی میں شرح کرتے ہوئے کہا ہے: و بالاً أول يعمل پهلاً قول پر عمل کیا جائے گا، یہی مفتی بہے۔ ولو افتتحها قاعداً يرجع ويُسجد فقدر على القيام بنى قائماً وقال محمدٌ يستأنف.

(ملتقی) وفي الدر المتنقی: وبالاً أول ي العمل. ( الدر المتنقی على هامش المجمع ۱۵۰/۱)

## تعریف: ۳۲:

○ ان دونوں کتابوں سے دو دو مثالیں قول مفتی بہ کی پیش کریں۔

### دیگر کتابوں کا طریقہ :

فتاویٰ خانیہ اور ملتقی کے علاوہ دیگر کتابیں مثلاً: ہدایہ، اس کی شروحات، کنز کی شرعیں، الکافی للعلامۃ التسفی (المتونی ۱۷۰ھ) اور بداع الصناع للعلامۃ الکاساندی (المتونی ۵۸۷ھ) وغیرہ، جن میں اقوال کے ساتھ دلائل بھی ذکر کئے گئے ہیں ان کے مصنفین کا یہ طرز ہے کہ وہ مختلف اقوال ذکر کرنے کے بعد ہر ایک قول کی دلیل ذکر کرتے ہیں، اور اخیر میں امام صاحبؐ کے قول (یا جو بھی راجح قول ہو) کی دلیل اس طرح ذکر کرتے ہیں کہ دیگر دلائل کا جواب بھی ہو جائے۔ لہذا اگر یہ حضرات باقاعدہ کسی قول کی ترجیح کی صراحت نہ کریں تو وہ قول جس کی دلیل آخر میں ذکر ہو وہی راجح سمجھا جائے گا۔ شیخ الاسلام علامہ ابن الشبلی (المتونی ۱۰۲۱ھ) نے اپنے فتاویٰ میں لکھا ہے کہ اصل یہ ہے کہ امام ابوحنیفہؓ کے قول پر عمل کیا جائے، اسی بنابر عالم طور پر مشائخ نے امام صاحبؐ کی دلیل کو دیگر اصحاب مذهب کے دلائل پر راجح کیا ہے، اور ان کے استدلالات کے جوابات دیئے ہیں۔ مشائخ کا یہ طریقہ امام صاحبؐ کے مذهب کو معمول بہنانے کی پہچان ہے، اگرچہ انہوں نے اس پر فتویٰ کی صراحت نہ کی ہو، اس لئے کہ امام صاحبؐ کی دلیل کی ترجیح صراحتہ تصحیح کے قائم مقام ہے۔ (وما عداهما من الكتب التي تذكر فيها الأقوال. ص: ۸۵، س: ۶ - إلى قوله

- كصریح التصحیح انتهی. ص: ۸۶، س: ۴)

**تنبیہ :** مذکور بالا کتابوں کے طریقہ کی وضاحت کرتے ہوئے علامہ شامیؒ نے لکھا ہے : إنهم يؤخرُون قولَ الإمامِ ثم يذكرون دليلاً كل قول ثم يذكرون دليلاً الإمامِ . (شرح عقود رسم المفتی ۸۶) یعنی وہ امام صاحبؒ کا (راجح) قول اخیر میں لکھتے ہیں پھر دیگر دلائل ذکر کرنے کے بعد امام صاحبؒ کی دلیل رقم فرماتے ہیں، حالانکہ یہ بات مشابہہ کے خلاف ہے۔ ان کتابوں کا عموماً طرز یہ ہے کہ راجح قول پہلے ذکر کرتے ہیں اور مرجوح قول بعد میں۔ پھر مرجوح قول کا دلیل پہلے لکھتے ہیں اس کے بعد راجح قول کی دلیل لاتے ہیں، جس کے ضمن میں مرجوح قول کا جواب بھی ہو جاتا ہے، ہدایہ وغیرہ میں یہی طریقہ اختیار کیا گیا ہے۔ اس بناء پر ہم نے دیگر کتابوں کا طریقہ لکھتے ہوئے قول اول سے بحث ہی نہیں کی ہے، بلکہ آخری دلیل کو سامنے رکھا ہے، اور اس معاملہ میں کوئی اشکال نہیں ہے۔ واللہ عالم۔

## تمرين: ۲۵

○ ”ہدایہ“ اور ”البحر الرائق“، وغیرہ سے قول راجح کی کم از کم ۳-۴ مثالیں پیش کریں۔

### کیا یہ کہنا صحیح ہے؟

علامہ نشیؒ (المتونی ۱۰۷ھ) کی کتاب ”المستصفی“ کے اخیر میں لکھا ہے کہ اگر مسئلہ میں تین اقوال ہوں تو یا اول راجح ہو گایا آخری، درمیان کا قول نہیں لیا جائے گا۔ علامہ شامیؒ فرماتے ہیں کہ علی الاطلاق یہ کہنا صحیح نہیں، بلکہ اس میں ایک قید یہ بڑھانی چاہئے کہ بشرطیکہ مصنف کے طریقہ کا علم نہ ہو، مطلب یہ ہے کہ اگر مصنف اسی کا التزام کر لے کہ تین اقوال میں سے درمیانی قول راجح ہو گا تو پھر اسے راجح نہ ماننے کی کوئی وجہ نہیں ہے، البتہ اتنی بات درست ہے کہ جن کتابوں میں دلائل ذکر کئے جاتے ہیں ان میں آخری دلیل والا قول ہی راجح ہوتا ہے۔ وفی اخیر المستصفی للإمام النسفي ص: ۸۶، س: ۴ - إلی قوله - فالمرجح الأخير كما ذكرنا ص: ۸۶، س: ۷)

## قول معلل کی ترجیح

مفہتی بے قول کی پہچان کا تیسرا صابطہ یہ ہے کہ اگر فقہاء مختلف اقوال میں سے کسی ایک قول کی دلیل بیان کریں اور دیگر اقوال کو بلا دلیل چھوڑ دیں تو دلیل والا قول راجح ہوتا ہے۔ علامہ خیر الدین رملیؒ نے فتاویٰ خیریہ میں غصب کے متعلق ایک مسئلہ بیان کرتے ہوئے اس کی صراحت کی ہے، نیز تحریر الاصول اور اس کی شرح میں لکھا ہے کہ متعارض اقوال میں سے جس قول کی دلیل بیان کی جائے وہ اس قول کے مقابلہ میں راجح ہے جس میں دلیل سے تعریض نہ کیا گیا ہو، اس لئے کہ دلیل کا بیان کرنا اہتمام اور اس قول پر عمل کے لئے ابھارنے کی نشانی ہے۔ وکذا لو ذکروا قولین مثلاً ص: ۸۶ س: ۷ - إِلَى قُولِهِ - وَالْحَثْ عَلَيْهِ انتهَى. ص: ۸۶ س: ۱۰)

## علامہ خیر الدین رملیؒ کا فتویٰ کیا ہے؟

قول معلل کے سلسلہ میں علامہ شامیؒ نے فتاویٰ خیریہ کے جس مسئلہ کا حوالہ دیا ہے وہ یہ ہے کہ: علامہ خیر الدین رملیؒ سے پوچھا گیا کہ اگر کسی بستی والوں کی عادت یہ ہو کہ وہ اپنے جانور چرانے کے لئے جنگل میں چھوڑ دیتے ہوں تو اگر کسی گھوڑے کے دو شریکوں میں سے ایک نے مشترکہ گھوڑا عادت کے موافق چڑاگاہ میں چھوڑ دیا اور گھوڑا گم ہو گیا تو کیا وہ ضامن ہوگا؟ یا دوسرے شریک کی دلالۃ اجازت کی وجہ سے ضامن نہ ہوگا؟ اس پر علامہ خیر الدینؒ نے جواب دیا کہ اس صورت میں بظاہر ضامن نہ ہونے کی ترجیح معلوم ہوتی ہے، کیوں کہ فقہاء نے صرف عدم ضامن کی علت (دلالة) اجازت ہونا) ذکر کی ہے، اور ضامن کی کوئی علت ذکر نہیں ہے، اس اعتبار سے معلل قول راجح معلوم ہوتا ہے۔ (بحوالہ حاشیہ شرح عقد درسم لمفتی ۸۶)

## قول معلل کی ایک اور مثال

قاضی شریعت مجوسی وغیرہ سے قسم کھلاتے وقت کیا الفاظ کہلوائے گا؟ اس سلسلہ میں صاحب ہدایہ نے تین قول ذکر کئے ہیں:

(۱) مجوہ یہ کہے گا ”اس اللہ کی قسم جس نے آگ کو پیدا کیا“ یہ قول امام محمدؐ نے مبسوط میں ذکر کیا ہے۔

(۲) مجوہ ہو یا یہودی یا نصرانی سب سے صرف اللہ کے نام کی قسم کھلائی جائے اس کے آگے اور کچھ نہ جوڑا جائے گا، یہ امام ابو حنیفؓ کی ایک روایت ہے۔

(۳) یہودی اور نصرانی سے تو توریت و انجلیل کے ذکر کے ساتھ قسم لی جائے گی، لیکن مجوہ وغیرہ سے صرف اللہ کے نام کی قسم لی جائے گی، یہ قول امام خصافؓ نے ذکر کیا ہے، ان تین اقوال میں صاحبہدایہ نے صرف آخری قول کی باقاعدہ دلیل ان الفاظ میں ذکر کی ہے: لأن فی ذکر النار مع إِسْمِ اللَّهِ تَعَالَى تَعْظِيمُهَا وَمَا يَنْبَغِي أَنْ تَعْظِمَ بِخَلَافِ الْكَتَابَيْنِ لِأَنَّ كِتَابَ اللَّهِ مُعْظَمٌ۔ (هدایہ ۱۹۲۳) یعنی قسم میں اللہ کے نام کے ساتھ آگ کے ذکر سے آگ کی تعظیم لازم آتی ہے، حالاں کہ اس کی تعظیم مناسب نہیں، لہذا اللہ کے نام کے ساتھ آگ کا نام لینا اچھا نہیں۔ اس کے برخلاف (یہودی اور عیسائی سے قسم لیتے وقت) دونوں کتابوں (توریت اور انجلیل) کے ذکر میں حرج نہیں، اس لئے کہ اللہ تعالیٰ کی سبھی کتابیں قابل تعظیم ہیں۔ لہذا یہی قول معلل راجح ہوگا۔

## ثمرین: ۳۶

○ منفرد قول معلل کی مزید ۳ مرشالیں تلاش کر کے لکھیں۔

### (۳۰) الفاظ تصحیح

کسی قول کی تصحیح کے لئے فہرائے مختلف الفاظ لکھتے ہیں مثلاً:

(۱) عليه عمل اليوم، عليه عمل الأمة۔

(۲) عليه الفتوى، به يفتى، عليه الاعتماد، به نأخذ، هو

فتوى مشائخنا، هو المختار في زماننا۔

(۳) الفتوى عليه، هو الأصح، هو الأشباه، هو الأوضاع،

هو الأظهر، هو الأحوط، هو الأرفق۔

(۴) هو الاحتياط، هو الصحيح۔

ان میں اول و دو قسم کے الفاظ زیادہ موکد ہیں، ان کے بعد دوسرا اور تیسرا قسم کا درجہ ہے، تعارض کے وقت عموماً اسی ترتیب کا اعتبار ہوتا ہے، اور تعارض نہ ہو تو محسن <sup>الصحيح</sup> کافی ہے۔

## مختلف علماء کی آراء

(۱) فتاویٰ خیریہ میں مضرات کے حوالہ سے لکھا ہے کہ علامات افتاء درج ذیل ہیں: علیہ الفتوى، بہ یفتی، بہ نأخذ، علیہ الاعتماد، علیہ عمل الیوم، علیہ عمل الأمة، هو الأصح، هو الأظهر، هو المختار فی زماننا، هو فتویٰ مشائخنا، هو الأشبہ، هو الأوجہ۔ اور اس جیسے الفاظ، جن کا ذکر حاشیہ بزدوی میں کیا گیا ہے، علامہ خیر الدین رملی فرماتے ہیں کہ ان میں سے بعض الفاظ دوسرے بعض کے مقابلہ میں زیادہ باوزن ہیں۔ چنانچہ لفظ فضوی؛ صحیح، اصح اور الأشبہ وغیرہ الفاظ سے زیادہ موکد ہے، اور بہ یفتی؛ الفتوى علیہ کے مقابلہ میں راجح ہے، اور لفظ اصحاب؛ صحیح کے مقابلہ میں زیادہ موکد ہے اور لفظ أحوط؛ احتیاط سے زیادہ موکد ہے۔ (وحيثما وجدت قولين وقد ص: ۸۶ س: ۱۱ - إلى قوله - والأحوط أكدر من الاحتياط. ص: ۸۷ س: ۳)

(۲) شرح منیہ میں تحریر ہے کہ ہم نے اپنے مشائخ سے بات حاصل کی ہے کہ اگر دو معتبر امام کسی مسئلہ کی تصحیح میں اختلاف کریں اور ان میں سے ایک ”لفظ صحیح“ استعمال کرے اور دوسرा ”لفظ اصحاب“ کہے تو جس نے لفظ ”صحیح“ کہا ہے اس کے قول کو ”اصح“ کے مقابلہ میں اختیار کرنا زیادہ بہتر ہے، اس لئے کہ ”صحیح“ کے مقابلہ میں ” fasid“ آتا ہے اور ”اصح“ کے مقابلہ میں ”صحیح“ آتا ہے۔ تو ایسی صورت میں گویا کہ اصحاب کہنے والا صحیح کہنے والے کے ساتھ اس حد تک تو متفق ہے کہ اس کا قول ”صحیح“ ہے، جب کہ ”صحیح“ کہنے والا اپنے مقابلہ کے قول کو (جو دوسرے کے نزدیک اصح ہے) فاسد جانتا ہے؛ لہذا

ایسے قول کو اختیار کرنا اولیٰ ہے جو دونوں کے نزدیک متفقہ طور پر صحیح ہو، اور اس کے مقابلہ میں ایسا قول اختیار کرنا بہتر نہیں ہے جو کسی ایک کے نزدیک صحیح نہ ہو۔ (ولکن فی شرح المنیۃ فی بحث مس المصحف ص: ۸۷ س: ۴) – إِلَى قُولِهِ – عَنْ أَحْدَهُمَا فَاسْدُ انتہیٰ۔ ص: ۸۷ س: ۸)

(۳) علامہ ابن عبد الرزاق<sup>رحمۃ اللہ علیہ</sup> (المتونی ۱۱۳۸ھ) نے شرح درختار میں لکھا ہے کہ جمہور کے نزدیک مختار اور مشہور یہی ہے کہ ”لفظ اصح“، ”لفظ صحیح“ سے زیادہ موکد ہے۔ (و ذکر العلامۃ ابن عبد الرزاق ص: ۸۷ س: ۸) – إِلَى قُولِهِ – أَنَّ الْأَصْحَاحَ أَكْدَمُ الْصَّحِیحِ۔ ص: ۸۷ س: ۹)

(۴) علامہ بیری<sup>رحمۃ اللہ علیہ</sup> (المتونی ۱۰۹۹ھ) نے ”الطریف المنهجی“ کے حوالہ سے حاشیہ بزدوجی کی یہ صراحت نقل کی ہے کہ کسی امام کا کسی قول کے بارے میں ہو الصحيح کہنا اس بات کا تقاضا کرتا ہے کہ اس کے علاوہ قول صحیح نہیں ہے، جب کہ کسی قول پر ”اصح“، ”کا اطلاق کرنا“ اس بات کی دلیل ہے کہ اس کا مقابل قول کم از کم صحیح ہے۔ علامہ بیری فرماتے ہیں کہ میں کہتا ہوں کہ اصح کے مقابلہ میں صحیح ہونے کی بات اغلب اور کثر کے اعتبار سے ہے، ورنہ کبھی کبھی اصح کے مقابلہ میں روایت شاذہ (غیر صحیح) بھی آئی ہے، جیسا کہ شرح مجمع سے معلوم ہوتا ہے۔ و فی شرح الكبیری قال فی الطریف المنهجی

ص: ۸۷ س: ۹) – إِلَى قُولِهِ – كَمَا فی شرح المجمع انتہیٰ۔ ص: ۸۸ س: ۳)

(۵) صاحب درختار علامہ حسکلی<sup>رحمۃ اللہ علیہ</sup> (المتونی ۱۰۸۸ھ) نے مذکورہ بالا اقوال ذکر کرنے کے بعد لکھا ہے کہ پھر میں نے ”آداب المفتی“ (ابن الصلاح) میں یہ دیکھا کہ اگر کسی روایت کے بعد کسی قابل اعتماد کتاب میں اصح، اولیٰ، ارفق یا اس جیسے الفاظ لکھے ہوں تو مفتی کو اختیار ہے کہ چاہے اس روایت پر فتویٰ دے یا اس کی مخالف روایت کو اختیار کرے، (یعنی دونوں صحیح ہیں) لیکن جب کسی روایت کے ساتھ ہو الصحيح، ہو المأخذ، علیہ الفتوى یا یہ یفتی جیسے الفاظ لگائے جائیں تو اب اس کی مخالف روایت کو لینا درست نہیں، البته اگر الگ الگ دو کتابوں میں الگ الگ دو اقوال کے لئے ایک ہی طرح کے الفاظ صحیح استعمال ہوئے ہوں، مثلاً ایک روایت کو صاحب ہدایہ نے ہو الصحيح کہا ہو، وراس کے مخالف روایت کو اکافی میں ہو الصحيح کہہ دیا گیا ہو تو ایسی صورت میں

بھی مفتی کو دونوں میں سے کسی پر بھی عمل کرنے کا اختیار ہوگا، اور جو اس کے نزدیک زیادہ قوی، زیادہ لائق اتباع اور مصلحت کے مناسب ہو اس پر فتویٰ دے سکتا ہے۔ وفی الدر المختار بعد نقلہ حاصل ما مر - ص: ۸۸ س: ۳ - إلى قوله - والأليق والأصلح انتهى۔ ص: ۸۸ ص: ۶)

**نبوت:** یہاں تک علامہ شامیؒ نے کیف ماتفاق مختلف علماء کی آراء بیان کی ہیں، آگے ان سب کا خلاصہ بیان کرتے ہیں:

## بحث کا خلاصہ

علامہ شامیؒ نے علماء اصول کی تصریحات کو سامنے رکھ کر الفاظ صحیح کے مراتب کو درج ذیل طریقہ پر بخض کیا ہے اور ہم نے ان تخلیصات کو آسانی کے لئے یونچ دئے گئے نقشہ میں الگ الگ تحریر کر دیا ہے۔ ساتھ میں شرح عقود رسم المفتی کی متعلقہ عبارت ذکر کی گئی ہے، چوں کہ بعض جملہ عبارت میں تقدیم و تاخیر ناگزیر تھی اس لئے غور سے ملاحظہ فرمائیں:

نمبر شمار	الفاظ صحیح	الفاظ	حکم	مثال
۱	دو متعارض روایتوں کی تصحیح ایک ہی طرح کے الفاظ سے کی جائے مثلاً دونوں طرف هو الصحيح یا هو الأصح کے الفاظ ہوں اور صحیح کرنے والے علماء کا درجہ بھی ایک ہو۔	مفتی کو اختیار ہوگا جس روایت پر چاہے فتویٰ دے۔	نہیں تمر (جب کہ ریقت ہو) تو اس سے غسل کے صحیح ہونے یا نہ ہونے میں مشائخ کا اختلاف ہے، ”کافی“ میں جواز کو ”ہو الاصح“ کہا ہے جب کہ الجامع الصغیر للحسامی میں عدم جواز پر ”ہو الاصح“ کا اطلاق کیا ہے۔ اب مفتی صورت حال دیکھ کر مذکورہ آراء میں سے جو رائے چاہے اختیار کر سکتا ہے۔ (التتر خانیہ ۲۲۷)	

وحاصل هذا كله أنه إذا صحق كل من الروايتين بلفظ واحد كان ذكر في كل واحدة منها هو الصحيح أو الأصح أو به يفتى، يخير المفتى. (شرح عقود رسم المفتى ص: ۸۸، س: ۷) وإن كان كل منها بالفظ الأصح أو الصحيح فلا شبهة في أنه يختار بينهما إذا كان الإمام المصححان في رتبة واحدة. (شرح عقود رسم المفتى ص: ۸۸، س: ۱۸)

نمبر شار	الفاظ تصحیح	حكم	مثال
۲	دو متعارض اقوال کی تصحیح ایک ہی طرح کے الفاظ سے کی جائے مگر ایک تصحیح کرنے والے فقیہ کا درجہ دوسرے سے بڑھا ہوا ہو، مثلاً ایک قول خانیہ میں اور دوسرا برازیہ میں ہو جب کہ قاضی خاں کا درجہ صاحب برازیہ سے افضل ہے۔	اوپرے درجہ کے فقیہ کی تصحیح معتبر ہو گی، مثلاً برازیہ کے مقابلہ میں خانیہ کی تصحیح کا اعتبار جو زکر کا فتویٰ دیا ہے ان دونوں میں شمس الائمه کا درجہ بلند ہے لہذا انہیں کے قول کو ترجیح ہو گی، چنانچہ فتاویٰ خانیہ میں یہی لکھا گیا ہے۔ (التذخیر خانیہ / ۲۶۸)	

اما لو کان أحدهما أعلم فإنه يختار تصحیحه كما لو کان أحدهما في الخانیة  
والآخر في البرازیہ مثلاً فإن تصحیح قاضی خاں أقوى فقد قال العلامہ قاسم إن  
قاضی خاں من أحق من يعتمد على تصحیحه. (شرح عقود رسم المفتى ص: ۸۸، س: ۱۹)

نمبر شار	الفاظ تصحیح	حكم	مثال
۳	متعارض اقوال میں تصحیح کے لئے الگ الگ الفاظ استعمال کئے جائیں لیکن ان میں ایک طرف	لفظ فتویٰ والے قول کو ترجیح ہو گی اس لئے کہ یہ لفظ، نکالا جائے گا انہیں؟ ایک قول (جسے	موتی نگنے کے بعد کسی شخص کا انتقال ہو جائے اس کا پیش شق کر کے موتی

<p>توبہ الابصار میں صحیح کہا گیا ہے) یہ ہے کہ اس شخص کا پیٹ شق کر کے موتی نکلا جائے گا اور دوسرا قول (جسے بنازیر میں علیہ الفتویٰ کہہ کر نقل کیا ہے) یہ ہے کہ پیٹ شق نہیں کیا جائے گا، یہاں علیہ الفتویٰ والا قول راجح ہوگا۔ (درمختار کریما (۲۸۱۹)</p>	<p>صحت اور مفتی بہ دونوں معنی پر DAL ہے۔</p>	<p>لفظ فتویٰ ہو اور دوسری طرف دوسرے الفاظ ہوں۔</p>	
--	--	--	--

وإذا اختلف اللفظ فإن أحدهما لفظ الفتوى فهو أولى لأنه لا يفتى إلا بما هو صحيح وليس كل صحيح يفتى به لأن الصحيح في نفسه قد لا يفتى به لكون غيره أوفق للتغيير الزمان وللضرورة ونحو ذلك فما فيه لفظ الفتوى ليتضمن شيئاً: أحدهما إذن بالفتوى به، والأخر صحته لأن الافتاء به تصريح له بخلاف ما فيه لفظ الصحيح أو الأصح. (شرح عقود رسم المفتى ص: ۸۸، س: ۸)

مثال	حكم	اللفاظ <sup>النحو</sup>	نمبر شمار
<p>عورت کب آئسے ہو گی؟ اس بارے میں علیہ الفتوىٰ کے ساتھ ۵۵ رسال کی عمر ذکر کی گئی ہے، جب کہ مختص فتویٰ کے لفظ سے ۵۰ رسال کی صراحت کی گئی ہے، بریں بنا ”علیہ الفتوىٰ“ والی مقدار مفتی بہ ہو گی۔ (درمختار کراچی ۱۹۶۵، شامی زکریا ۱۹۶۵/۵)</p>	<p>علیہ الفتوىٰ اور بہ یفتی کے الفاظ کو ترجیح ہو گی کیوں کہ اس میں حصر کے معنی پائے جاتے ہیں، اور ”علیہ عمل الآمة“ تو اس سے بھی اعلیٰ ہیں کیوں کہ اس سے اجماع کی طرف اشارہ ملتا ہے۔</p>	<p>دونوں طرف فتویٰ کے الفاظ ہوں، لیکن ایک طرف ”الفتویٰ علیہ“ اور دوسری طرف حصر کے ساتھ ”علیہ الفتویٰ“ یا ”بہ یفتی“ کے الفاظ ہوں۔</p>	۲

وإن كان لفظ الفتوى في كل منهما فإن كان أحدهما يفيد الحصر مثل به يفتى أو عليه الفتوى فهو الأولى ومثله بل أولى لفظ عليه عمل الأمة لأنه يفيد الإجماع. (شرح عقود رسم المفتى ص: ۸۸، س: ۱۱)

نمبر شمار	الفاظ تصحیح	حكم	مثال
۵	لفظ فتوی کسی جانب نہ ہوا اور دو الگ الگ کتابوں میں ایک قول کو صحیح کہا گیا ہے۔	اس بارے میں فقہاء کا اختلاف ہے بعض لوگ اصح کو راجح کہتے ہیں اور بعض صحیح ہیں کہ وہ مطلق نیت سے درست گیا کہ وہ مطلق نیت سے بھی ادا ہو جائے گی، تو مشہور قول کے اعتبار سے اصح قول کو ترجیح ہوگی اسی کو ترجیح دی ہے۔ (صغری ۱۳۵)	تراویح مطلق نیت سے ادا ہوگی یا نہیں؟ اس بارے میں دو قول ہیں: اصح کہہ کر یہ نقل کیا گیا ہے۔

وإن لم يكن لفظ الفتوى في واحد منها فإن كان أحدهما بلفظ الأصح والأخر بلفظ الصحيح فعلى الخلاف السابق هذا فيما إذا كان التصحيحان في

كتابيين. (شرح عقود رسم المفتى ص: ۸۸، س: ۱۲)

نمبر شمار	الفاظ تصحیح	حكم	مثال
۶	لفظ فتوی کسی جانب نہ ہوا اور ایک ہی کتاب میں ایک قول کو اصح اور دوسرے کو صحیح کہا گیا ہو	بالاتفاق اصح کو ترجیح ہوگی، اس لئے کہ یہاں صحیح کا	مثال دریافت نہیں ہو سکی۔ (مرتب)

	مقابلہ اصح سے ہے (الایہ کہ مسئلہ میں تیرا قول کوئی فاسد ہو)	اور دونوں قول کا قائل ایک ہی امام ہو۔
--	--	--

أما لو كانا في كتاب واحد من إمام واحد فلا يتأنى الخلاف في تقديم الأصح على الصحيح لأن أشعار الصحيح بأن مقابلة فاسد لا يتأنى فيه بعد التصرير بأن مقابلة أصح إلا إذا كان في المسألة قول ثالث يكون هو الفاسد.

(شرح عقود رسم المفتى ص: ۸۸: س: ۱۴) وفيه: وكذا لو صرخ في إحدىهما بالأصح وفي الأخرى بالصحيح فإن الأولى الأخذ بالأصح. (شرح عقود رسم المفتى ص: ۸۹: س: ۳)

نمبر شمار	الفاظ تصحیح	حکم	مثال
۷	مصنف نے مسئلہ کے بارے میں دو اماموں کی تصحیح نقل کرنے کے بعد یہ کہا ہو کہ ”فلاں کی تصحیح فلاں سے اصح ہے۔“	بالاتفاق اصح قول کی ترجیح ہوگی۔	لتنی تاخیر سے شفعہ کا حق ساقط ہو جاتا ہے؟ اس بارے میں ظاہر الروایت یہ ہے کہ خواہ لتنی بھی تاخیر ہو جائے حق شفعہ ساقط نہ ہوگا، ہدایہ اور کافی میں اسی قول کو مفہتی بہ کہا گیا ہے، اور دوسری طرف امام محمدؐ کا قول یہ ہے کہ بلا عذر ایک مہینہ کی تاخیر سے حق شفعہ ساقط ہو جائے گا، قاضی حال اور بہت سے فقهاء نے امام محمدؐ کے قول کو مفتی برقرار دیا ہے

اور شریعت میں بہان کے حوالہ سے لکھا ہے کہ یہی قول دوسرے قول یعنی ہدایہ اور کافی کی تصحیح کے مقابلہ میں اصح ہے۔ (شامی کراچی، شامی زکر ۳۳۱/۹، ۲۲۲/۶، لہذا یہی قول راجح ہوگا۔

وَكَذَا لَوْذُكَ تَصْحِيحُهُمْ عَنْ إِمَامَيْنِ ثُمَّ قَالَ إِنْ هَذَا التَّصْحِيحُ الثَّانِي أَصْحَحٌ مِّنَ الْأَوَّلِ مَثلاً فَإِنَّهُ لَا شَكَ أَنْ مَرَادَهُ تَرْجِيعُ مَا عَبَرَهُ عَنْهُ بِكُونَتِهِ أَصْحَاحًا وَيَقِعُ ذَلِكُ كَثِيرًا فِي تَصْحِيحِ الْعَالَمَةِ قَاسِمٍ۔ (شرح عقود رسم المفتی ص: ۸۸)

نمبر شمار	الفاظ تصحیح	حكم	مثال
۸	ایک طرف اصح، اولی، ارفق جیسے الفاظ ہوں اور دوسری طرف تصحیح کا کوئی بھی لفظ نہ ہو۔	مفتی کو فی الجملہ اختیار ہے لیکن مقدار میں کئی مرتبہ قے ہوئی تو وہ کیا ناقض وضو ہوگی؟ اس بارے میں امام ابو یوسفؓ کا لینا بہتر ہے کیوں کہ اس میں زیادتی سب کو جمع کر کے دیکھا جائے گا، اگر وہ منہ بھر کے برابر ہوگی تو وضو ٹوٹے گا ورنہ نہیں، اور امام محمدؓ کا قول یہ ہے کہ قے کے سبب یعنی	

متلاہٹ کو دیکھا جائے گا یعنی ایک مرتبہ کی متلاہٹ میں جتنی بھی قے ہو خواہ ایک مجلس میں ہو یا الگ الگ اس کا اعتبار کیا جائے گا، اور اگر سبب بدل جائے تو اعتبار نہ ہوگا اس مسئلہ میں فقہاء نے صرف امام محمدؐ کے قول کو اصح کہا ہے لہذا وہی مفتی ہے ہوگا۔ (ابحر الرائق ۲۶-۲۷)

وكذا يتخير إذا صرخ تبصريح إحدىهما فقط بلفظ الأصح أو الأحوط أو الأولى أو الأرفق وسكت عن تصحيح الأخرى فإن هذا اللفظ يفيد صحة الأخرى لكن الأولى الأخذ بما صرخ بأنها الأصح لزيادة صحتها. (شرح عقود رسم المفتى ص: ۸۹)

## تمرين: ۲۷

- الف: مثالوں کے مراجع کا سمجھ کر مطالعہ کریں۔
  - ب: اور ہر صورت کی ایک ایک مثال مزید لکھیں۔
- (یہ خلاصہ علامہ شامیؒ نے بطور تمہید بیان کیا ہے، آگے اصول کے تحت ان صورتوں کے مزید تفصیح کی جارہی ہے، اور خاص طور پر یہ بتایا جا رہا ہے کہ صحیح برابر ہونے کی صورت میں جو اختیار مفتی کو دیا گیا ہے وہ مطلق نہیں ہے، بلکہ اس میں بھی ترجیح کے لئے مختلف قرائیں پائے جاتے ہیں۔  
أصول ملاحظہ فرمائیں:)

## (۳۱) تصحیح میں تعارض ہو تو کیا کریں؟

اگر مسئلہ کے متعارض اقوال میں ہر قول کی تصحیح کی گئی ہو تو مفتی کو اختیار ہو گا کہ جس قول پر چاہے عمل کرے، البتہ اگر درج ذیل دس وجوہ ترجیح میں سے کوئی وجہ پائی جائے تو یہ اختیار نہ رہے گا بلکہ وجہ ترجیح کے مطابق عمل کرنا ہو گا، وجوہ ترجیح یہ ہیں:

- (۱) ایک طرف لفظ تصحیح اور دوسری طرف اصح ہونے کی صورت میں مشہور قول کے مطابق لفظ اصح کو ترجیح ہو گی۔
- (۲) ایک طرف لفظ فتویٰ اور دوسری طرف دیگر الفاظ ہونے کی شکل میں لفظ فتویٰ کو ترجیح ہو گی۔
- (۳) تصحیح دونوں طرف برابر ہو تو جس طرف متون کا قول ہو گا اسے ترجیح ہو گی۔
- (۴) متعارض اقوال میں اگر ایک قول امام صاحبؒ کا اور دوسرा قول صاحبینؒ وغیرہ کا ہو تو امام صاحبؒ کا قول راجح ہو گا۔
- (۵) مساوی تصحیح کی صورت میں ظاہر الروایہ کے قول کو لینا اولیٰ ہو گا۔
- (۶) متعارض تصحیحات میں جس تصحیح کے قائل اکثر مشائخ ہوں اسے اختیار کیا جائے گا۔
- (۷) برابر تصحیح میں اگر قیاس اور احسان دونوں جہتیں ہوں تو احسان کو ترجیح ہو گی۔
- (۸) متعارض روایتوں میں جو قول وقف کے لئے زیادہ نفع بخش ہو گا اسے ترجیح دی جائے گی۔

- (۹) مساوی درجہ کے اقوال میں جو قول اہل زمانہ کے عرف و رواج  
کے موافق اور لوگوں کے لئے آسانی کا باعث ہوا سے اختیار کیا جائے گا۔
- (۱۰) تصحیح برابر ہونے کے وقت دلیل کے اعتبار سے زیادہ مضبوط  
قول کو لے کر دوسرے کو ترک کر دیا جائے گا۔  
حاصل یہ کہ تعارض کے وقت میں کیف ماتفاق کسی ایک قول کو نہیں لیں  
گے، بلکہ وجوہ ترجیح پر غور کرنا ضروری ہوگا۔

وإن تجد تصحیح قولین ورد ص: ۸۹ س: ۴ - إلی قوله - أو قول الإمام  
أو ظاهر الروایة الخ. ص: ۹ س: ۹)

## ترتیب وارمثائیں

### (۱) صحیح بمقابلہ اصح :

○ فجر کی سنت تھجد کی نیت سے پڑھنا: اگر کوئی شخص یہ سمجھے کہ ابھی صح  
صادق نہیں ہوئی اور وہ تھجد کی نیت سے دور کعت پڑھ لے، بعد میں اسے معلوم ہوا کہ جس وقت اس  
نے نماز ادا کی ہے صح صادق ہو چکی تھی تو مذکورہ دور کعتیں فجر کی سنتوں کے قائم مقام ہوں گی یا  
نہیں؟ اس بارے میں مذہب میں دوروایتیں پائی جاتی ہیں:

الف: یہ دور کعتیں فجر کی سنتوں کی جگہ معتبر ہوں گی اور از سرنو سنت پڑھنے کی ضرورت نہ  
ہوگی، اس روایت کو صحیح کے لفظ کے ساتھ ذکر کیا گیا ہے۔

ب: لیکن خلاصہ اور تجھیں وغیرہ میں اس قول کو اصح کہا گیا ہے، کہ یہ نماز سنت فجر کے قائم  
مقام نہ ہوگی، اور اسے از سرنو فجر کی سنتیں ادا کرنی ہوں گی، دیکھئے یہاں صحیح اور اصح کا مقابلہ ہو رہا  
ہے لہذا اصح والی روایت کو ترجیح ہوگی۔ (مستفاداً بالحرارائق ۲۸۲، شامی زکریا بک ڈپوڈ یونیورسٹی ۲۵۵)

## (۲) صحیح بمقالہ علیہ الفتوی :

○ استهلاک مبیع کے بعد عیب پر مطلع ہونا: اگر میع ماکول کو کھانے کے بعد مشتری عیب پر مطلع ہواتو:

الف: امام ابوحنینؓ کے نزدیک اب عیب کی بنابرائے باعث سے قیمت کے کسی بھی حصے کے رجوع کا حق نہ ہوگا، اس قول کو صاحب ذخیرہ نے هو الصحيح کہا ہے۔

ب: اور حضرات صاحبین کا مذہب یہ ہے کہ مذکورہ صورت میں وہ نقصان سے رجوع کرے گا اور صاحبینؓ کی ایک روایت یہ ہے کہ جو حصہ کھالیا اس کا نقصان لے گا اور ما بھی کو بعینہ لوٹادے گا۔ یہاں صاحبینؓ کے دونوں اقوال کو مشائخ نے امام صاحبؓ کی رائے کے مقابلہ میں ”علیہ الفتوی“، کے لفظ سے ذکر کیا ہے، لہذا اسی پر فتویٰ دیا جائے گا۔ (شامی کراچی ۲۲/۳، شامی زکریا ۱۹۳/۷)

## (۳) ترجیح قول متن :

○ قدیم قضاشدہ نمازوں کے ذریعہ ترتیب کا سقوط: اگر چھ سے زائد نمازوں قدمی زمانہ سے قضاشدہ ہوں، پھر آدمی پکنمازی بن گیا ہو، اب اگر اس کی کوئی نماز چھوٹ جائے اور اس کو پرانی نمازوں کا فوت ہونا بھی یاد ہوتا تو:

الف: ایک قول یہ ہے کہ اسے پہلے آخری فوت شدہ نماز پڑھنی ہوگی، اس کے بعد وقیہ نماز ادا کرے گا۔

ب: دوسرا قول یہ ہے کہ چوں کفوانیت کی تعداد زیادہ ہے لہذا اسی قضاشدہ نماز میں ترتیب ملحوظ نہ ہوگی اور اس کی ادائیگی سے قبل وقیہ نماز پڑھنا درست ہوگا۔

مذہب میں یہ دونوں اقوال مصحح اور مفتی ہے ہیں، لیکن متون سے دوسرے قول کی تائید ہوتی ہے لہذا اسی پر عمل کیا جائے گا۔ (شامی کراچی ۲۶/۲، شامی زکریا ۵۲/۲)

## (۴) ترجیح قول امام :

○ وقت ظہر کے بارے میں امام صاحبؓ کے قول کی ترجیح: وقت ظہر

کے ختم ہونے کے متعلق امام ابوحنیفہ کا مشہور قول یہ ہے کہ سایہِ اصلی کے دو مثل ہو جانے پر اس کا وقت ختم ہوتا ہے جب کہ امام صاحبؒ کی ایک روایت اور صاحبینؒ وائمهٗ ثلاثہ کا مذہب یہ ہے کہ مثل اول پر وقت ظہر ختم ہو جاتا ہے، ان دونوں مذاہب کی صحیح مشائخ احناف نے کی ہے، اور ہر ایک جانب بڑے بڑے اکابر مذہب کا رجحان ہے، لیکن بعد کے علماء نے مذہب امام کی ترجیح کی رائے اپنائی ہے۔ (شامی کراچی ۳۵۶، شامی زکریا ۲۱۳، الجھار الرائق ۲۲۵)

### (۵) ظاہر روایت کو ترجیح :

○ ولی کے لئے نمازِ جنازہ میں تیمم کا جواز : اگر نمازِ جنازہ تیار ہو اور وضو کرنے میں اس کے چھوٹ جانے کا اندیشہ ہو تو آیا ولی میت کے لئے نمازِ جنازہ ادا کرنے کی غرض سے تیمّم کی اجازت ہے یا نہیں؟ تو اس بارے میں مذہب میں دو قول ہیں:

الف: ولی کے لئے تیمّم کی اجازت نہیں، کیوں کہ اس کے حق میں نمازِ جنازہ فوت نہیں ہو رہی ہے، اس لئے کہ وہ بعد میں نماز خود پڑھنے کا مجاز ہے ہدایہ میں اس کی صحیح کی گئی ہے۔  
 ب: دوسرا قول یہ ہے کہ ایسے وقت میں ولی کے لئے بھی تیمّم کی گنجائش ہے، یہی قول ظاہر الروایہ ہے، اور علامہ سرحتی نے بھی اس کی صحیح فرمائی ہے، لہذا مفتیان کے لئے اسی راجح قول کو اختیار کرنا لازم ہے۔ (لطحاوی علی المرائق ۶۳)

### (۶) اکثر مشائخ کے قول کا اعتبار :

○ قعده اولیٰ میں تشہد کے بعد کتنی تاخیر کرنے سے سجدہ سہو واجب ہوگا؟ قعده اولیٰ میں اگر تشہد کے بعد درود شریف شروع کر دے تو کہاں تک پڑھنے سے سجدہ سہو واجب ہوگا؟ اس بارے میں دو قول مصحح ہیں:

الف: اللہم صل علیٰ محمد تک پڑھنے سے سجدہ سہو واجب ہوگا یہ ظاہر مذہب ہے۔  
 ب: اللہم صل علیٰ محمد و علیٰ آل محمد تک پڑھنے سے سجدہ کا وجوب ہوگا۔  
 یہ قول قاضی امام نے ذکر کیا ہے اور اکثر مشائخ نے اسے اختیار کر لیا ہے، اس لئے اب یہی راجح

ہے۔ (شامی کراچی ارالہ، شامی زکر یا ۲۲۰/۲۱۵)

## (۷) استحسان کی ترجیح :

○ نمازِ جنازہ کے بغیر میت کو دفن کرنا: اگر کسی شخص نمازِ جنازہ اور غسل کے بغیر قبر میں دفن کر دیا گیا تو اس کی نمازِ جنازہ پڑھنے کے بارے میں دو رائے ہیں:

الف: قیاس کا تقاضا یہ ہے کہ اس کی نمازِ جنازہ نہ پڑھی جائے، ”غاية البيان“ میں اسی قول کی تصحیح کی گئی ہے۔

ب: نمازِ جنازہ پڑھی جائے تا آں کہ میت کے پھولنے اور بھٹنے کا یقین نہ ہو جائے یہ قول استحسانی ہے اور مذہب میں معتمد اور مفتیٰ ہے۔ (درجتار ۲۲۲/۲، شامی زکر یا ۳۲۵/۳، ططاوی علی المرافق ۳۲۲)

## (۸) وقف کے لئے نفع بخش قول کی ترجیح :

○ موقوفہ زمین کا عشر کون ادا کرے گا؟: موقوفہ زمین کا عشر مال وقف سے ادا کیا جائے گا یا مستأجار کرے گا؟ اس بارے میں مذہب میں دو قول ہیں: امام صاحبؒ کا قول یہ ہے کہ عشر کی ادائیگی بذمہ وقف ہوگی، عام طور پر فقهاء نے یہی قول اختیار کیا ہے۔ جب کہ صاحبینؒ کے مذہب کے مطابق عشر مستأجار کے ذمہ ہوگا۔ حاوی القدسی نے صاحبینؒ کے قول پر فتویٰ دیا ہے۔ ان دونوں اقوال کو سامنے رکھ کر علامہ شامیؒ نے افع للوقف کے اعتبار سے صاحبینؒ کے قول کو اختیار کرنے کا مشورہ دیا ہے۔ (شامی زکر یا ۳۲۷/۲، شامی کراچی ۳۳۷/۲، قبل مطلب هل یجب العشر علی المزارعین)

## (۹) زمانہ کے موافق اور اسہل قول اختیار کرنا :

○ غله کے ڈھیر کی بیع کا مسئلہ: اگر کسی شخص نے غله کا ڈھیر بیچا کہ ہر کلو مثلاً دس روپیہ کا ہے تو اس بارے میں مذہب میں دو قول ہیں:

الف: امام صاحبؒ کی رائے یہ ہے کہ ایسی صورت میں صرف ایک کلو میں بیع صحیح ہوگی، والا یہ کہ مجلس کے اندر اندر پورا ڈھیر تول دیا جائے تو سب میں صحیح ہو جائے گی، مگر مشتری کو اختیار ہوگا کہ

چاہے سب لے یا سب چھوڑ دے، اسی قول کو علامہ ابن الہام<sup>ؓ</sup> اور علامہ قاسم<sup>ؓ</sup> وغیرہ نے قوت دلیل کی بنا پر انحصار کہا ہے۔

ب: اور حضرات صاحبین<sup>ؒ</sup> کی رائے یہ ہے کہ اس صورت میں مطلقاً بیع صحیح ہے، خواہ مجلس عقد میں وزن کر لیا جائے یا مجلس کے بعد کیا جائے اور وزن معلوم کرنے کے بعد کسی کو اختیار بھی نہ ملے گا، اسی قول کو درمختار میں بھی یفتی کہہ کر نقل کیا ہے اور شامی<sup>ؓ</sup> نے شربلا لیہ اور نہر وغیرہ سے بھی اس کی ترجیح نقل کی ہے، ان دونوں اقوال میں سہولت کی بنا پر صاحبین کے قول کو مفتی بہ بتایا گیا ہے، اگرچہ قوت دلیل کے اعتبار سے امام صاحب<sup>ؒ</sup> کا قول مضبوط ہے، علامہ شامی<sup>ؓ</sup> اس بحث کے اخیر میں لکھتے ہیں: وظاہرہ ترجیح التیسیر علی فوۃ الدلیل۔ (شامی کراچی ۵۴۰۱، شامی زکریا ۶۴۷)

### (۱۰) قوت دلیل کا لحاظ :

○ تکبیرات عیدین کا ایک مسئلہ: عیدین کی نماز میں اگر مقتدی اس حال میں جماعت میں شریک ہو کہ امام تکبیرات واجبہ کہہ کر قراءت شروع کر چکا تھا تو اس مقتدی کو فوراً تکبیرات کہہ لینی چاہئیں، لیکن اگر اس نے تکبیرات نہیں کہیں تا آں کہ امام رکوع میں چلا گیا تو اب وہ تکبیرات کب کہے؟ اس بارے میں دو قول ہیں:

الف: وہ حالت قیام میں تکبیرات نہیں کہے گا بلکہ رکوع میں جا کر تکبیر کہے گا، صاحب درمختار نے اسے صحیح کہا ہے۔

ب: وہ رکوع میں جا کر بھی تکبیر نہیں کہے گا، بحر اور نہر میں اسی قول کو صحیح کہا ہے۔

اب تصحیح مساوی الفاظ سے ہو گئی، لیکن صاحب محیط نے دوسرے قول کو راجح قرار دیا ہے اور علت یہ بیان کی گئی ہے کہ یہاں کوتاہی خود مقتدی کی طرف سے پائی گئی ہے۔ (شامی کراچی ۵۷۲، شامی زکریا ۵۶۳)

### تمرین: ۲۸

○ الف: ہر مثال کے متعلق کم از کم سرفہری عبارات مشق کی کاپی میں نقل کریں۔

○ ب: ہر اصول کے متعلق ایک ایک مثال اور تلاش کر کے لکھیں۔

## (۳۲) مفہوم مخالف کا اعتبار

متاخرین احناف کے نزدیک فقہی روایات، عقلی دلائل اور لوگوں کی آپسی بول چال میں مفہوم مخالف کا اعتبار کیا جاسکتا ہے، بشرطیکہ اس کے خلاف کوئی صریح حکم نہ پایا جائے۔

واعمل بمفہوم روایات اُتیٰ - ما لم يخالف لصريح ثبتنا۔ (عقود رسم

المفتى ص: ۹۰ س: ۹)

### مفہوم کیا ہے؟

جاننا چاہئے کہ حنفیہ کے نزدیک تخریج و استنباط کے چار طریقے مقرر ہیں:

(۱) عبارۃ النص: جس مقصد کے لئے کلام کا صدور ہوا ہے۔ ما سیق الکلام

لأجله۔ (کشف الأسرار ۲۱۰۱۲)

(۲) اشارة النص: ظلم کلام سے جو حکم ثابت ہو اگرچہ اس کے لئے کلام نہ لایا گیا ہو۔ ما

ثبت بنظمہ مثل الأول إلا أنه غير مقصود وما سیق الکلام له۔ (کشف الأسرار ۲۱۰۱۲)

(۳) اقتضاء النص: جس معنی کا مراد لینا حکم منصوص کی تکمیل کے لئے شرعاً ضروری

ہو۔ ودلالة الشرع على أن هذه الدلالة لا تصح إلا بالزيادة وهو الاقتضاء۔ (کتاب

التحقيق ۴۸، ومثله في التوضيح ۱۸۲، کشف الأسرار ۲۳۵۱۲)

(۴) دلالة النص: بعض لغت سمعتے سے جس کے معنی سمجھ میں آجائیں۔ ما ثبت

بمعنى النظم لغة۔ (کشف الأسرار ۲۱۹۱۲)

جب کہ شافعیہ کے نزدیک استنباط کا مدار و طریقوں پر ہے:

(۱) منطق النص: محل نطق میں لفظ کا کسی حکم پر دلالت کرنا۔ دلالة المنطق ما

دل عليه اللفظ في محل النطق۔ (کشف الأسرار ۲۵۳۱۲)

(۲) مفہوم النص : لفظ سے غیر منطق کے لئے کوئی حکم ثابت کرنا۔ ما دل علیہ

اللفظ لافی محل النطق۔ (کشف الاسرار ۲۵۳۱۲)

تو اصالۃ مفہوم اور منطق کی اصطلاح شافعیہ کی مقرر کردہ ہے، ان کے نزدیک منطق  
النص کے ذیل میں ہمارے مذکورہ تین طریقے: عبارۃ النص، اشارۃ النص اور اقتضاء  
النص بھی آجاتے ہیں۔

## مفہوم کی بنیادی فتمیں

اور مفہوم کی اولاد و فتمیں ہیں:

### (۱) مفہوم موافق :

یعنی لفظ کا محض لغت جان لینے سے بغیر کسی غور و فکر کے اس بات پر دلالت کرنا کہ جو حکم  
منطق کا ہے وہی حکم مسکوت عنہ کا بھی ہے، مثلاً ارشاد ربانی: وَلَا تَقْرُنْ لَهُمَا أُفِّ وَلَا تَنْهَرْ  
ہُمَا۔ (بنی اسرائیل ۲۳) سے یہ استدلال کرنا کہ جس طرح والدین کو زبان سے تکلیف دینا حرام  
ہے اسی طرح مار پیٹ کر اذیت دینا بھی حرام ہے۔ ظاہر ہے کہ اس استدلال میں کسی غور و فکر اور  
اجتہاد کی ضرورت نہیں ہے بلکہ محض عربی زبان جان لینے سے ہی یہ معنی سمجھ میں آجاتے ہیں۔

### (۲) مفہوم مخالف :

یعنی لفظ سے یہ استدلال کرنا کہ جو حکم منطق کے لئے ثابت کیا جا رہا ہے اس کی نقیض غیر  
منطق کے لئے ثابت ہے (مثلاً کس کے قول: ”فِيْجَرِ كِيمَازْ فَرْضٌ هُوَ“ سے یہ سمجھنا کہ فجر کے علاوہ  
کوئی نماز فرض نہیں ہے)

ان دونوں قسموں میں سے پہلی قسم یعنی مفہوم موافق یعنہ وہی ہے جسے حفیہ اپنی اصطلاح  
میں دلالۃ النص کے نام سے تعبیر کرتے ہیں۔ قال فی رد المحتار: وہ لذ ایسی عندا  
دلالة النص وهو معتبر اتفاقاً۔ (رد المحتار ۱۱۰۱، شامی زکریا ۲۲۹۱)

انہ کے نزدیک معتبر ہے، اور شرح عقود رسم امفتی کی عبارت: واعتبار القسم الأول من القسمین متفق عليه۔ (ص: ۹۰، س: ۱۴) سے یہی مراد ہے۔ اور دوسری قسم یعنی مفہوم مخالف ہے احناف ”تخصیص الشی بالذکر“ کی اصطلاح سے تعبیر کرتے ہیں وہ حنفیہ کے نزدیک اکثر نصوص شرعیہ میں معتبر نہیں ہے، جب کہ شافعیہ کے نزدیک اس کی بعض اقسام کا مطلقاً اعتبار کیا جاتا ہے۔ (تفصیل آگے آرہی ہے) واعلم أن المفهوم قسمان ص: ۹۰ س: ۱۰: - إلى قوله - على ثبوت نقیض حكم المنطق المسكوت. ص: ۹۰ س: ۱۲:

### مفہوم مخالف کی اقسام

مفہوم مخالف کی چند مشہور قسمیں درج ذیل ہیں:

#### (۱) مفہوم صفت :

یعنی منصوص علیہ کی مکانہ صفات میں سے حکم کو کسی ایک صفت کے ساتھ خاص کر دینے سے یہ استدلال کرنا کہ اس صفت کی غیر موجودگی میں مذکورہ حکم کا وجود نہ ہو گا۔ مثلاً: فی الغنم السائمة زکوة سے یہ حکم مستبط کرنا کہ غیر سائمه (گھر پر چارہ کھانے والی) بکریوں پر زکوٰۃ نہیں ہے۔

#### (۲) مفہوم شرط :

یعنی کسی حکم کے کسی شرط کے ساتھ خاص کر دینے سے یہ سمجھنا کہ غیر مشروط کے لئے حکم مشروط کا مخالف حکم ثابت ہے، مثلاً ارشادِ بانی: وَإِنْ كُنَّ أُولَاتِ حَمْلٍ فَأَنْفَقُوهُنَّ عَلَيْهِنَّ (الطلاق) سے یہ دلیل پکڑنا کہ جو مطلقاً باستہ حاملہ نہ ہواں کا نفقہ شوہر پر لازم نہیں ہے۔

#### (۳) مفہوم غایت :

یعنی کسی انتہاء تک محدود حکم کے بارے میں یہ رائے قائم کرنا کہ انتہاء ختم ہوتے ہی ما قبل انتہاء حکم کی کل نقیض ما بعد انتہاء کے لئے ثابت ہو جائے گی۔ مثلاً آیت: فَإِنْ طَلَقَهَا فَلَا تَحُلُّ لَهُ مِنْ بَعْدِ حَتَّى تَنكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ۔ (البقرة) میں عدم حلیت کا حکم نکاح ثانی کی انتہاء تک محدود

ہے، اس سے یہ استدال کرنا کہ زنا کے نکاح ہوتے ہی ماقبل نکاح حکم (عدم حلیت) کی نقیض (حلیت) کا ثبوت ہو جائے گا اور جماعت کی شرط حلیت کے لئے نہ ہوگی۔

### (۴) مفہوم عدد :

جو حکم کسی خاص عدد کے ساتھ وارد ہواں سے یہ دلیل پکڑنا کہ عدد مذکور کے علاوہ میں اس حکم کی نقیض ثابت ہے، مثلاً: فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَانِينَ جَلْدَةً۔ (النور) سے یہ استدال کرنا کہ ۸۰ سے زائد کوڑے لگانے کی اجازت نہیں ہے۔

### (۵) مفہوم اقب :

یعنی حکم کو کسی اسم جامد (غیر مشتق) کے ساتھ متعلق کردینا مثلاً فی الغنم زکوٰۃ سے یہ بھنا کہ غنم کے علاوہ کسی جانور میں زکوٰۃ واجب نہیں ہے۔ وہ اقسام: مفہوم الصفة الخ۔ ص: ۹۰ س: ۱۲ - إلى قوله - كفى الغنم زكوة. ص: ۹۰ س: ۱۴)

**ہدایت:** اس بحث کی تفصیل کے لئے کتب اصول فقہ بالخصوص علامہ ابن امیر حاج الحلمی (المتون ۸۷۹ھ) کی "کتاب الترقی و التحریر" کا مطالعہ بہت مفید ہے۔ یہ کتاب علامہ کمال ابن الہمامؒ کی کتاب "التحریر فی علم الاصول" کی شرح ہے۔ اور شرح عقود رسم المفتی کی یہ بحث علامہ شامیؒ نے زیادہ تر اسی کتاب سے اخذ فرمائی ہے، جو کتاب کے ص: ۱۳۷ سے شروع ہو کر ص: ۱۸۰ تک چلی گئی ہے۔ (مرتب)

## اممہ کا اختلاف

مفہوم کی بنیادی قسموں میں اول قسم یعنی مفہوم موافق (جودالله انص کا دوسرا نام ہے) سمجھی علماء و فقهاء کے نزد یک نصوص شرعیہ وغیر شرعیہ ہر جگہ معتبر ہے، اور مفہوم مخالف کی اقسام میں مفہوم لقب تو کسی کے نزد یک معتبر نہیں البتہ اس کے علاوہ بقیہ چار قسمیں شافعیہ کے نزد یک معتبر ہیں۔ اسی بنا پر شافعیہ کے نزد یک مفہوم مخالف سے استدال کرتے ہوئے (مفہوم صفت کے اعتبار سے) گھر پر چارہ کھانے والے جانوروں پر زکوٰۃ فرض نہ ہونے (مفہوم شرط کے اعتبار سے) باشنا

غیر حاملہ کے لئے نفقہ واجب نہ ہونے (مفہوم غایت کے اعتبار سے) نکاح ثانی ہوتے ہی بغیر جماع کے مطلقہ ثلاثة شوہراول کے لئے حلال ہو جانے اور (مفہوم عدد کے اعتبار سے) حد قذف میں ۸۰ سے زائد کوڑے کی اجازت نہ ہونے (۱) کا قول کیا جانا چاہئے۔ (مگر یہاں یہ بات مخوض رہے کہ مفہوم مخالف کے قائلین کے نزدیک بھی یہ دلالت ظرفی ہے، لہذا اگر کوئی واضح دلیل اس دلالت کے برخلاف آجائے تو دلالت کو چھوڑ دیا جائے گا اور اس دلیل پر عمل کیا جائے گا۔ مثلاً مفہوم غایت سے یہ معلوم ہوا کہ مطلقہ ثلاثة نکاح ثانی کے بعد بغیر جماع کے شوہر کے لئے حلال ہو جائے، مگر اس کے خلاف ”حدیث عسلیہ“ وارد ہے؛ جس میں آنحضرت ﷺ نے وضاحت فرمادی کہ مطلقہ ثلاثة شوہراول کے لئے اس وقت تک حلال نہیں ہو سکتی جب تک کہ شوہر ثانی اس سے جماع نہ کرے۔ چنانچہ ارشادِ نبوی ہے: لا! حتیٰ تذوقی عسیلته و یذوق عسیلتک۔ (مسلم شریف حدیث: ۱۴۳۳) لہذا اس مسئلہ میں مفہوم مخالف کی دلالت کو نظر انداز کر کے حدیث پر عمل کرنا لازم ہو گا، یہی بثموں شافعیہ جمہور علماء کا مسلک ہے) (مرتب)

اس کے برخلاف احتفاظ کے نزدیک مفہوم مخالف کی کوئی بھی قسم اکثر نصوص شرعیہ میں معتبر نہیں ہے۔ (ہاں نصوص کے علاوہ دیگر لوگوں کے کلام میں اس کا اعتبار ممکن ہے۔) واعتبار القسم الأول من القسمين متفق عليه ص: ۹۰ س: ۱۴ - إلى قوله - و تمام تحقيقه في كتب الأصول. ص: ۹۰ س: ۲۱۷)

## ضروری تنبیہ:

اس بحث میں حفیہ کے نزدیک جہاں بھی نصوص شرعیہ میں مفہوم مخالف معتبر نہ ہونے کی بات آئی ہے، ہم نے وہاں اکثر کی تقدیم کی ہے۔ وجہ یہ ہے کہ مفہوم مخالف کے معترنہ ہونے کی بات کلی نہیں ہے، بلکہ اکثری ہے؛ کیوں کہ حنفی فقهاء و متكلّمین نے ان نصوص شرعیہ میں مفہوم مخالف کو (۱) واضح ہو کے ان میں سے بعض احکام حفیہ کے نزدیک بھی وہی ہیں جو شافعیہ کے یہاں ہیں مگر حفیہ نے مفہوم سے استدلال کر کے حکم نہیں لگایا بلکہ دیگر دلائل سے استنباط کیا ہے۔

معتبر مانا ہے جن کا تعلق عقوبات سے ہے۔ چنانچہ درمختار میں صاحب نہایہ کا یہ قول قہستانی کے حوالے سے نقل کیا گیا کہ المفہوم معتبر فی نص العقوبة کما فی قوله تعالیٰ: ”کَلَّا إِنَّهُمْ عَنْ رَبِّهِمْ يَوْمَئِذٍ لَمَحْجُوبُونَ“۔ (التطفیف) یعنی عقوبات سے متعلق نصوص میں مفہوم مخالف کا اعتبار ہے، مثلاً ارشاد خداوندی: ”کَلَّا إِنَّهُمْ عَنْ رَبِّهِمْ يَوْمَئِذٍ لَمَحْجُوبُونَ“ سے یہ استدلال کیا جاتا ہے کہ مومنین اللہ کے دیدار سے محروم نہیں رکھے جائیں گے، کیوں کہ اگر یہ معنی نہ لئے جائیں تو پھر کفار کے لئے ”حجب“ کی سزا کا کوئی مطلب ہی نہ رہے گا۔ علامہ شامیؒ درمختار میں لکھتے ہے:

اس لئے کہ علماء اہل سنت نے روایت باری تعالیٰ

کے جواز کے مجملہ دلائل میں اس آیت: ”کَلَّا إِنَّهُمْ عَنْ رَبِّهِمُ الْخَ كُبھی ذکر کیا ہے، باس طور کے روایت سے محرومی کو کافروں کے لئے سزا کے درجہ میں رکھا گیا اس سے مفہوم مخالف کے طریقہ پر یہ معلوم ہوا کہ اہل ایمان محبوب اور محروم نہیں رہیں گے کیوں کہ اگر وہ بھی اس محرومی میں کفار کی صفت میں ہوتے تو اسے کافروں کے لئے سزا نہ بنایا جاتا۔

لأن أهل السنة ذكروا من جملة

الأدلة على جواز رؤيتها تعالى في الآخرة هذه الآية حيث جعل الحجب عن الرؤية عقوبة للفجار فيفهم منه أن المؤمنين لا يحجرون وإلا لم يكن ذلك عقوبة للفجار۔ (شامی ۱۱۱۱)

## مفہوم مخالف کہاں معتبر ہے؟

اگرچہ حنفیہ کا ظاہر نہ ہب مفہوم مخالف کے بارے میں یہ ہے کہ اس کا کہیں بھی اعتبار نہیں ہے، لیکن متاخرین علماء کی صراحتوں کے بوجب فقہی روایات اور لوگوں کی عام بول چال میں مفہوم مخالف کی تمام اقسام (بسمول مفہوم لقب) کا اعتبار کیا گیا ہے۔ (درمختار ۱۱۰)

شیخ جلال الدین خبازی (المتومنی ۲۹۱ھ) نے نہش الشعیر کرداری (المتومنی ۶۳۲ھ) سے نقل کیا ہے کہ عموماً حضرت شارع اللہ علیہ السلام کے خطابات میں کسی شیئ پر خاص طور پر حکم لگانا اس کے

علاوه سے حکم کی نفی کی دلیل نہیں ہوتا، لیکن لوگوں کی عام بول چال، عرف و معاملات اور عقلی دلائل میں اس تخصیص کا اعتبار کیا جاتا ہے، اور یہ بات علماء متاخرین کے یہاں مشہور و معروف اور راجح ہے۔<sup>(۱)</sup> قال فی شرح التسویر ص: ۹۱ س: ۱ - إلی قوله - وتداوله المتأخرین۔  
ص: ۹۱ س: ۳

## ایک مثال

مثال کے طور پر خزانۃ الامکن اور فتاویٰ قاضی خاں<sup>(۱)</sup> میں یہ مسئلہ تحریر ہے کہ اگر کوئی شخص دوسرے سے کہے: مالک علی اکثر من مائے درهم یعنی میرے اوپر تیرے سورہم سے زیادہ واجب نہیں تو اس کا یہ قول صرف سورہم کے اقرار کے مراد ف ہوگا۔ ظاہر ہے کہ یہ اقرار کا حکم مفہوم مخالف کے اعتبار سے لگایا گیا ہے، ہاں اگر یہ کہے: ”مالک علی اکثر من مائے درهم ولا أقل“ تو ایک درہم کا اقرار بھی ثابت نہ ہوگا، کیوں کہ یہاں مفہوم کے مقابلہ میں صراحةً انکار موجود ہے، اس لئے کہ اکثر کے مقابلہ میں اقل اور اقل کے مقابلہ میں اکثر آ رہا ہے۔ وعلیہ ما فی خزانۃ الامکن  
ص: ۹۱ س: ۳ - إلی قوله - كما لا يخفى على المتأمل انتهى۔ ص: ۹۱ س: ۵

## صحابہؓ کے اجتہادی اقوال میں مفہوم مخالف کا اعتبار

”انہر الفائق“ کے کتاب الحج میں لکھا ہے کہ: روایات فقہیہ (جن میں اقوال صحابہؓ بھی شامل ہیں) میں مفہوم مخالف معتبر ہے، لیکن یہاں اقوال صحابہؓ سے صرف وہ اقوال مراد ہیں جن کا مدار فکر و نظر پر ہے، وہ اقوال مراد نہیں جو عقل سے نہ سمجھے جاسکیں۔ علامہ شامی فرماتے ہیں کہ: اس قید کی وجہ یہ ہے کہ کسی صحابیؓ کا وہ قول جو عقل سے نہ سمجھا جاسکے (مثلاً تعداد رکعات وغیرہ) حدیث مرفوع کے حکم میں ہوتا ہے، الہذا اس میں ضابطہ حنفیہ کے مطابق مفہوم مخالف معتبر نہ ہوگا۔ اور فقہ میں جہاں بھی روایات میں مفہوم مخالف معتبر ہونے کی بات آئے گی اس سے مراد وہی فقہی روایتیں  
(۱) قال فی الخانۃ: وکذا لو قال مالک علی إلا مائۃ درهم أو سوی مائۃ درهم أو اکثر من مائۃ درهم  
کان إقراراً بالمائۃ ولو قال مالک علی اکثر من مائۃ درهم ولا أقل لم يكن إقراراً۔ (خانۃ مع الہندیہ ۱۲۹۱/۳)

ہوں گی جو مجتہدین صحابہ و فقہاء وغیرہ سے منقول ہوں (اور ان کا مداراجتہاد پر ہو) اور انہر الفائق میں وضو کی سنتوں کے بیان کے تحت لکھا ہے کہ کتب فقہیہ کے مخالف مفاهیم کا اعتبار ہے لیکن اکثر نصوص میں اس کا اعتبار نہیں ہے۔ وَفِي حَجَّ النَّهْرِ: المفہوم معتبر ص: ۹۱ س: ۵ - إلى قوله - بخلاف أكثُر مفاهيم النصوص . ص: ۹۲ س: ۴)

## جزئیہ فقہیہ میں مفہوم مخالف کے اعتبار کی مثال

”غاية البيان“ میں یہ مسئلہ: ”ولیس علی المرأة أن تنقض ضفائرها“ (اور غسل کے وقت عورت پر اپنی گندھی ہوئی چوٹیاں کھولنا ضروری نہیں) لکھنے کے بعد آگے لکھا ہے کہ یہاں عورت کی قید سے مرد سے احتراز تقصود ہے (یعنی مرد پر بہر حال چوٹیاں کھولنا لازم ہے اس کے لئے یہ رخصت نہیں ہے) اور اس احتراز کی وجہ یہ ہے کہ فقہی روایات میں حکم کو کسی ایک صورت کے ساتھ خاص کر دینا اس صورت کے علاوہ کے لئے حکم مذکور ثابت نہ ہونے پر دال ہوتا ہے، البتہ نصوص شرعیہ میں یہ تخصیص ماعدا سے حکم کی نظر نہیں کرتی۔ (وفی غایۃ البيان عند قوله ص: ۹۲ س: ۵ - إلى قوله - لا يدل علی نفي ما عداه عندنا . ص: ۹۲ س: ۶)

## تمرين: ۳۹

○ فقہی جزئیات میں مفہوم مخالف معتبر ہونے کی پانچ مثالیں تلاش کریں۔

## علتوں میں مفہوم مخالف کے اعتبار کی مثال

متاخرین احناف کے نزدیک دلائل علی سے بھی مفہوم مخالف کے طریقہ سے حکم کا استنباط کیا جاتا ہے، اس کی وضاحت کے لئے علامہ شامیؒ یہ مثال پیش فرمائے ہیں کہ: ”غاية البيان“ میں مسئلہ لکھا ہے کہ اگر کوئی پھاڑ کھانے والا جانور (درندہ) محرم پر حملہ کر دے اور محرم حالتِ احرام میں اپنے بچاؤ کے لئے اسے قتل کر ڈالے تو محرم پر کوئی دم وغیرہ واجب نہیں ہے، پھر آگے اس مسئلہ کی دلیل یہ بیان کی ہے کہ ایک مرتبہ حضرت عمرؓ نے حالتِ احرام میں ایک درندے کو مار ڈالا،

پھر ایک مینڈ ہے کی قربانی دی، اور اپنے اس عمل کی علت یہ بیان فرمائی: آنا ابتدأناہ یعنی ”ہم نے درندے پر حملہ کا اقدام کیا تھا“، اس علت سے یہ حکم مفہوم ہوا کہ اگر اقدام نہ کیا جائے تو کوئی دم واجب نہ ہو گا اگر ہم یہ مفہوم نہ لیں تو پھر آنا ابتدأناہ کی تعلیل کا کوئی فائدہ ہی نہ رہے گا۔

یہاں کوئی نادو اتف یہ نہ کہے کہ جب حنفیہ مفہوم مخالف کے قائل نہیں ہیں تو انہیں حضرت عمرؓ کی تعلیل سے استدلال کا کیا حق پہنچتا ہے؟ اس لئے کہ ہم یہ کہدیں گے کہ ہمارے نزدیک مفہوم مخالف کے معتبر نہ ہونے کی بات صرف اکثر خطابات شرعیہ کی حد تک ہے، لیکن عقلی توجیہات اور فقہی روایات میں مفہوم مخالف کو معتبر مانا گیا ہے اور زیر بحث مسئلہ میں حضرت عمرؓ کی تعلیل عقلی توجیہات کے قبل سے ہے اور احکام کی علتشیں جس طرح حدیث و قرآن سے نکالی جاتی ہیں اسی طرح کبھی اجتہاد سے بھی حکم کی علت نکالی جاتی ہے، یہ اجتہادی علتشیں کلام شارع علیہ السلام میں داخل نہیں ہوتیں، اسی وجہ سے ان میں مفہوم مخالف کا اعتبار ہوتا ہے، اسی بنا پر فقہاء فرماتے ہیں، اس علت کا مقتضی فلاں چیز کے جواز یا فلاں صورت کی حرمت کا ہے۔ (وفی غایۃ البیان أيضًا فی باب جنایات الحج ص: ۹۲، س: ۷ - إلی قوله - فیستدلون بمفہومہا. ص: ۹۲ س: ۱۴)

## تمرين: ۵۰

○ علتوں میں مفہوم مخالف کے اعتبار کی کم از کم پانچ مثالیں تحریر کریں۔

## ایک اشکال

یہاں یہ اشکال ہو سکتا ہے کہ علامہ ابن نجیمؓ نے ”الاشباه والنظائر“ کے کتاب القضاۓ میں لکھا ہے کہ حنفیہ کے ظاہر مذہب کے اعتبار سے لوگوں کے کلام میں (جن میں عقلی دلائل بھی شامل ہیں) مفہوم مخالف کا اعتبار نہیں ہے، ہاں فقہی روایتوں میں اس کا اعتبار ہوتا ہے، تو یہ بات آپ کے اس دعویٰ کے برخلاف ہے کہ مفہوم مخالف صرف کلام شارع میں معتبر نہیں، دیگر جگہوں پر معتبر ہے۔ (فإن قلت قال في الأشباه ص: ۹۲ س: ۱۴ - إلی قوله - غير معتبر في کلام الشارع فقط. ص: ۹۲ س: ۱۶)

## جواب

اس اشکال کا صاف جواب یہ ہے کہ حنفیہ کا ظاہر مذہب اگرچہ وہی ہے جو آپ نے ذکر کیا، لیکن فقہاء متاخرین کی رائے وہ ہے جس کا ہم نے دعویٰ کیا ہے، یعنی کلام شارع میں قبول نہیں دیگر جگہوں پر اعتبار ہے۔ (وقلت الذى علیه المتأخرُون ما قدمنا ص: ۹۲ س: ۱۶-۱۷)

### علامہ بیریؒ کی عبارت سے جواب کی تائید

ہمارے اس جواب کی تائید علامہ بیریؒ (المتوفی ۱۰۹۹) شارح اشباہ کی اس وضاحت سے ہوتی ہے، انہوں نے لکھا ہے کہ: ”فتاویٰ ظہیریہ میں جو یہ دعویٰ کیا گیا ہے کہ مفہوم مخالف سے استدلال (کہیں بھی) درست نہیں، یہ ہمارے انہم کا ظاہر مذہب ہے اور امام محمدؐ نے ”السیر الکبیر“ میں مفہوم مخالف سے جن استدلالات کو ذکر کیا ہے وہ ظاہر الروایہ کے خلاف ہے۔ اور فوائد ظہیریہ میں مکروہاتِ نماز کے باب میں لکھا ہے کہ مفہوم مخالف سے استدلال درست ہے جیسا کہ شمس اللامہ سرحدیؒ نے شرح السیر الکبیر میں اس کی صراحت کی ہے کہ امام محمدؐ نے ”السیر الکبیر“ کے اکثر مسائل کا مدار مفہوم مخالف سے استدلال پر رکھا ہے، اور علامہ ابو بکر خصافؒ کا میلان بھی اسی جانب ہے۔ چنان چہ انہوں نے ”مسائل حیل“ کی بنیاد اسی مفہوم کے اعتبار پر رکھی ہے، اور مصنفی میں لکھا ہے کہ کسی شیئ کو خاص طور پر ذکر کرنے سے مauda سے حکم کی نفعی مقصود نہیں ہوتی، لیکن ہم کہتے ہیں کہ روایات فقہیہ، لوگوں کے عرف اور عقلی دلائل میں تخصیص مauda سے حکم کی نفعی پر دلیل ہوتی ہے، اور خزانۃ الروایات میں تحریر ہے کہ فقہی روایات میں آمدہ قید سے غیر مقتید صورت میں حکم کی نفعی ثابت ہوتی ہے، اور سراجیہ میں لکھا ہے کہ لوگوں کی آپسی بول چال اور خیز خبر وغیرہ میں کسی شیئ کو ذکر کے ساتھ خاص کر دینا مauda سے حکم کی نفعی پر دلیل ہوتا ہے، اسی طرح کی بات علامہ سرحدیؒ نے ذکر کی ہے۔ علماء کے ان اقوال کو نقل کرنے کے بعد علامہ بیریؒ فرماتے ہیں کہ ظاہر یہی ہے کہ السیر الکبیر میں امام محمدؐ کے طرز عمل (مفہوم کا اعتبار کرنے) کو معمول بہ بنایا جائے، جیسا کہ امام خصافؒ کے روحان سے معلوم ہوتا ہے۔ (وقال العلامة البیری فی شرحہ - ص: ۹۲ س: ۱۷)

إلى قوله - والله تعالى أعلم انتهى كلام البيري . ص: ۹۳ س: ۷)

## استدرأك

علامہ بیریؒ کے مذکورہ کلام سے بظاہر یہ مستفادہ ہو رہا ہے کہ متاخرین نے امام محمدؐ کے طرز استدلال کو سامنے رکھ کر مفہوم مخالف کے علی الاطلاق معتبر ہونے کا قول کیا ہے، اور اس میں کلام شارع الشیعۃ اور کلام الناس میں کوئی فرق نہیں کیا ہے۔ اس لئے علامہ شامیؓ کو اس کی وضاحت کرنی پڑی کہ مفہوم مخالف کے اعتبار کی بات صرف کلام شارع کے علاوہ میں ہے۔ کلام شارع علیہ السلام میں اکثر جگہ اس کا اعتبار نہیں اس لئے اگر اس بحث میں مطلقاً السیر الکبیر کے طریقہ پر اعتقاد کرنے کی بات کہی جائے گی تو اس کا مطلب یہ ہو گا کہ ہم کلام شارع میں بھی مفہوم کا اعتبار کرتے ہیں، کیوں کہ ”السیر الکبیر“ سے معلوم ہوتا ہے کہ کلام شارع میں بھی مفہوم معتبر ہے۔

چنان چہ امام محمدؐ نے باب انبیاء المشرکین و ذبائحهم کے تحت یہ مسئلہ لکھا ہے کہ اہل حرب نصرانی عورتوں سے نکاح حرام نہیں ہے۔ اور اس مسئلہ کے لئے استدلال حضرت علی کرم اللہ وجہہ کی اس حدیث سے کیا ہے کہ آنحضرت ﷺ نے بھر کے رہنے والے مجوسیوں کو ایک تحریر لکھی تھی جس میں انہیں اسلام کی دعوت دیتے ہوئے لکھا تھا کہ جوان میں اسلام لائے گا اسے قبول کر لیا جائے گا اور جو مسلمان نہ ہو گا اس پر جزیہ نافذ کر دیا جائے گا اور اس کا ذبیحہ حلال نہ ہو گا، اور ان کی عورتوں سے نکاح نہ کیا جائے گا۔ اس دلیل پر علامہ شمس الانعامہ سرخی تبصرہ کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ گویا امام محمدؐ نے اس حکم کو مجوسیوں کے ساتھ خاص کر دینے سے یہ استدلال کیا کہ اہل کتاب کی عورتوں سے نکاح کرنے میں حرج نہیں، اور امام محمدؐ نے اس کتاب کی بنیاد مفہوم مخالف سے استدلال پر رکھی ہے۔ (حاصل یہ کہ اس مسئلہ اور استدلال سے یہ معلوم ہوا کہ امام محمدؐ کے نزدیک کلام شارع علیہ السلام میں بھی مفہوم معتبر ہے، لیکن متاخرین میں سے کوئی اس کا قائل نہیں اس لئے علامہ بیریؒ کے کلام میں غیر کلام شارع کی قید ہوئی چاہئے تھی) ائمہ أن العمل على جواز الاحتجاج بالمفهوم ص: ۹۳ س: ۵ - إلى قوله - ويأتي بيان ذلك في موضعه . ص: ۹۳ س: ۱۰ )

## ظاہر مذہب کیا ہے؟

اب سوال یہ ہے کہ آخر اس بارے میں حفیہ کا ظاہر مذہب کیا ہے؟ تو اس کے متعلق ہمیں علامہ شمس اللہ سرخیؒ کے ایک تبصرہ سے بڑی روشنی ملتی ہے۔ السیر الکبیر کے باب ما یجب من طاعة الوالی میں امام محمدؐ نے ارشاد فرمایا ہے: وَلَوْ قَالَ مَنَادِيُّ الْأَمِيرِ مِنْ أَرَادَ الْعَلْفَ فَلِيَخْرُجْ تَحْتَ لَوَاءِ فَلَانَ، فَهَذَا بِمَنْزِلَةِ النَّهْيِ۔ (اگر امیر لشکر کا منادی یہ اعلان کرے کہ جس فوجی کو اپنے جانور کے چارے کی ضرورت ہو تو وہ فلاں شخص کے جھنڈے تلے لشکر سے باہر جائے، تو یہ اعلان گویا کہ اس بات سے روکنے کے مراد ف ہو گا کہ لشکر سے باہر نکلنے کے بعد کوئی شخص اس جھنڈے دار سے جدا نہ ہو) علامہ شمس اللہ سرخیؒ اس پر تبصرہ کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ ہم بیان کرچکے ہیں کہ امام محمدؐ نے اس کتاب (السیر الکبیر) کے مسائل کی بنیاد مفہوم مخالف سے استدلال پر رکھی ہے جب کہ ہمارا ظاہر مذہب یہ ہے کہ مفہوم مخالف بالکل قابل اعتبار نہیں ہے، چاہے مفہوم شرط ہو یا مفہوم صفت، دونوں کا حکم یکساں ہے، اور دراصل یہاں (امیر کے اعلان کے مسئلہ میں) امام محمدؐ نے اعلان کے اصل مقصد کو پیش نظر رکھا ہے، جسے عام لوگ اس طرح کے موقع پر سمجھ جاتے ہیں جو عموماً علوم کے اسرار و موز سے بھی ناواقف ہوتے ہیں کہ امیر کا مقصد یہ ہے کہ لوگ فلاں شخص کے علاوہ کسی اور کے جھنڈے تلے جانے سے رک جائیں، تو امام محمدؐ نے دلالۃ معلوم ہونے والی نہیں کو منصوص کے درجہ میں رکھ دیا ہے۔ اس تبصرہ کو نقل کرنے کے بعد علامہ شامیؒ فرماتے ہیں کہ ”تبصرہ کا تقاضا یہ ہے کہ ظاہر مذہب کے اعتبار سے کلام شارع اللہ تعالیٰ تو کجا، کلام الناس میں بھی مفہوم مخالف کا بالکل اعتبار نہیں، اس لئے کہ امیر لشکر کا یہ اعلان کلام شارع اللہ تعالیٰ میں سے نہیں، بلکہ کلام الناس میں داخل ہے۔ اور شرح سیر کے اس دعوے سے گذشتہ اشکال میں ذکر کردہ صاحب اشیا کے قول کی تائید ہوتی ہے۔“ ثم قال بعد أربعة أبواب في باب ما یجب من طاعة الوالی ص: ۹۳

## ظاہر مذہب چھوڑنے کی وجہات

اب یہ خلجان ہو سکتا ہے ہ اس معاملہ میں علماء متاخرین نے ظاہر مذہب کو ترک کیوں کیا؟ تو اس کے جواب میں علامہ شامی تین اہم وجہات کی طرف اشارہ فرمائے ہیں:

### پہلی وجہ: السیر الکبیر سے استفادہ

ظاہر یہی ہے کہ کلام الناس میں مفہوم مخالف کے اعتبار کی بات علماء متاخرین کی اختیار کردہ ہے اور انہوں نے اس بارے میں السیر الکبیر کے جزئیے نولو قال منادی الامیر الخ سے سند حاصل کی ہے۔ (جس میں مفہوم مخالف کا اعتبار کیا گیا ہے) اس لئے کہ السیر الکبیر کتب ستہ ظاہر الروایہ میں آخری تصنیف ہے اور اسی پر عمل متعین ہے۔ (والظاهر أن القول بكونه حجة في کلامهم ص: ۹۴ - إلى قوله - كما قدمناه في النظم ص: ۹۴ س: ۳)

### دوسری وجہ: شارع اللئۃ اور غیر شارع کے کلام میں فرق

حاصل یہ کہ اب عمل اس پر متعین ہے کہ حضرت شارع علیہ السلام ﷺ کے کلام کے علاوہ دیگر لوگوں کے کلام میں مفہوم مخالف کا اعتبار ہو سکتا ہے۔ وجہ یہ ہے کہ حضرت شارع ﷺ کے کلام میں اگر کسی چیز کو ذکر کے ساتھ خاص کیا گیا ہو تو یہ اس امر کی حتمی دلیل نہیں ہے کہ اس کا مقصود مادعا سے حکم کی نفی کرنا ہے، کیوں کہ کلام شارع سرچشمہ بлагعت ہے کبھی اس میں محض اتفاقی قید ہی مراد ہوتی ہے کسی چیز سے احتراز مقصود نہیں ہوتا۔ مثلاً ارشاد خداوندی: وَرَبَّا يُكْمِمُ الْأَتْقَى فِي حُجُورِكُمْ (اور حرام ہیں تمہاری ربیا کیں جو تمہاری پروش میں ہیں) میں حجور کم کی قید اتفاقی ہے کیوں کہ عام طور پر ربیا کیں زوج ثانی کی پروش ہی میں رہا کرتی ہیں (اور حکم دونوں صورتوں میں یکساں ہے خواہ پروش میں ہوں یا نہ ہوں) اس کے برخلاف لوگوں کی عام بول چال عموماً اس طرح کے امتیازات سے خالی ہوتی ہے، لہذا لوگوں کے کلام میں مفہوم مخالف کا اعتبار کیا جا سکتا ہے۔ لوگوں میں یہ بات آپس میں متعارف بھی ہے کہ وہ اپنی گفتگو میں مفہوم کا اعتبار کرتے ہیں اور علامہ سرخیؒ نے شرح السیر الکبیر میں صراحةً کی ہے کہ الشابت بالعرف كالثابت بالنص (جحکم

عرف سے ثابت ہو وہ نص شرعی سے ثابت شدہ حکم کے مانند ہے) نیز فقہاء کا یہ قول بھی اسی معنی میں ہے کہ المعروف کالمشروط (معروف چیز مشروط کے مانند ہوتی ہے) گویا کہ کلام کرنے والے نے خود اس مفہوم کے معنی کی صراحت کر دی ہے، لہذا اس پر عمل کر لیا جائے گا۔ (والحاصل أن العمل الآن ص: ۹۴ س: ۳ - إلی قوله - فكان قائله نص عليه فيعمل به. ص: ۹۴ س: ۸)

## تیسرا وجہ: فقہاء کا عرف یہی ہے

تیسرا وجہ یہ ہے کہ فقہی مسائل لکھتے وقت علماء کی عادت اور عرف یہ بن گیا کہ وہ تصدیقی قیودات اور شرطیں لگاتے ہیں جن سے غیر مقید اور غیر مشروط صورتوں سے احتراز مقصود ہوتا ہے، اور اکثر مسائل لکھتے وقت ان کے پیشِ نظر یہ بات رہتی ہے کہ غیر مشروط صورت کا حکم منطق کے برخلاف ہے اور یہ طریقہ علماء و فقہاء اور مصنفوں کے درمیان بلا کسی نکیر کے راجح ہے۔ بریں بنا جب خود فقہاء نے اپنے کلام میں مفہوم مخالف کو جھٹ مانے کا معمول اور عرف بنالیا ہے تو پھر اب فقہی مسائل میں مفہوم مخالف کا اعتبار نہ کرنے کی کوئی وجہ معلوم نہیں ہوتی۔ (وَكذا يقال فی مفہوم الروایات ص: ۹۴ س: ۸ - إلی قوله - ولذا لم یر من صرح بخلافه. ص: ۹۴ س: ۱۰)

## مگر یہ حکم کلی نہیں ہے

یہاں یہ یاد رکھنا چاہئے کہ مسائل فقہیہ میں مفہوم مخالف معتبر ہونے کی بات صرف اکثر اور اغلب کے لحاظ سے ہے، جیسا کہ علامہ قہستانی نے اس بات کو شرح نقایہ میں نہایہ کے کتاب الحدود کی طرف منسوب کیا ہے (یہی نقل در مختار مع الشامی کراچی ۱۹۹۱ میں بھی موجود ہے) نعم ذلک اُغلیٰ کما عزاه القہستانی فی شرح النقایة إلی حدود النهاية. ص: ۹۴ س: ۱۰) **وضاحت:** عبارت بالا میں حدود النہایہ سے مراد ”نہایہ“ نامی کتاب کا کتاب الحدود ہے۔

## قدیر اتفاقی کی مثال

فقہی مسئلہ میں مفہوم مخالف معتبر نہ ہونے کی ایک مثال صاحب کتاب نے یہ پیش کی ہے

کہ: ہدایہ میں لکھا ہے کہ وضو کی سنتوں میں سے یہ ہے کہ جب سونے والا بیدار ہو تو وہ برتن میں ہاتھ ڈالنے سے پہلے دونوں ہاتھ دھولے۔ تو یہاں ہاتھ دھونے کے حکم کی نیند سے بیدار ہونے والے کے ساتھ تخصیص کا یہ مطلب نہیں ہے کہ جو شخص سوکرنا اٹھے اس کے لئے ہاتھ دھونا سنت نہیں بلکہ یہ سنت سب کے لئے عام ہے خواہ سوکرنا اٹھے یا نہ اٹھے اور یہ تخصیص اتفاقی ہے احترازی نہیں، گوکہ علامہ شمس الائمه کدریؒ نے اسے احترازی قید مانا ہے۔ (ومن غیر الغالب قول الهدایۃ ص: ۹۴ س: ۱۰ - إلی قوله - وإلیه مال شمس الائمه الکردری۔ ص: ۹۴ س: ۱۳)

### تقریں: ۵۱

○ قید اتفاقی کی پانچ مثالیں تحریر کریں۔

### صریح قول کے ساتھ مفہوم مخالف کا کہیں بھی اعتبار نہیں

فقہی مسائل یا لوگوں کی عام بول چال جہاں بھی متاخرین احتجاف نے مفہوم مخالف کو معتبر مانا ہے وہ اس قید کے ساتھ مقید ہے کہ اس کے خلاف کوئی جزئیہ اور قول موجود نہ ہو (جبیسا کہ علامہ طرسوی المتوفی ۵۷۷ھ) اور دیگر اہل اصول نے بیان کیا ہے، حتیٰ کہ جو ائمہ (احتجاف کے علاوہ) نصوص شرعیہ میں علی الاطلاق مفہوم مخالف کو معتبر مانتے ہیں وہ بھی اس کے معارض صریح دلیل کی موجودگی میں مفہوم مخالف چھوڑ دیتے ہیں۔ (وقولی - مالم يخالف لصریح - ثبتا - ص: ۹۴ س: ۱۳ - إلی قوله - وبلغی المفہوم والله تعالیٰ أعلم۔ ص: ۹۴ س: ۱۶)

### تقریں: ۵۲

○ صریح حکم کے مقابلہ میں مفہوم مخالف چھوڑ دینے کی کم از کم ایک مثال پیش کریں۔

### (۳۳) عرف کا اعتبار

فتویٰ دیتے وقت لوگوں کے عرف و عادت کا لحاظ رکھا ضروری ہے اس لئے عرف کا شریعت میں اعتبار کیا گیا ہے اور اس پر بھی احکامات کا مدار رکھا گیا ہے۔

والعرف في الشرع له اعتبار – لذا عليه الحكم قد يدار (ص: ۹۴ س: ۱۶)

## عرف کی تعریف

علامہ شامیؒ نے یہاں عرف و عادت کی دو تعریفیں پیش فرمائی ہیں:

(۱) **لمستھنی میں لکھا ہے:**

عرف و عادت کا اطلاق اس (قول یا عمل) پر ہوتا ہے جو عقلاً لوگوں کے دلوں میں راست ہو جائے اور سنجیدہ طبیعت کے افراد سے قبول کر لیں۔

العرف والعادة ما استقر في النفوس من جهة العقول وتلقته الطائع السليمة بالقبول. (ص: ۹۴، س: ۱۷)

(۲) **تحریر الاصول میں لکھا ہے:**

عادت اس (قول یا عمل) کو کہا جاتا ہے جو بغیر کسی عقلی وجہ کے بار بار (بلا تکلف) کیا جاتا ہو۔ ان دونوں تعریفوں کو لا کر صاحبِ کتاب عرف اور عادت کے درمیان لطیف فرق کی طرف اشارہ فرمانا چاہتے ہیں کہ عادت کے معنی میں عموم ہے، ہر وہ کام جو بار بار بغیر کسی وجہ کے دوہرایا جاتا ہو وہ عادت کہلاتا ہے، خواہ اس تکرار کو عقل قبول کرے یا نہ کرے (مثلاً کسی شخص کا کوئی لفظ تکنیک کلام بن جاتا ہے اور وہ خواہ اس لفظ کو جا بجا دہراتا رہتا ہے تو کہتے ہیں کہ فلاں شخص کو فلاں لفظ بولنے کی عادت ہو گئی ہے) اور اس کے مقابلہ میں عرف کے معنی میں کچھ خصوص پایا جاتا ہے۔ بایں طور کہ عرف اس عادت ہی کو کہیں گے جو لوگوں میں عقل کے تقاضے سے راست ہو اور سنجیدہ طبیعتیں اسے قبول کر لیں، عام طور پر فقه میں عادت کا لفظ اسی معنی میں بولا جاتا ہے، چنانچہ الاشباء میں ہے:

العادة عبارة عما يستقر في النفوس من الأمور المتكررة المقبولة عند الطياع السليمة. (الأشباه ۱۵۰/۱)

اس تفصیل سے معلوم ہوا کہ مفہوم کے اعتبار سے گوکہ ہر عرف عادت ہے لیکن ہر عادت عرف نہیں ہے، مگر اہل اصول کے نزدیک چوں کہ عادت کا مصدقہ وہی ہے جو عرف کے معنی میں ہے اس لئے عرف اور عادت کو مترادف معنی میں استعمال کر لیتے ہیں۔ علامہ شامیؒ اپنے رسالہ ”نشر العرف“ میں فرماتے ہیں:

عادت اور عرف مصدقہ کے اعتبار سے ایک ہی معنی میں ہیں اگرچہ مفہوم کے اعتبار سے دونوں مختلف ہیں۔

والعادة والعرف بمعنى واحد من حيث المصدق و إن اختلافاً من المفهوم.

(نشر العرف، رسائل ابن عابدين ۱۱۴۲)

واضح رہے کہ فقہے کے بہت سے مسائل کا مدار عرف پر رکھا گیا ہے، حتیٰ کہ فقہاء نے یہ ضابطہ مقرر کر دیا ہے کہ لفظ کے حقیقی معنی کو بھی عرف و عادت کی دلالت کی بناء پر ترک کر دیا جائے گا، جب کہ وہ عرف و عادت غالب آجائے۔ (واعلم أن اعتبار العادة ص: ۹۴ س: ۹ - إلى قوله - إذا طردت أو غلت. ص: ۹۵ س: ۲)

## عرف اور تغیر زمانہ پر فتویٰ کی بعض مشالیں

### (۱) راجح الوقت سکم کا اعتبار :

اگر بیع و شراء میں مطلق ثمن رکھی اور اُس جگہ مختلف مالیہ کی کرنی چلتی ہو تو جو کرنی زیادہ متعارف ہو اس کو ثمن میں ادا کیا جائے گا (مثال کے طور پر دہلی میں متعدد سکے چلتے ہیں جن میں پاکستانی روپیہ، نیپالی روپیہ اور انڈونیشی روپیہ بھی شامل ہے، اب کسی شخص نے بیع کرتے وقت کہا کہ میں نے پندرہ روپیہ میں بیچا تو اس سے پاکستانی یا غیر ملکی روپیہ مراد نہ ہوگا بلکہ ہندوستانی روپیہ مراد ہوگا، کیوں کہ یہی روپیہ یہاں متعارف ہے)۔ (ولذا قالوا في البيع لوباع بدر اهم اؤدنانير في بلدة اختلف فيها النقود مع الاختلاف في المالية والرواج انصرف البيع إلى الأغلب - قال في الهدایة: لأنَّه هو المتعارف فينصرف المطلق

إليه. (هداية ۴/۳، شرح عقود رسم المفتى ۹۵، س: ۲-۳)

## (۲) تعلیم قرآن پر اجارہ کا جواز :

قرآنی علوم کی تدریس پر اجرت کے جواز کا مسئلہ بھی عرف پرمنی ہے، اس لئے کہ اب فساد زمانہ کی وجہ سے اور عام ضرورت کے پیش آنے کی وجہ سے علوم دینیہ کی حفاظت کے لئے جواز کا قول اختیار کرنا انگریزی ہو گیا ہے۔ وفی شرح البیری عن المبسوط: الثابت بالعرف کا ثابت بالنص ثم إعلم أن كثيراً من الأحكام التي نص عليه المجتهد صاحب المذهب بناء على ما كان في عرفه وزمانه قد تغير بتغير الزمان بسبب فساد أهل الزمان أو عموم الضرورة كما قدمنا من افتاء المتأخرین بجواز الاستيغار على تعلیم القرآن.

(شرح عقود رسم المفتى ص: ۹۵، س: ۳-۵، شامی کراجی ۵۵۱۶-۵۶، شامی زکریا ۶۷۱۹، هداۃ ۲۸۷/۳)

## (۳) ظاہر عدالت کا فی نہیں :

حضرت امام ابوحنیفہؓ کے نزدیک اگر گواہ مسلمان ہو تو اس کا ظاہری طور پر عادل اور صادق ہونا کافی ہے، مزید تحقیق تفییض کی ضرورت نہیں ہے، جب کہ حضرات صاحبینؓ نے زمانہ کے بدل جانے اور لوگوں میں جھوٹ وغیرہ رائج ہو جانے کی بنا پر مسلمان گواہوں کا تزکیہ بھی ضروری قرار دیا ہے، اور حضرات متاخرینؓ بھی اسی پر فتویٰ دیتے ہیں۔ وعلم الاكتفاء بظاهر العدالة مع أن ذلك مخالف لما نص عليه أبوحنيفة. (شرح عقود رسم المفتى ص: ۹۵، س: ۶، هداۃ ۱۴۰۳-۱۴۱)

## (۴) حاکم کے علاوہ سے بھی جبرا کراہ ممکن ہے :

امام ابوحنیفہؓ کے زمانہ میں جرائم اور حق تلقیوں کا زیادہ زور نہیں تھا اور بادشاہ یا اس کے نائب کے علاوہ کوئی شخص کسی کو مجبور نہیں کر سکتا تھا، اس لئے امام صاحبؓ نے فتویٰ دیا تھا کہ جبرا کراہ کا تحقق اسی صورت میں ہو گا جب کہ بادشاہ یا اس کا نائب کسی کو مجبور کرے، مگر حضرات صاحبینؓ نے فتویٰ دیا کہ حاکم کے علاوہ کی جانب سے بھی جبرا کراہ کا تتحقق ہو سکتا ہے، اس لئے کہ

ان کے زمانہ میں شر و فساد پھیل جانے کی وجہ سے عام آدمی بھی اپنی قوت بازو سے لوگوں کو مجبور کرنے لگے تھے، چنانچہ آج بھی فتویٰ حضراتِ صاحبینؐ کے قول پر ہے۔ وَمَنْ ذَلِكَ تَحْقِيقُ الْإِكْرَاهِ  
من غير السلطان مع مخالفته لقول الإمام بناءً على ما كان في عصره لأن غير  
السلطان لا يمكنه الإكراه من غيره، فقال محمدٌ باعتباره وأفتى به المتأخرون.

(شرح عقود رسم المفتی ص: ۹۵، س: ۷، شامی کراچی ۱۲۹۱، شامی زکریا ۱۷۸۱)

## (۵) جھوٹی شکایت کرنے پر ضمان :

اگر کوئی شخص بادشاہ کے پاس کسی کی ناحق شکایت کر دے اور بادشاہ اسی بنیاد پر اس سے ناقص توازن لے تو حضرات شیخینؐ کے نزدیک شکایت کرنے والا ضامن نہ ہوگا کیوں کہ شکایت کنندہ مسبب ہے اور بادشاہ خود مباشر ہے اور ضابطہ یہ ہے کہ جب مسبب اور مباشر کسی مسئلہ میں جمع ہو جائیں تو حکم مباشر کی طرف لوٹتا ہے (مثلاً کوئی شخص کسی آدمی کے پوشیدہ مال کی خبر کسی چور کو دے دے اور چور اس کی نشاندہی پر مال چڑھاتے تو یہاں پتہ بتانے والا مسبب، اور چور مباشر ہے الہذا چوری کی حد مباشر پر یعنی چور پر جاری ہوگی، مسبب یعنی پتہ بتانے والے پر جاری نہ ہوگی)۔ (الاشباب ۲۳۷۸، الہذا مذکورہ صورت میں شکایت کنندہ کے مسبب ہونے کی وجہ سے حضرات شیخینؐ اس پر ضمان کے قائل نہیں ہیں، اس کے برخلاف امام محمدؐ نے اپنے زمانہ میں جب یہ دیکھا کہ لوگ ذاتی دشمنی کی وجہ سے بڑھ چڑھ کر جھوٹی شکایتیں حاکم کے پاس لے جانے لگے ہیں اور اس کے پردے میں پرانی دشمنیاں نکالنے لگے ہیں تو انہوں نے فتویٰ دیا کہ شکایت کرنے والے مخبروں کو بھی جھوٹی شکایت پر ضامن بنایا جائے گا تاکہ اس فتنہ کا سد باب ہو سکے۔ علماء متأخرین نے بھی اسی قول پر فتویٰ دیا ہے، اور بعض فقهاء نے تو یہاں تک کہہ دیا کہ جنگی حالات میں مخبروں کو تعزیر یا قتل بھی کیا جا سکتا ہے۔

وَمَنْ ذَلِكَ تَضْمِينُ السَّاعِيِّ مَعَ مُخَالَفَتِهِ لِقَاعِدَةِ الْمَذَهَبِ مِنْ أَنَّ الْضَّمَانَ  
عَلَى الْمَبَاشِرِ دُونَ الْمُسَبِّبِ وَلَكِنَّ أَفْتَوْا بِضَمَانِهِ زَجْرِ الْفَسَادِ الزَّمَانِ بِلَ أَفْتَوْا

بِقَتْلِهِ زَمْنَ الْفَتْرَةِ۔ (شرح عقود رسم المفتی ص: ۹۵، س: ۸، تاص: ۹۶، س: ۲)

**قال في الأشباه:** الخامسة الافتاء بتضمين الساعي وهو قول المتأخرین لغبۃ السعاية، وتحتھے في حاشیة الحموی: قیده قاری الھدایة بما إذا كان عادة ذلك الظالم أن من رفع إليه ويقول فيه عنده أن يأخذ منه ما لا مصادرة يضمن الساعي في هذه الصورة ما أخذه الظالم هذا هو المفتى به أفتى به المتأخرین من علمائنا، انتهى. وزاد في السراجیة أن تكون السعاية بغير حق من كل وجه وعليه الفتوى. وفي الخلاصة: من سعى بأحد إلى السلطان وغرمه لا يخلو من وجوه ثلاثة: أحدها إن كانت السعاية بحق فهو إن كان يؤذيه ولا يمكنه ذلك إلا بالرفع إلى السلطان أو كان فاسقاً لا يمتنع عن الفسق إلا بالأمر بالمعروف وفي مثل هذا لا يضمن الساعي. الثاني: أن يقول أن فلاناً وجد كنزاً وظهر أنه كاذب إلا إذا كان السلطان عادلاً لا يغرم بهذه السعاية أو قد يغرم وقد لا يغرم فلا يضمن الساعي. الثالث: إذا وقع في قوله أن فلاناً يجيء إلى إمراته أو جارية فرفعته إلى السلطان وغرمه السلطان ثم ظهر كذبه لا يضمن عندهما وعندهما محمد يضمن والفتوى على قول محمد لغبۃ السعاية في زماننا، انتهى. ثم قال الحموی: قال في منح الغفار شرح تنوير الأبصار ويعزز الساعي مع تغريمہ للمسعى به ما غرمہ بسعایته الكاذبة كانت واقعة الفتوى واقتصر على نقل فيها بخصوصها وينبغي عدم التوقف في القول بتعزیره لارتكابه معصية لأحد فيها ولا قصاص و هو الضابط لوجود التعزیر كما أفاده بعض المحققین. (الحموی على الأشباه ٢٣٨١)

**نوث:** حموی کی یہ پوری عبارت اس لئے نقل کی گئی ہے تاکہ ضمان ساعی کے مسئلہ پر پوری طرح روشنی پڑ سکے، طبائع کو خصوصیت کے ساتھ یہ بحث سمجھ کر پڑھنی چاہئے۔

## (۶) مشترک اجیر پر ضمان :

اجیر مشترک (جو کسی معین شخص کا اجیر نہ ہو مثلاً درزی یا دھوپی جواپی جگہ رک کام کرتا ہے) کے پاس اگر کوئی چیز (جسے اس نے کام کرنے کے لئے لے رکھا ہے) بغیر کسی بڑی اور عام آفت

کے ہلاک ہو جائے تو امام ابوحنیفہ کا مذہب یہ ہے کہ امانت ہونے کی وجہ سے اجیر پر اس کے ضمایع کا کچھ ضمانت نہ ہوگا۔ لیکن حضرات صاحبینؓ نے فرمایا کہ اس زمانہ میں مشترک اجیر لوگوں کے اموال کی حفاظت میں سستی کرنے لگے ہیں اور یہی ان کا معمول بن گیا ہے اس لئے عام تباہی کے علاوہ صورت میں ایسے اجیر لوں پر حفاظت میں کوتاہی کی بنا پر تاوان واجب کیا جائے گا تاکہ مفاسد کا سد باب ہو سکے۔ و منه تضمین الأجير المشترک۔ (شرح عقود رسم المفتی ص: ۹۶، س: ۲)

وقال في رد المحتار: وبقولهما يفتى لغير أحوال الناس وبه يحصل  
صيانة أموالهم لأنه إذا علم أنه لا يضمن ربما يدعى أنه سرق أو ضاع من يده.

(شامی، ۶۵۱۶، شامی زکریا ۸۹۱۹)

### (۷) یتیم کے مال کو مضاربت پر لینا صحیح نہیں ہے :

حنفیہ کے اصل مذہب میں اگرچہ وصی (جس کے بارے میں میت نے کہہ رکھا ہو کہ میرے مرنے کے بعد میرے بچوں کی دیکھ رکیھ تمہارے ذمہ ہے) کے لئے یتیم کے مال کو مضاربت پر لینا درست ہے، مگر اب چوں کہ امانت و دیانت میں کمزوری عام ہو گئی ہے، اس لئے فقہاء نے فتویٰ دیا ہے کہ یتیم کے مال میں سے وصی کو بھی خود مضاربت پر لینے کا اختیار نہیں ہے، آج بھی فتویٰ اسی پر ہے۔ و قولهم أن الوصى ليس له المضاربة بمال اليتيم في زماننا.

(شرح عقود رسم المفتی ص: ۹۶، س: ۳)

قال في الشامي: وليس للوصى في هذا الزمانأخذ مال اليتيم مضاربة ولا إقراض ماله۔ (شامی کراچی ۷۱۲۶، شامی زکریا ۴۲۶۱۰)

### (۸) موقفہ زمین کے غصب پر ضمانت :

حضرات شیخینؓ کے نزدیک حکم یہ ہے کہ اگر کوئی شخص کسی زمین کو غصب کر لے پھر وہ زمین آفت سماویہ مثلاً سیلا ب کی وجہ سے ضائع ہو جائے تو غاصب پر ضمانت نہ ہوگا، جب کہ امام محمدؐ اور ائمۃ ثلاثہ کا مذہب یہ ہے کہ ایسی صورت میں غاصب سے زمین کا ضمان لیا جائے گا۔ یہ مذہب کی دو

روایتیں ہیں اور شیخین حکا قول ظاہر الروایہ ہے لیکن متأخرین فقهاء نے فساد زمانہ کی وجہ سے ہر وقف کی جائیداد اور تبیہوں کی ملکیت والی زمینوں میں امام محمدؐ کے قول پر فتویٰ دیتے ہوئے غاصب کو ضامن قرار دیا ہے۔ وافتاؤهم بتضمين الغاصب عقار اليتيم والوقف. (شرح عقود رسم المفتی ص: ۹۶، س: ۲)

قال في الدر المختار: والغصب إنما يتحقق فيما ينقل فلو أحد عقاراً وهلک في يده بافة سماوية كغلبة سيل لم يضمن خلافاً لمحمدٌ وبقوله قالت الثالثة وبه يفتى في الوقف ذكره العيني. ( الدر المختار ۱۸۶۱۶، شامی زکریا ۲۷۱۱۹ )

### (۹) وقف کی جائیدادوں کو کرایہ پر اٹھانے کا مسئلہ :

ظاہر مذہب یہ ہے کہ کوئی بھی آدمی اپنی جائیداد کو خواہ صحرائی ہو یا سکنائی کسی بھی معین مدت کے لئے کرایہ پر دے سکتا ہے اس کی کوئی تحدید نہیں ہے۔ لیکن حضرات فقهاء نے فرمایا کہ وقف کی جائیدادوں میں طویل مدت تک کرایہ پر دینے میں ناجائز قبضہ کا اختلال ہے لہذا وقف کی صحرائی جائیدادیں یک بارگی صرف تین سال تک ہی کرایہ پر دی جاسکیں گی اور سکنائی جائیدادیں (مکان اور دوکان وغیرہ) صرف ایک سال کے معاهدہ پر کرایہ کے طور پر دی جاسکتی ہیں اس مدت کے بعد وبارہ معاهدہ کی تجدید کرانی ہوگی، تاکہ موقوفہ جائیدادوں پر ناجائز قبضوں کی روک تھام ہو سکے۔ عدم إجارتہ أكثر من سنة في الدور وأكثر من ثلاث سنين في الأراضي مع مخالفته للأصل المنصب من عدم الضمان وعدم التقليير بمدة. (شرح عقود رسم المفتی ص: ۹۶، س: ۳)

ولم تزد في الأوقاف على ثلاث سنين في الضياع وعلى سنة في غيرها كما مر في بابه. ( الدر المختار ۶۱۶، شامی زکریا ۸۱۹ )

### (۱۰) فیصلہ میں قاضی اپنے علم پر مدارنہ رکھے :

اگر کسی مقدمہ کے سلسلہ میں قاضی کو خود معتبر معلومات ہوں تو اصل مذہب یہ ہے کہ وہ اپنے علم کے مطابق مقدمہ کا فیصلہ کر سکتا ہے مگر چوں کہ قاضیوں میں امانت و دیانت زیادہ باقی نہیں رہی

اس لئے اس زمانہ میں فتویٰ یہ ہے کہ قاضی کو فیصلہ میں اپنے علم پر اعتماد کرنا درست نہیں بلکہ شرعی صوابط کے مطابق اقرار اور بینہ کے موافق فیصلہ کرنا ضروری ہے۔ و منعهم القاضی ان یقاضی بعلمہ۔ (شرح عقود رسم المفتی ص: ۹۶، س: ۴)

**قال فی رد المحتار: والفتوى على عدمه في زماننا كما نقله في الأشباء عن جامع الفصولين وقيد بزماننا لفساد القضاة فيه وأصل المذهب الجواز.**

(شامی کراچی ۱۹۷۸ء، شامی زکریا ۲۳۱۵ء)

## (۱۱) بیوی کو سفر میں ساتھ لے جانا :

حنفیہ کا اصل مذهب یہ ہے کہ مہر معجل ادا کرنے کے بعد شوہر بیوی کو بہر حال اپنے ساتھ سفر میں لے جاسکتا ہے، خواہ بیوی راضی ہو یا نہ ہو، اور اگر مہر ادا نہیں کی ہے تو بیوی کی رضامندی کے بغیر اس نہیں لے جاسکتا، لیکن حضرات متاخرین نے فتویٰ دیا کہ چوں کہ زمانہ خراب ہو گیا ہے اور سفر کی حالت میں عورت کو پوری طرح امن و امان ملنے کا یقین نہیں رہتا ہے لہذا اب مرد بیوی کی رضامندی کے بغیر اس کے کہیں سفر میں نہیں لے جاسکتا خواہ اس کی مہر ادا کی ہو یا نہ کی ہو والا یہ کہ مصلحت کا تقاضا اس کے برخلاف ہو۔ (۱) و افتاؤهم بمنع الزوج من السفر بزوجته وإن

أوفاها المعجل لفساد الزمان۔ (شرح عقود رسم المفتی ص: ۹۶، س: ۴)

**قال فی رد المحتار: ثم ذکر عن الفقيهين - أبي القاسم الصفار وأبي الليث انه ليس له السفر مطلقاً بلا رضاها، لفساد الزمان لأنها لا تأمن على نفسها في منزلها فكيف إذا خرجت وأنه صرخ في المختار بأن عليه الفتوى وفي المحيط أنه المختار - وفي الولوالجية أن جواب ظاهر الرواية كان في زمانهم أما في زماننا فلا و قال فجعله من باب اختلاف الحكم باختلاف العصر والزمان الخ.** (شامی کراچی ۱۴۶۳ء، شامی زکریا ۲۹۴۱ء)

(۱) شامی میں لکھا ہے کہ اصل میں اس مسئلہ کا مدار مفتی کی رائے پر ہے وہ صورت حال کا بغور معاینة کر کے فیصلہ کرے) (شامی ۱۳۷/۳)

## (۱۲) شوہر کی طرف سے استثناء کا دعویٰ بلا بینہ قبول نہیں :

اصل مذہب یہ ہے کہ اگر شوہر دعویٰ کرے کہ میں نے طلاق کے بعد انشاء اللہ کہہ دیا تھا تو اس کا دعویٰ مطلقاً قبول کر لیا جائے گا اور یہوی پر طلاق واقع نہ ہوگی چاہے شوہر نے اپنے انشاء اللہ کہنے پر بینہ پیش کیا ہو یا نہ کیا ہو؟ جب کہ بعض لوگوں کا قول یہ ہے کہ بینہ کے بغیر شوہر کا انشاء اللہ کہنے کا دعویٰ قبول نہیں کیا جائے گا، بعد کے زمانہ میں چوں کہ لوگوں میں جھوٹ راجح ہو گیا اور دینی حالات خراب ہو گئے اس لئے علماء نے یہی فتویٰ دینا مناسب سمجھا کہ بینہ کے بغیر شوہر کا طلاق کے بعد انشاء اللہ کہنے کا دعویٰ قبول نہ کیا جائے گا، حالاں کہ یہ حکم ظاہر مذہب کے خلاف ہے۔ عدم سماع قوله أنه استثنى بعد الحلف بطلاقها إلا ببينة مع أنه خلاف ظاهر الرواية

وعللوه بفساد الرمان۔ (شرح عقود رسم المفتی ص: ۹۶، س: ۵)

وقال في الدر المختار ويقبل قوله إن ادعاه وإن انكرته في ظاهر المروى عن صاحب المذهب وقيل لا يقبل إلا ببينة وعليه الاعتماد والفتوى احتياطاً لغلبة الفساد۔ (حانیہ، در مختار کراچی ۱۳، ۳۷۰، شامی زکریا ۱۴، ۶۲۸۱-۶۲۹۶)

## (۱۳) مهر مجّل لئے بغیر عموماً یہوی شوہر کو قابو نہیں دیتی :

مسئلہ یہ ہے کہ اگر کسی شخص کا انتقال ہو جائے اور اس کی مدخولہ یہوی اس کے ترکہ سے مهر کا مطالبہ کرے اور یہ کہے کہ میں نے ایک روپیہ بھی مهر کا بتاب تک وصول نہیں کیا ہے تو قاعدة مذہب کے اعتبار سے اس کی بات معتبر ہونی چاہئے اس لئے کہ وہ وصول کرنے کی منکر ہے، لیکن چوں کہ فقهاء کے زمانہ میں عرف یہ تھا کہ کوئی عورت مهر مجّل لئے بغیر شوہر کو اپنے اوپر قدرت نہ دیتی تھی اس لئے زیر بحث مسئلہ میں معاشرہ میں راجح مهر مجّل کی مقدار کے بقدر روپیہ گھٹا کر عورت کو مهر ادا کرنے کا فتویٰ دیا جائے گا، حالاں کہ یہ قاعدة مذہب کے خلاف ہے۔ عدم تصدیقہا بعد الدخول بھا بأنها لم تقبض ما اشتترط لها تعجیلها من المهر مع أنها منكرة للقبض وقاعدة

المذهب أن القول للمنكر لكنها في العادة لا تسلم نفسها قبل قبضه. (شرح عقود

رسم المفتى ص: ٩٦، س: ٦-٧)

قال في رد المحتار: قلت وحاصل ذلك أن المرأة إذا مات زوجها وقد دخل بها فجاءت تطلب مهرها هي أو ورثتها بعد موتها وقد جرت العادت أنها لا تسلم نفسها إلا بعد قبض شيء من المهر كمائة درهم مثلاً لا يحكم لها بجميع مهر المثل عند عدم التسمية بل ينظر فإن أقرت بما تعجلت من المتعارف وإلا قضي عليها به. (شامى كراچى ١٥١١٣، شامى زکریا ٤٠٠١٤)

**نوث:** یعنی فقهاء کے زمانہ یا ان کے علاقہ کا ہے، ہمارے دیار میں عموماً حورتیں بلا مهر لئے شوہر کو اپنے اور قابو دیتی ہیں، اس لئے یہاں ظاہر الروایہ سے عدول کی ضرورت نہیں ہے۔ واللہ تعالیٰ اعلم۔ (مرتب)

## (۱۲) کل حل علیٰ حرام سے بلا نیت طلاق :

ظاہر نہ ہب یہ ہے کہ اگر کوئی شخص یہ کہے کہ کل حل علیٰ حرام یعنی ہر حلال چیز مجھ پر حرام ہے، تو اس کا تعلق صرف کھانے پینے کی چیزوں سے ہوگا، اس کی وجہ سے (بلانیت) بیوی حرام نہ ہوگی۔ لیکن حضرات مشائخ نے فرمایا کہ اب عرف یہ ہے کہ لوگ یہ جملہ عورتوں کو حرام کرنے کے لئے بولتے ہیں، لہذا اس جملہ سے بیوی پر بغیر نیت طلاق باسن کے وقوع کا فتویٰ دیا جائے گا، یہی حکم الطلاق یلزم منی، الحرام یلزم منی، و علیٰ الطلاق، و علیٰ الحرام کا بھی ہے۔

وكذا قالوا في قوله كل حل علىٰ حرام يقع به الطلاق للعرف قال مشائخ بلخ وقول محمد لا يقع إلا بالنية أجاب به علىٰ عرف ديارهم أما في عرف بلادنا فيريدون به تحريم المنكوحه فيحمل عليه، نقله العلامه قاسم ونقل عن مختارات النوازل أن عليه الفتوى لغلبة الاستعمال بالعرف ثم قال قلت ومن الألفاظ المستعملة في هذا في مصرنا: الطلاق یلزم منی والحرام یلزم منی وعلیٰ

الطلاق وعلیٰ الحرام. (شرح عقود رسم المفتى ص: ٩٦، س: ٧-١٠)

قال في رد المحتار: وهذا كله جواب ظاهر الرواية ومشائخنا قالوا يقع به الطلاق من غير نية لغبنة الاستعمال وعليه الفتوى. (شامي كراچی ۷۳۳/۳، شامي زکریا ۵۱۳/۵)

### (۱۵) جہیز کی ملکیت کا مسئلہ :

اگر بڑی کا باپ یہ دعویٰ کرے کہ میں نے شادی کے موقع پر بڑی کو جو سامان دیا تھا وہ ملکیت کے طور پر نہیں بلکہ عاریت کے طور پر تھا۔ تمہب کے قاعدہ: القول للملک في التملیک۔ (مالک بنانے میں مالک بنانے والے کا قول معتبر ہے) کی رو سے باپ کا دعویٰ صحیح ہونا چاہئے اور سارا جہیز باپ کو واپس کر دینا چاہئے، مگر حضرات فقہاء نے اس مسئلہ کا مدارف پر رکھتے ہوئے یہ فیصلہ کیا کہ جہاں بڑی کو جہیز کا سامان ملکیت کے طور پر دینے کا رواج ہو وہاں باپ کی طرف سے عاریت کا دعویٰ تسلیم نہیں کیا جائے گا، اور یہی قول مفتی ہے گو کہ ضابطہ نہب کے خلاف ہے۔ وکذا مسئلہ دعویٰ الاب عدم تملیکہ البنت الجهاز فقد بنوها على العرف مع أن القاعدة أن القول للملک في التملیک۔ (شرح عقود رسم المفتی ص: ۹۶، س: ۱۰)

ونقل العالمة الشامي عن الإمام الأجل الشهيد: المختار للفتوى أن يحكم بكون الجهاز ملكاً لاعارية فالقول للأب الخ. (شامي کراچی ۱۵۷/۳، شامي زکریا ۳۰۹/۴)

### (۱۶) شوہر کی وفات کے بعد مہر موجل کے بارے میں بیوی کا قول قبول ہے :

اگر شوہر کے انتقال کے بعد بیوی اور شوہر کے وارثین میں مہر کے متعلق اختلاف ہو جائے، بیوی ایک مقدار کا مطالبه کرے اور وارثین اس سے انکار کریں اور بینہ کسی کے پاس نہ ہو، تو ضابطہ کے اعتبار سے چوں کہ وارثین منکر ہیں اس لئے ان کی بات قسم کے ساتھ قبول ہونی چاہئے تھی۔ لیکن اس مسئلہ میں مہر مثل کی تائید و شہادت کی وجہ سے عورت کی بات مہر مثل کی حد تک قبول کی جاتی ہے، اسی اعتبار سے اس مسئلہ کو عرفی مسائل میں شمار کیا گیا ہے۔ وکذا جعل قول المرأة في

مؤخر صداقها مع أن القول للمنكر. (شرح عقود رسم المفتى ص: ٩٦ - س: ١٢-١١) وفى المحيط معزياً إلى النواذر: إمرأة ادعت على زوجها بعد موته أن لها عليه ألف درهم من مهرها فالقول قولها إلى تمام مهر مثلها عند أبي حنيفة لأن مهر المثل يشهد لها. (البحر الرائق ١٨٤/٣)

اختللت مع الورثة في مؤخر صداقها على الزوج ولا بنية فالقول قولها

بيمينها إلى قدر مهر مثلها. (شامى كراچى ٥٦٢١٥، شامى زكريا ٣١٤١٨)

(١٧) مزارعات کے بارے میں صاحبین کے قول پر فتویٰ :

اسی عرف و تعلیم کی بنیاد پر حضرات فقہاء نے مزارعات اور بیانی کے مسئلہ میں صاحبین کے قول پر جواز کا فتویٰ دیا ہے، حالاں کہ یہ امام صاحبؒ کے ظاہر مذہب کے خلاف ہے۔ وکذا قولہم المختار فی زماننا قولہما فی المزارعة والمعاملة الخ. (شرح عقود رسم المفتى ص: ٩٦، س: ١٢)

قال فی الدر المختار: وعندہما تصح وبه یفتی للحاجة وقياساً على

المضاربة. ( الدر المختار زکریا ٣٩٨١٩، کراچی ٢٧٥١٦)

(١٨) وقف کے بارے میں صاحبین کے قول پر فتویٰ :

اور اسی بنا پر وقف کے مسئلہ میں امام صاحبؒ کے قول کو چھوڑ کر صاحبین کے مذہب کو اختیار کیا گیا ہے۔ یعنی امام صاحبؒ کے نزدیک وقف کرنے کے بعد واقف کی ملکیت سے موقوفہ زمین اس وقت تک نہیں نکلتی جب تک کہ حاکم اس وقف کے بارے میں فیصلہ نہ کر دے یا وہ خود اس کی وصیت نہ کر دے اور وہ اپنی زندگی میں اپنے وقف سے رجوع کر سکتا ہے، جب کہ صاحبین کے نزدیک ایسی کوئی قید نہیں ہے اور وقف کرتے ہی واقف کی ملکیت ختم ہو جاتی ہے اس کے بعد واقف کو اس کے ختم کرنے کا اختیار نہیں رہتا اور نہ یہ یہ جائزیہ اس کے ترکہ میں شامل ہوتی ہے اسی پر مشاذ احناف کا فتویٰ ہے۔ والوقف لمكان الضرورة والبلوى.

(شرح عقود رسم المفتى ص: ٩٦، س: ١٢)

**وإنما الخلاف بينهم في اللزوم وعدمه فعنه يجوز جوازاً لا إعارة**

فتصرف منفعته إلى جهة الوقف مع بقاء العين على حكم ملك الواقف ولو رجع عنه حال حياته جاز مع الكراهة ويورث عنه ولا يلزم إلا بأحد الأمررين إما أن يحكم به القاضى أو يخرجه مخرج الوصية وعندهما يلزم بدون ذلك وهو قول

عامة العلماء وهو الصحيح. (شامى كراچى ٣٣٨١٤، شامى زکریا ٥٢٠٦)

### (١٩) طلب خصومت میں تاخیر سے شفعہ کا سقوط :

مشتری کے ضرر کو دفع کرنے کے لئے شفیع کی جانب سے طلب خصومت میں ایک مہینہ کی تاخیر کر دینے کی وجہ سے حق شفعہ کے ساقط ہونے پر فتویٰ دیا گیا ہے، حالانکہ یہ امام محمد گاندھب ہے، شیخینؒ کے نزدیک حق شفعہ تاخیر سے ساقط نہیں ہوتا۔ وہ قول محمدؐ بسقوط الشفعة إذا أخر طلب التمليك شهراً دفعاً للضرر عن المشتري.

(١٢: س: ٩٦) (شرح عقود رسم المفتی ص: ٩٦)

وفي الشامي: قال في شرح المجمع: وفي جامع الخانى: الفتوى اليوم على

قول محمد لتغير أحوال الناس في قصد الإضمار. (شامى كراچى ٢٢٦٦، شامى زکریا ٣٣١١٩)

### (٢٠) غير كفو میں ولی کی اجازت کے بغیر نکاح منعقد نہیں :

حنفیہ کا ظاہر مذہب یہ ہے کہ لڑکی جب عاقل و بالغ ہوا وہ اپنی رضامندی سے غیر کفو میں نکاح کر لے تو نکاح منعقد ہو جاتا ہے، البتہ ولی کو حق اعتراض رہتا ہے اگر وہ چاہے تو قاضی کے یہاں دعویٰ کر کے نکاح فتح کر سکتا ہے اور قاضی کے فتح کے بغیر وہ نکاح فتح نہ ہوگا۔ اس کے برخلاف امام صاحبؒ سے حسن بن زیادؒ کی روایت یہ ہے کہ لڑکی اگر غیر کفو میں نکاح کر لے تو نکاح منعقد ہی نہیں ہوتا، یعنی اس کے فتح کے لئے قاضی کے یہاں سے فتح کی ضرورت نہیں۔ مشائخ نے فساذ زمانہ کی وجہ سے اس مسئلہ میں حسن بن زیادؒ کے قول پر فتویٰ دیا ہے۔ وروایة الحسن بأن الحرة العاقلة لو زوجت نفسها من غير كفو لا يصح. (شرح عقود رسم المفتی ص: ٩٦، س: ١٣)

وهذا بناء على ظاهر الرواية من أن العقد صحيح وللولي الاعتراض

أماعلى روایة الحسن المختار للفتوی من أنه لا يصح فالمعنى معتبرة في

الصححة. (شامی کراچی ۸۴۱۳، شامی زکریا ۲۰۶۴، عالمگیری ۲۹۲۱)

**نحوٗ:** اس زمانہ کے علماء کے لئے یہ امر قابل غور ہے کہ آج کل مخلوط تعلیم کی بنابرائے اور اڑکیوں کا عام طور پر میں جوں بڑھتا جا رہا ہے اور کفاءت کا اعتبار اس معاشرہ میں باقی نہیں رہا ہے۔ کیا ان حالات میں اس طرح کا اگر کوئی نکاح ہو جائے تو احتیاط حسن بن زیادؑ روایت پر عمل کرنے میں ہے یا ظاہر الروایہ پر فتویٰ دے کر ان دونوں کو گناہ سے بچانے میں ہے؟ اس پہلو پر حضرات مفتیان کرام کو غور کرنا چاہئے۔ اور پیش آمدہ معاملہ کا گیرائی سے جائزہ لے کر مناسب فیصلہ کرنا چاہئے۔ (مرتب)

### (۲۱) راستہ کی مٹی پاک ہے :

راستہ کی کچڑ قیاس کی رو سے ناپاک ہونی چاہئے اس لئے کہ وہاں ناپاک چیزیں پڑی رہتی ہیں، لیکن مشائخ نے ضرورت کی بنابرائے شخص کے حق میں معاف قرار دیا ہے، جسے برسات کے زمانہ میں بار بار راستہ میں آنا جانا پڑتا ہے اس کے کپڑے میں اگر وہ مٹی لگ جائے تو جب تک نجاست بالکل ظاہرنہ ہو اس وقت تک اس کے کپڑے پاک کہے جائیں گے اور ان کپڑوں کے ساتھ نماز درست کھلائے گی۔ وأفتاؤهُم بالعفو عن طين الشارع للضروة۔

(شرح عقود رسم المفتی ص: ۹۶، س: ۱۴)

وقال في الشامي: والحاصل أن الذي ينبغي أنه حيث كان العفو للضرورة وعدم إمكان الاحتراز أن يقال بالعفو وإن غلت التجasse ما لم ير عينها لو أصابه بلا قصد وكان ممن يذهب ويجيء وإلا فلا ضرورة. (شامی کراچی ۳۲۵-۳۲۴/۱، شامی زکریا ۵۳۱/۱)

**قنبیہ :** اس عبارت سے معلوم ہوا کہ جس شخص کو بار بار آنے جانے کی ضرورت نہ پڑتی ہو اس کے کپڑوں پر اگر چھینٹیں زیادہ آجائیں تو اسے پاک کرنے کے بعد ہی نماز پڑھنی چاہئے۔

### (۲۲) بیع الوفاء کا ضرورۃ جواز :

اگر کوئی شخص قرض لینے کی غرض سے دوسرے کو اپنی زمین اس شرط پر بیع دے کہ جب میں لی ہوئی رقم واپس دوں گا تو یہی زمین لے لوں گا اور اس درمیان مشرتی اس زمین میں پیداوار

کر کے فائدہ اٹھاتا رہے گا، تو یہ معاملہ اصول کے اعتبار سے گوکہ ناجائز ہونا چاہئے کیوں کہ اس میں رہن سے انتفاع کا محظوظ پایا جا رہا ہے، لیکن حفیہ میں سے مشائخ بخارا اور مشائخ سمرقند وغیرہ نے ضرورتہ اس بیع کو اور اس سے انتفاع کو جائز قرار دیا ہے اور ہمارے اکابر میں حکیم الامت حضرت مولانا اشرف علی تھانویؒ اور فقیر وقت حضرت مولانا خلیل احمد صاحب انیسٹھویؒ نے بھی ضرورت کے وقت اس معاملہ کی فی الجملہ اجازت دی ہے۔ (امداد الفتاویٰ / ۲۷۰، فتاویٰ خلیلیہ / ۳۹۵)

**وبیع الوفاء.** (شرح عقود رسم المفتی ص: ۹۶: ۱۴)

وقيل بيع يفيد الانتفاع به وفي إقالة شرح المجمع عن النهاية وعليه الفتوى. (در مختار وفى الشامي: وهذا محتمل لأحد قولين الأول: أنه بيع صحيح مفيد لبعض أحکامه من حل الانتفاع به إلا أنه لا يملک بيعه قال الزيلعى في الإكراه وعليه الفتوى الخ. وفي النهر والعمل في ديارنا على ما رجحه الزيلعى). (شامي کراجی ۲۷۷-۲۷۶/۱۵، شامي زکریا ۵۴۶/۷)

### (۲۳) استصناع کا جواز :

آرڈر دے کر مال بنانے کا معاملہ اگرچہ مبیع معدوم ہونے کی بنا پر ناجائز ہے لیکن جن چیزوں میں اس طرح معاملہ کرنے کا رواج عام ہو جائے ان میں استصناع کا معاملہ درست ہو جاتا ہے، گویا کہ اس کا مدار بھی عرف پر ہے۔

**والاستصناع.** (شرح عقود رسم المفتی ص: ۹۶: ۱۴)

قال في الهندية الاستصناع جائز في كل ما جرى التعامل فيه كالقلنسوة والخف والأوانى المختلفة من الصفرة والنحاس وما أشبه ذلك استحساناً. (هنديہ ۲۰۷/۳)

### (۲۴) سقایہ سے پانی پینا :

سقایہ سے پانی خریدنے میں اصول کے اعتبار سے یہ شرط ہونی چاہئے کہ پانی کی مقدار متعین ہوتا کہ مبیع مجهول نہ رہے لیکن لوگوں کا عرف اس طرح جاری ہے کہ مثلاً ایک روپیہ دے کر

جتنا چاہے پانی سقایہ پی لیتے ہیں الہذا اصول کے خلاف ہونے کے باوجود عرف کے مطابق جواز کا فتویٰ دیا گیا ہے۔ (یہی حکم بعض ہوٹلوں میں مقررہ قیمت پر پیٹ بھر کھانے کا بھی ہے)

والشرب من السقاية بلا بيان مقدار ما يشرب۔ (شرح عقود رسم المفتی ص: ۹۶ س: ۱۴)

وأجمعوا على جواز الشرب من السقاية بالعوض مع جهالة قدر المشروب  
واختلاف عادة الشاربين وعكس هذا۔ (نحوی علی مسلم ۲۱۲، تکملہ فتح الملهم ۳۲۰/۱)

## (۲۵) غسل خانہ کرایہ پر اٹھانا :

پہلے زمانہ میں حمام (غسل خانے) کرانے پر دئے جاتے تھے تاکہ لوگ اس میں جا کر غسل کریں، اب ان میں دو چیزیں اصول کے خلاف ہیں: ایک تو یہ کہ حمام میں رہنے کی مدت متعین نہ ہوتی تھی۔ دوسرے یہ کہ ایک آدمی کتنا پانی استعمال کر سکتا ہے اس کی تعین نہ ہوتی تھی، اور یہ دونوں باتیں کرایہ داری کے معاملہ کو فاسد کرنے والی ہیں مگر حضرات فقہاء نے عرف و عادت کی بنا پر اس اجراء کو جائز قرار دیا ہے۔

ودخول الحمام بلا بيان مدة المكث ومقدار ما يصب من الماء۔ (شرح

عقود رسم المفتی ص: ۹۶ س: ۱۵)

قال في رد المحتار: لأن الناس فيسائر الأمصار يدفعون أجراً للحمام وإن لم يعلم مقدار ما يستعمل من الماء ولا مقدار القعود فدل إجماعهم على جواز ذلك وإن كان القياس يأبه لروده على إتلاف العين مع الجهالة۔ (شامی

کراچی ۵۲۶، شامی زکریا ۷۱۹)

## (۲۶) آٹے اور روٹی کو قرض لینا :

آٹا اور روٹی بظاہر اشیاء ربوبیہ میں سے ہیں، الہذا قیاس کا تقاضا یہ ہے کہ وزن یا عدد کسی بھی طرح ان کو قرض لینا جائز نہ ہو، یہی امام ابوحنیفہؒ کا نہجہب ہے، امام ابویوسفؒ نے وزن کر کے قرض لینے کی اجازت دی ہے، اور امام محمدؐ نے لوگوں کے عرف و عادت اور تعامل اور ان کی سہولت پیش نظر رکھتے ہوئے

وزن اور عدد ہر اعتبار سے آٹے اور روٹی کو قرض ملنے کی اجازت دی ہے، بہت سے مشائخ کا فتویٰ اسی قول پر ہے۔ واستقراض العجین والخبز بلا وزن، وغير ذلك مما بنى على العرف وقد ذكر في ذلك في الأشباه مسائل كثيرة. (شرح عقود رسم المفتى ص: ۹۶ س: ۱۵)

قال في الدر المختار: ويستقرض الخبز وزناً وعدداً عند محمدٍ وعليه الفتوى واستحسنه الكمال واختاره المصنف تيسيراً. (در مختار) وقال أبو حنيفة لا يجوز وزناً ولا عدداً قال أبو يوسف يجوز وزناً لا عدداً وبه جزم في الكنز وفي الزيلعى: أن الفتوى عليه، قوله وعليه الفتوى وهو المختار لتعامل الناس و حاجاتهم إليه. (شامی کراچی ۱۸۵/۱۵، شامی زکریا ۴۲۱/۷)

### مثالوں پر تبصرہ

مذکورہ بالا احکامات میں تبدیلی یا تو ضرورت کی وجہ سے ہوئی یا عرف و عادت کے بدل جانے کی وجہ سے ہوئی ہے، اور یہ مسائل مذہب سے خارج نہیں کہے جاتے کیونکہ اگر صاحب مذہب اس زمانہ میں موجود ہوتے تو وہ بھی یہی فتویٰ دیتے۔ اسی طرح اگر یہ تغیرات ان کے زمانہ میں پیش آجائتے تو ان کا جواب بھی مشائخ متاخرین کے جواب سے مختلف نہ ہوتا، اسی بات نے متاخرین فقہاء مجتہدین کو اس بات کا حوصلہ بخشا ہے کہ وہ عرف پر مبنی مسائل میں اپنے زمانہ کے احوال کا لحاظ کرتے ہوئے متفقہ مین کی آراء کے خلاف موقف اپنائیں، جیسا کہ کل حل علی حرام اور اجارہ علی التعلیم کے مسئلہ میں گذر چکا ہے۔ فہلہ کله فقد تغیرت أحکامها لتغیر الزمان ص: ۹۶ س: ۱۶ - إلى قوله - وكذا ما قدمناه في الاستيellar على التعليم. ص: ۹۶ س: ۲۰)

### تمرین: ۳۵

- الف: مذکورہ مثالوں کے موافق بالترتیب مزید ایک ایک فقہی عبارت کتب فقہیہ سے نقل کر کے لکھیں۔
- ب: اس جیسی مزید ارثائیں تلاش کریں، اور اس کے لئے اردو فتاویٰ کا گہری نظر سے مطالعہ کریں۔

## کیا عرف بد لئے سے بار بار حکم بد لے گا؟

اگر کوئی یہ کہے کہ عرف تو وقتاً فوتاً بدلتا رہتا ہے تو کیا ہمارا فتویٰ بھی اسی طرح بدلتا رہے گا اور کیا عرف کی تبدیلی کی وجہ سے بعد میں آنے والے مفتی کو اپنے پیش رو مفتی کی مخالفت کی گنجائش دی جاتی رہے گی؟

اس کا جواب یہ ہے کہ بے شک آج بھی عرف بد لئے سے حکم بدلتا ہے، کیوں کہ متاخرین نے بھی ذکورہ مسائل میں عرف کی تبدیلی کی وجہ سے متقدیں کے خلاف رائے اپنائی ہے، لہذا آج کا مفتی بھی الفاظ عرفیہ اور مسائل عرفیہ میں نئے پیدا شدہ عرف پر حکم کامدار کر کے گا۔ فیان قلت: العرف يتغیر مرةً بعد مرةً ص: ۹۷ س: ۲۰ - إلى قوله - اقتداءً بهم. ص: ۹۷ س: ۳)

## عرف پر فتویٰ دینے کی اہلیت

ہر مفتی عرف پر فتویٰ دینے کی اہلیت نہیں رکھتا، بلکہ اس ذمہ داری سے وہی مفتی عہدہ برآ ہو سکتا ہے جو اگر مجتہد نہ ہو تو کم از کم درج ذیل تین صفات سے متصف ہو:

(۱) مسائل کو تمام شرائط و قیودات کے ساتھ جانتا ہو اور قواعد شریعت سے واقف ہو؛ تاکہ اسے معلوم ہو سکے کہ کس طرح کے عرف پر حکم کامدار کھانا صحیح ہے اور کس طرح کے عرف پر صحیح نہیں ہے؟

(۲) اپنے زمانہ کے عرف اور لوگوں کے حالات سے واقفیت رکھتا ہو۔

(۳) اور اس نے فقہی مہارت حاصل کرنے کے لئے کسی ماہر استاذ کی شاگردی کا شرف حاصل کیا ہو، یہ شرط بھی نہایت ضروری ہے، اسی بنابر "منیۃ المفتی" کے آخر میں لکھا ہے کہ اگر کوئی شخص ہمارے اصحاب کی تمام کتابیں از بریاد کر لے پھر بھی اس پر کسی ماہر استاذ کی شاگردی لازم ہے اس لئے کہ بہت سے مسائل میں اپنے زمانہ کے لوگوں کے حالات اور عادتوں کو دیکھ کر جواب دیا جاتا ہے اور اس کا صحیح علم استاذ ہی سے معلوم ہو سکتا ہے۔ لکن بعد اُن یکون المفتی

ص: ۹۷ س: ۳ - إلى قوله - فيما لا يخالف الشريعة. ص: ۹۷ س: ۷)

## عرف سے صرف نظر روانہ نہیں

”فقیہ“ میں لکھا ہے کہ مفتی اور قاضی کے لئے یہ جائز نہیں کہ وہ (عرفی مسائل میں) عرف کو چھوڑ کر ظاہر مذہب پر فتویٰ دیں۔ اسی طرح کی بات ”خرالۃ الروایات“ میں بھی تحریر کی گئی ہے، اور ”الاشاہ“ میں ”بازاریہ“ کے حوالہ سے نقل کیا ہے کہ مفتی (عرفی مسائل میں) اسی حکم پر فتویٰ دے گا جو اس کے نزدیک مصلحت وقت کے زیادہ مناسب ہو۔ وفی القنیة لیس للمفتش ولا للقاضی

ص: ۹۷ س: ۷ - إلی قوله - بما يقع عنده في المصلحة. ص: ۹۷ س: ۱۰)

### زمانہ کی تبدیلی سے احکام بدلنے کی ایک مثال

علامہ شامیؒ فرماتے ہیں کہ میں نے ”حاشیہ رد المحتار“ میں باب القسامہ کے تحت یہ مسئلہ لکھا ہے کہ اگر مقتول کا ولی دوسرے محلہ کے کسی شخص کے خلاف قتل کا دعویٰ کر دے اور اس شخص (مدعہ علیہ) کے خلاف (جہاں مقتول پایا گیا ہے اس) محلہ کے دو شخص گواہی بھی دے دیں تو امام ابوحنیفہؓ کے نزدیک ان کی گواہی قبول نہ ہوگی، اور حضرات صاحبینؓ کے نزدیک قبول کی جائے گی، اس پر علامہ حمویؓ نے علامہ مقدسؓ سے نقل کیا ہے کہ انہوں نے فرمایا کہ میں نے مسئلہ مذکورہ میں نہ صرف امام صاحبؐ کے قول پر فتویٰ دینے سے توقف کر لیا ہے بلکہ اس قول کی اشاعت سے بھی منع کر دیا ہے اس لئے کہ اس میں عام لوگوں کا ضرر پایا جاتا ہے کیوں کہ اگر سرش اور فسادی لوگوں کو اس مسئلہ کا علم ہو گیا تو وہ دوسرے محلوں میں جا کر قتل عام کرنے پر جری ہو جائیں گے، اور مطمئن رہیں گے کہ ان کے خلاف اہل محلہ کی کوئی گواہی قبول نہ کی جائے گی لہذا بہتر یہ ہے کہ اس بارے میں حضرات صاحبینؓ کے قول پر فتویٰ دیا جائے، خاص کر اس لئے بھی کہ زمانہ بدلنے سے احکام بدل جایا کرتے ہیں۔ (۱) و کتبت فی رد المحتار ص: ۹۷ س: ۱۰ - إلی قوله -

### والاحکام تختلف باختلاف الأيام انتہیٰ. ص: ۹۷ س: ۱۴)

(۱) یہ مسئلہ رد المحتار ۲/۳۶ پر موجود ہے لیکن اس کے اخیر میں علامہ شامیؒ نے علامہ قاسمؓ کا یہ نقل کیا ہے کہ والصحيح قول الإمام يعني امام صاحب کا قول صحیح ہے اور آگے لکھا ہے: تعم القلب يميل إلى ما ذكر ولكن اتباع النقل اسلم يعني اگرچہ دل وہی کہتا ہے جو علامہ مقدسؓ نے ذکر کیا مگر نقل کی پیروی زیادہ بہتر ہے۔ فقط والله أعلم۔

## دوسرا مثال

علامہ ابن الہمام نے فتح القدر کتاب الصوم: باب ما یوجب القضاۃ والکفارۃ میں صاحب ہدایہ کے قول (۱): ولو أكل لحمًا بين أسنانه كتخت دانتوں کے درمیان پھنے کے برابر پھنسی رہ جانے والی چیز کھالینے کی بنا پر کفارہ کے وجوب یا عدم و جبوب پر بحث کرتے ہوئے لکھا ہے کہ: تحقیقی بات یہ ہے کہ مفتی کو فقہی مسائل میں کچھ نہ کچھ اجتہاد کی صلاحیت اور لوگوں کی عادات وغیرہ سے واقفیت ضرور ہونی چاہئے۔ بریں باجوب یہ بات تحقیق ہے کہ کفارہ کا وجوب اسی وقت ہوتا ہے جب کہ جرم میں کمال پایا جائے تو مفتی کو اس کے متعلق فتویٰ دیتے وقت یہ دیکھنا چاہئے کہ مستفتی کس طرح کے لوگوں میں سے ہے؟ اگر وہ ایسا شخص ہے جو دانت کے درمیان کی بوٹی وغیرہ کھانے سے کراہت کرتا ہے تو حضرت امام ابو یوسفؒ کی رائے کے مطابق کفارہ واجب نہ ہونے کا قول کرے، اور اگر ایسا شخص ہے جو کراہت نہیں کرتا تو اس کا جرم کامل ہے اور امام زفرؒ کے قول کے مطابق اس پر کفارہ کی ادائیگی ضروری ہے۔ (فتح القدر ۲۲۲/۲) و قال فی فتح القدیر ص: ۹۷

س: ۱۴ - إلی قوله -أخذ بقول زفر. ص: ۹۷ س: ۱۷)

## ایک سوال و جواب

یہاں ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ کبھی کبھی فقہاء متعدد اقوال بلا ترجیح ذکر کرتے ہیں، نیز کبھی تصحیح میں اختلاف بھی ہو جاتا ہے تو ایسے وقت مفتی کو کیا کرنا چاہئے؟

اس کا جواب یہ ہے کہ اس صورت میں (بالغ نظر) مفتی وہی طریقہ اختیار کرے گا جو مشائن نے اختیار کیا ہے، یعنی لوگوں کے حالات اور عرف بدل جانے کا لحاظ رکھے گا اور جو قول لوگوں کے لئے باعثِ سہولت ہوا سی طرح جس پر لوگوں کا تعامل ہوا اور جس قول کی دلیل مضبوط ہوا سے اختیار (۲) ہدایہ کی مولہ بالاعبارت یہ ہے: ولو أكل لحمًا بين أسنانه فإن كان قليلاً لم يفطر وإن كان كثيراً يفطر وقال زفرٌ يفطر في الوجهين۔ (هدایہ ۱۹۸۱) لیکن صاحب فتح القدر کا حاشیہ مذکورہ عبارت پر نہیں بلکہ ذیل کی عبارت پر ہے۔ و فی مقدار الحمصة علیہ القضاۃ دون الكفارۃ عند أبی یوسف و عنذر زفر علیہ الکفارۃ أيضاً لأنَّه طعام متغير ولا نبی یوسف أَنَّه يعافه الطبع۔ (هدایہ ۳۳۲/۲ مع الفتح) بہتر ہوتا کہ یہی عبارت حوالہ کے تحت ذکر کی جاتی جیسا کہ خود علامہ شامیؒ نے ردا الخوارج ۳۹۸/۲ میں اسی طریقہ پر مسئلہ ذکر کیا ہے۔

کرے گا اور جو مفتی خود اس ذمہ داری کو انجام دینے کا اہل نہ ہوا سے اپنا ذمہ بری کرنے کے لئے معاملہ دوسرے اہلیت رکھنے والے ذمہ دار مفتی کے حوالہ کر دینا چاہئے۔ وفی تصحیح العلامہ قاسم فیان قلت ص: ۹۷ س: ۱۷ - إِلَى قُولِهِ - إِلَى مَنْ يَمْيِّز لِبَرَاءَةَ ذَمْتِهِ. ص: ۹۸ س: ۱)

## شریعت کے خلاف عرف معتبر نہیں

یہاں یہ بات اچھی طرح جان لینی چاہئے کہ عرف پر عمل اسی وقت تک ہو گا جب تک کہ وہ شریعت کے کسی صریح حکم کے خلاف نہ ہو، لہذا اگر عرف اور شریعت کے حکم میں تعارض ہو گا تو عرف کا قطعاً اعتبار نہ کیا جائے گا، مثلاً ظالمانہ میکسوں اور سودی لین دین کے عرف و رواج کی وجہ سے ان چیزوں کے حکم میں گنجائش نہ کرنے کا سوال ہی نہیں اٹھتا۔ فہذا کلمہ صریح فيما قبلنا من العمل بالعرف مالم يخالف الشريعة كالملکس والربا و نحو ذلك. ص: ۹۸ س: ۱-۲)

## اپنے زمانہ کے عرف کو نہ جانے والا مفتی جاہل ہے

مفتی اور قاضی حتیٰ کہ مجتهد پر بھی لازم ہے کہ وہ اپنے زمانہ کے لوگوں کے حالات اور عرف و رواج سے پوری واقفیت رکھے، علماء کا مشہور مقولہ ہے: من جهل بأهل زمانه فهو جاهل<sup>ل</sup> یعنی جو شخص اپنے زمانہ کے عرف اور عادات سے ناواقف ہو وہ جاہل ہے۔ فلا بد للمفتي والقاضي بل والمجتهد، معرفة أحوال الناس وقد قالوا ومن جهل بأهل زمانه فهو جاهل. ص: ۹۸ س: ۲)

## مسائل قضائیں امام ابو یوسف<sup>ر</sup> کے قول پر فتویٰ کی علت

یہ بات پہلے بھی آچکی ہے کہ قضا اور اس کے متعلق مسائل میں امام ابو یوسف<sup>ر</sup> کے قول پر فتویٰ کی بنیاد یہی ہے کہ انہیں ان مسائل پر تجربہ کا موقع زیادہ ملا ہے اور وہ لوگوں کے حالات سے زیادہ واقف تھے۔ و قدمنا أنهم قالوا: يفتني بقول أبي يوسف<sup>ر</sup> فيما يتعلق بالقضاء لكونه جَرَّبَ الواقع و عرف أحوال الناس. ص: ۹۸ س: ۳)

## امام محمدؐ کی عادتِ شریفہ

البحر الرائق میں علامہ کردری کی کتاب ”مناقب الامام محمد“ کے حوالہ سے نقل کیا ہے کہ امام محمدؐ مسائل کی تحقیق کے لئے بسا اوقات خود رنگ ریزوں کے پاس تشریف لے جاتے اور ان کے مابین رانج معاملات کی تفتیش کیا کرتے تھے (آج بھی مفتی کو تحقیق طلب مسائل میں اہل معاملہ سے برا اور است تنقیح کرنی چاہئے) وفی البحر عن مناقب الإمام محمد للكردري كان محمد ينھب إلى الصباغين ويسأل عن معاملتهم وما يدرونها فيما بينهم. ص: ۹۸ س: ۴)

## لوگوں کے حقوق کا خیال رکھا جائے گا

حضرات فقهاء کرام عوام الناس کے حقوق کا کس قدر خیال رکھتے ہیں اس سلسلہ کی ایک مثال یہ ہے کہ خراجی زمین میں اگر کوئی کاشت کار اعلیٰ قیمت کی چیز کے بجائے کم قیمت کی کھیتی کرے مثلاً انگور کی صلاحیت رکھنے والی زمین میں گیہوں کی پیداوار کرے تو اگر چہ مذہب خلق میں حکم یہ ہے کہ اس سے اعلیٰ چیز (مثلاً انگور) کی قیمت کے اعتبار سے خراج وصول کیا جائے گا۔ مگر اس حکم کو جانے کے باوجود مفتی اس بارے میں فتویٰ ظاہر نہیں کرے گا، کیوں کہ اس فتویٰ کو ظالم و جابر حکمران لوگوں کے اموال ناحق لوٹنے اور کھوٹنے کا ذریعہ بنالیں گے اور ہر کاشت کار سے کہیں گے کہ تمہاری زمین اس سے اچھی پیداوار دے سکتی ہے لہذا اسی اعتبار سے خراج ادا کرو۔ (وقالوا إذا زرع صاحب الأرض أرضه ص: ۹۸ س: ۵ - إلى قوله - کی لا یتجری الظلمة على أخذ أموال الناس. ص: ۹۸ س: ۶)

## ایک اعتراض اور اس کا جواب

عنایہ میں لکھا ہے کہ یہاں یہ اعتراض کیا گیا ہے کہ حکم معلوم ہونے کے بعد اس کا چھپانا منوع ہے تو مفتی کے لئے یہ کیسے درست ہو سکتا ہے کہ وہ مذکورہ مسئلہ پر فتویٰ نہ جاری کرے؟ اور اگر بالفرض اس سے ظالموں کے ظلم کا دروازہ کھلتا ہو تو اس میں بھی کوئی حرج نہیں کیوں کہ حکم شرعی

کے اعتبار سے ان کا لینا بجا ہے اور وہی کاشت کاروں پر اصل واجب ہے۔

اس کا جواب یہ ہے کہ آج اگر ہم نے فتویٰ دے دیا تو ہر ظالم صلاحیت نہ رکھنے والی زمین میں بھی یہ دعویٰ کرے گا کہ مثلاً یہاں پہلے زعفران کی کاشت ہوتی تھی اور زعفران کی قیمت کے مطابق غریب کاشت کا رسے خراج وصول کرے گا جو سراسر ظلم و ناصافی ہے۔ یہی بات علامہ ابن الہمام نے فتح القدری میں تحریر فرمائی ہے، اور کہا ہے کہ آج کل حکمرانوں کی ناصافی دیکھتے ہوئے اس کا علاج بہت مشکل ہے (الہذا فتویٰ کاظمہ رنہ کرنا ہی آسان راستہ ہے تاکہ لوگوں کے حقوق ضائع نہ ہوں)

اس سے معلوم ہو گیا کہ قاضی اور مفتی کا عرفی مسائل میں عرف و قرآن اور عوامی حالات سے آنکھیں موند کر ظاہر مذہب ہی پر جسم رہنا بسا اوقات بہت سے حقوق کے ضیاع اور بے شمار خلق خدا پر ظلم اور ناصافی کا سبب ہوتا ہے۔ قال فی العناية ورد بأنہ کیف یجوز ص: ۹۸

س: ۶: - إلی قوله - وظلم خلق کشیرین. ص: ۹۸ س: ۱۱)

## عرف عام اور عرف خاص

جاننا چاہئے کہ عرف کی دو قسمیں ہیں:

(۱) عرف عام: ایسا رواج جو تمام ممالک میں رائج ہو جائے۔

(۲) عرف خاص: ایسا معاملہ جو کسی خاص علاقہ میں رائج ہو پورے ملک میں نہ ہو۔

تم اعلم بأن العرف قسمان عام وخاص. ص: ۹۸ س: ۱۱)

## عرف عام اور عرف خاص کے اثرات

عرف عام سے عمومی حکم ثابت ہوتا ہے اور اس کے ذریعہ قیاس اور حکم شرعی میں تخصیص کی جاسکتی ہے اور عرف خاص کا اثر صرف خصوصی دائرہ میں رہتا ہے، بشرطیکہ اس کی وجہ سے کسی نص شرعی یا قیاس کی تخصیص لازم نہ آتی ہو۔ (خلافہ یہ کہ عرف کے ذریعہ نص کا بالکل یہ ترک کسی طرح بھی درست نہیں خواہ عرف عام ہو یا خاص، البتہ عرف عام کے ذریعہ نص میں صرف تخصیص ہو سکتی ہے اور عرف خاص سے تخصیص بھی نہیں ہو سکتی، اس کی مثالیں آگے آرہی ہیں) فالعلم یثبت به الحکم

العام ص: ۹۸ س: ۱۱: - إلی قوله - فإنَّهُ لا يصلاح مخصوصاً. ص: ۹۸ س: ۱۲)

## مزیدوضاحت

ذخیرہ برہانیہ کے باب الاجارات کی آٹھویں فصل میں اس مسئلہ کے متعلق کہ ”اگر اس شرط پر سوت دیا کہ بنا ہوا ایک تہائی کپڑا بننے والے کا ہوگا“، تحریر ہے کہ مشائخ بخاری نصیر بن تیکی اور محمد بن سلمہؓ اپنے علاقہ کے تعامل کی بنیاد پر اس معاملہ کے جواز کے قائل ہیں، اس لئے کہ تعامل ایسی دلیل ہے جس کی وجہ سے قیاس کو چھوڑ دیا جاتا ہے اور نص میں تخصیص کردی جاتی ہے، اور یہاں مذکورہ معاملہ کو جائز قرار دینے سے ”قفیز طحان“ کی ممانعت والی نص کا ترک نہیں بلکہ صرف تخصیص لازم آ رہی ہے۔ واقعہ اصل میں یہ ہے کہ کپڑا بننے کے متعلق کوئی نص الگ سے وارد نہیں ہوئی ہے بلکہ قفیز طحان کی ممانعت سے بطور دلالۃ بعض کپڑا بننے والے کے لئے اپنے بننے ہوئے کپڑے میں سے اجرت لینے کی ممانعت معلوم ہوتی ہے تو ہم نے تعامل کی بنیاد پر قفیز طحان کی نص میں تخصیص کرتے ہوئے کپڑے کی بنائی کے حکم کو عدم جواز سے مستثنی کر لیا اور قفیز طحان کے اصل حکم کو اپنی جگہ برقرار رکھا، یعنی آٹا پسائی کی اجرت میں عامل کو اسی کا پیسا ہوا آٹا مشروط طور پر دینا بدستور ناجائز ہے، لہذا یہاں (کپڑے کے مسئلہ میں) ترک نص کا محظوظ لازم نہیں آیا، بلکہ صرف نص میں تخصیص ہوئی ہے جو عرف عام کی بنا پر جائز ہے۔ دیکھئے! اسی طرح ہم نے استصناع کو تعامل اور عرف کی بنا پر جائز قرار دیا ہے حالاں کہ وہ غیر موجود کی بیع ہے جو شرعاً منوع ہے اور وہاں ہم نے اس نص میں تخصیص کی ہے جس میں غیر موجود کی بیع سے نبی وارد ہوئی ہے اس نص کو ہم نے بالکل یہ ترک نہیں کیا کیوں کہ استصناع کے علاوہ دیگر صورتوں میں وہ نبی بدستور جاری ہے، بلکہ صرف تخصیص کرتے ہوئے استصناع کو ممانعت کے دائرہ سے نکال لیا ہے تو یہ شکل جائز ہے کیوں کہ اس سے ترک نص لازم نہیں آ رہا ہے، ہاں اگر کوئی ایسی صورت ہو جس سے ترک نص لازم آتا ہے مشائخ کسی علاقہ والے قفیز طحان کا عرف کر لیں تو اس کی اجازت نہ ہوگی، کیوں کہ اب عرف کے قاضے پر عمل کرنے سے نص کا بالکل یہ ترک لازم آ جائے گا جو کسی طرح درست نہیں ہے۔ یہاں تک مشائخ بخاری کی دلیل کا خلاصہ ہوا، کہ بننے ہوئے کپڑے میں سے عامل کو اجرت دینی درست ہے اس پر

صاحب ذخیرہ، برہانیہ تبصرہ کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ ہمارے مشائخ نے مشائخ بیج کی اس تخصیص کو (جو انہوں نے کپڑا بننے والے کے متعلق کی ہے) قبول نہیں کیا، کیوں کہ یہ صرف ایک علاقہ کا تعلق ہے جس کے ذریعہ نص میں تخصیص کا کام انجام نہیں دیا جاسکتا۔ اس لئے کہ اگر ایک شہر کا عرف اس تخصیص کا مقاضی ہے تو دوسری طرف دیگر شہر والوں کا عرف عدم تخصیص کا تقاضا کرتا ہے لہذا تعارض کے ساتھ تخصیص کا اثبات نہ ہوگا۔ برخلاف استصناع کے کہ وہ بغیر کسی فرق کے تمام علاقوں میں رائج اور متعارف ہے اس لئے اس جیسے عرف سے ہی نص اور قیاس میں تخصیص ممکن ہے۔**قال في الفصل الثامن من الإيجارات ص: ۹۸ - إلی قوله -**

انتهی کلام الذخیرة۔ ص: ۹۹ س: )

## خلاصہ بحث

حاصل یہ ہے کہ:

- (۱) اگر ترک نص لازم آتا ہو تو عرف عام بالکل معتبر نہیں ہے۔
- (۲) اگر نص میں تخصیص کرنے کی گنجائش ہو تو عرف عام کا اعتبار ہو سکتا ہے۔
- (۳) اور عرف خاص سے نص میں تخصیص ہو سکتی ہے اور نہ ہی اس کے ذریعہ نص کا چھوٹ ناروا ہے۔

(۴) اگر ترک نص یا تخصیص نص لازم نہ آئے تو عرف خاص اس کے استعمال کرنے والوں میں معتبر ہو سکتا ہے، ایسی صورت میں اگر چہ وہ عرف ظاہر الرؤایہ کے خلاف ہو پھر بھی اس کا اعتبار ہوگا۔ مثلاً متعارف الفاظ قسم یا بیع و شراء میں استعمال ہونے والے الفاظ، ان میں ہر شہر والے اپنے یہاں کے عرف و عادت کے مطابق معانی متعین کرنے کے مجاز ہیں اور اسی اعتبار سے حلت و حرمت وغیرہ کے احکامات بھی ان کی طرف متوجہ ہوں گے، اگرچہ فقهاء کے کلام میں ان کے عرف کے خلاف بات ملتی ہو، کیوں کہ ہر جگہ کے لوگ الفاظ بولتے وقت اپنے یہاں سمجھنے والے معانی مراد لیتے ہیں۔ فقهاء کے مرادی معنی ان کے پیش نظر نہیں ہوتے، اس لئے ایسے الفاظ میں ہر شخص کے

ساتھ اس کے ارادہ کے موافق معاملہ ہوگا، وجہ یہ ہے کہ یہ الفاظ عرفیہ اصطلاحی حقل ہیں جن کے ذریعہ لفظ کے حقیقی معنی مجاز لغوی کے درجہ میں آ جاتے ہیں۔ اسی وجہ سے جامع الفصولين میں لکھا ہے کہ لوگوں کا مطلق کلام متعارف معنی پر مقبول ہوگا، اور علامہ قاسمؒ کے فتاویٰ میں تحریر ہے کہ وقف کرنے والے، وصیت کرنے والے، منت ماننے والے اور دیگر معاملات کرنے والے کا کلام اس کی اسی عادت اور لغت پر مقبول کیا جائے گا جسے وہ عام بول چال میں اختیار کرتا ہے، خواہ وہ لغتِ عرب اور حضرت شارع علیہ السلام کی زبان کے موافق ہو یا نہ ہو، یہ بحث کا خلاصہ ہے۔ اگر مزید تحقیق دیکھنی ہو تو علامہ شامیؒ کے رسالہ ”نشر العرف فی بناء بعض الاحکام علی العرف“ کا مطالعہ کیا جائے جو اپنے موضوع پر نہایت جامع، مدلل اور شفیع بخش ہے۔ یہ رسالہ رسائل ابن عابدین مطبوعہ پاکستان ۱۹۷۲ء تا ۱۹۷۴ء پر درج ہے۔ والحاصل أن العرف العام لا يعتبر ص: ۹۹ س: ۸: - إلى قوله - فليرجع إلى ما هناك. ص: ۱۰۰ س: ۵)

## تمرين: ۵۳:

- الف: نئے زمانہ کے عرفِ عام اور عرفِ خاص کی ۲-۲ مثالیں تحریر کریں۔
- ب: رسالہ نشر العرف کا بغور مطالعہ کر کے اس کا خلاصہ اپنی کاپی میں نوٹ کریں۔

## (۳۳) ضعیف قول پر عمل کس کے لئے جائز ہے؟

- |  |
|--|
| ضعیف قول پر فتویٰ دینے اور عمل کرنے کی گنجائش صرف وصوروں میں ہے:<br>(۱) جو شخص ضرورت مند ہو اور اس کے لئے اپنی کسی مجبوری کی وجہ سے ضعیف قول کو اختیار کرنا ناگزیر ہو جائے۔<br>(۲) یا اتنی صلاحیت رکھتا ہو کہ ضعیف قول کو دلیل کی قوت کی بنا پر اختیار کر سکے اور حقیقی قاضی کسی صورت میں بھی ضعیف قول پر فیصلہ کرنے کا مجاز نہیں ہے اس لئے کہ اس کو صرف فقہ حقیقی کے مطابق فیصلہ کا پابند بنایا گیا ہے۔ |
|--|

ولا يجوز بالضعف العمل ص: ۱۰۰ س: ۶ - إلى قوله - والحمد لله

ختام مسک. ص: ۱۰۰ س: ۸)

## حفیہ کا موقف کیا ہے؟

اس معاملہ میں حفیہ کا موقف یہ ہے کہ مفتی یا کسی بھی حفیہ کے لئے عام حالات میں خواہ مخواہ ضعیف روایات پر فتویٰ دینے اور ذاتی عمل کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ چنانچہ اصول نمبر اک تھت علامہ قاسمؒ کے حوالہ سے یہ بات آچکی ہے کہ مرجوح پر فتویٰ دینا اور فیصلہ کرنا اجماع کے خلاف ہے، اور یہ کہ راجح کے مقابلہ میں مرجوح کا عدم ہے اور متعارض مسائل میں علت مرجوح کے بغیر کسی ایک جہت کو ترجیح دینا منوع ہے اور یہ بات بھی آچکی ہے کہ جو مفتی یہ سوچتا ہو کہ اس کے فتویٰ اور عمل کا مذہب کی کسی بھی روایت کے موافق ہو جانا کافی ہے اور وہ دلائل پر غور کئے بغیر جس قول کو چاہے معمول بہ بنالے تو ایسا شخص جاہل اور اجماع کو توڑنے والا ہے، علاوہ ازیں شروع میں علامہ ابن حجر العسقلانیؒ کے فتاویٰ کے حوالہ سے یہ بھی لکھا گیا ہے کہ ضعیف قول پر اپنی ذات کی حد تک تو عمل درست ہے لیکن اس پر فتویٰ دینا اور فیصلہ کرنا جائز نہیں ہے کیون کہ علامہ ابن الصلاحؒ نے اس کے عدم جواز پر اجماع انقل کیا ہے۔

علامہ شربل ال حنفیؒ نے اپنے رسالہ: العقد الفريد فی جواز التقليد میں لکھا ہے کہ امام سبکی شافعیؒ کے قول کے مطابق مذہب شافعی کا مقتضی یہ ہے کہ قول ضعیف کو اختیار کرنے کی ممانعت صرف فتویٰ اور قضاء میں ہے اپنی ذات کے لئے نہیں ہے، جب کہ حفیہ کا موقف یہ ہے کہ ذاتی طور پر بھی مرجوح پر عمل کرنے کی اجازت نہیں ہے اس لئے کہ مرجوح منسوخ ہو جاتا ہے۔ (قدمنا اول الشرح عن العلامہ قاسمؒ ص: ۹۰۰ س: ۹ - إلى قوله - لكون المرجوح صار منسوحاً. ص: ۱۰۱ س: ۳)

## منسوخ ہونے کا مطلب

علامہ شامیؒ فرماتے ہیں کہ علامہ شربل ال حنفیؒ کا یہ فرمانا کہ مرجوح منسوخ ہو جاتا ہے اس وقت

ہے جب کہ مسئلہ میں دو قول رہے ہوں اور اس نے ایک قول سے رجوع کر لیا ہو، یا ایک قول سے دوسرے قول کا مؤخر ہونا معلوم ہو گیا ہو، لیکن اگر ایسا نہ ہو تو پھر وہ مرجوح منسوخ نہ ہو گا۔ مثلاً ایک قول امام ابو یوسف<sup>ؓ</sup> کا اور دوسرے قول امام محمد<sup>ؓ</sup> کا ہو تو اب نسخ کا حکم نہ ہو گا۔ اس لئے یہاں مراد یہ ہے کہ جو حکم مرجوح قرار دیا جائے وہ تصحیح شدہ قول کے مقابلہ میں منسوخ کے درجہ میں ہو جاتا ہے جیسا کہ ابھی علامہ قاسم<sup>ؓ</sup> کے حوالہ سے گذر اکرم راجح کے مقابلہ میں مرجوح کا عدم ہے، یعنی عدم کے درجہ میں ہے۔ (قلت التعلیل بأنہ صار منسوخاً ص: ۱۰۱ - إلی قوله - فی مقابله الراجح بمنزلة العدم. ص: ۱۰۱ س: ۶)

## ایک تعارض

بظاہر اس بحث میں امام سبکی شافعی<sup>ؓ</sup> اور علامہ ابن حجر<sup>بیشی</sup><sup>ؓ</sup> وغیرہ کے کلام میں تعارض محسوس ہوتا ہے، اس لئے کہ امام سبکی فرمائے ہیں کہ اپنی ذات کے لئے مرجوح پر عمل کی اجازت ہے اور ہم شروع کتاب میں علامہ قاسم<sup>ؓ</sup> اور علامہ ابن حجر<sup>ؓ</sup> کے حوالہ سے بتا چکے ہیں کہ بلا دلیل اپنی مرضی سے کسی بھی قول کو اختیار کرنے کی ممانعت پر اجماع منعقد ہو چکا ہے تو اب ان دونوں نظریوں میں تطبیق کی کیا شکل ہو؟ (ثم ان ما ذکرہ السبکی ص: ۱۰۱ س: ۶ - إلی قوله - والعمل بما شاء من الأقوال. ص: ۱۰۱ س: ۸)

## کمزور جواب

اس تعارض کو دفع کرنے کے لئے ایک جواب یہ دیا جاتا ہے کہ علامہ ابن حجر<sup>ؓ</sup> کے کلام میں العمل بما شاء من الأقوال سے الحكم بما شاء من الأقوال مراد ہے یعنی مرجوح پر فیصلہ کرنا خلاف اجماع ہے البتہ ذاتی عمل کرنے کی گنجائش ہے تو اس طرح ابن حجر<sup>ؓ</sup> کی رائے امام سبکی<sup>ؓ</sup> کے موافق ہو جائے گی، مگر علامہ شامی<sup>ؓ</sup> اس جواب سے مطمئن نہیں ہیں۔ (إلا أن يقال المراد بالعمل الحكم والقضاء وهو بعيد. ص: ۱۰۱ س: ۸)

## مضبوط جواب اور تطیق کی کوشش

لہذا اس تعارض کا صحیح اور طاہر جواب یہ ہے کہ مفتی کو عام حالات میں محض خواہش نفس کی پیروی کرتے ہوئے متعدد اقوال میں سے کسی بھی قول کو لینے کی ہرگز اجازت نہیں ہے، البتہ جو شخص کبھی اتفاق سے کسی پیش آمدہ ضرورت کی بنیاد پر ضعیف قول پر عمل کر لے تو اسے روکا نہیں جائے گا تو گویا کہ علامہ ابن حجر کا قول عام حالات کے اعتبار سے ہے اور امام سیکی کا قول خاص ضرورت کے پیش نظر ہے۔  
 (والاَظْهَرُ فِي الْجَوَابِ ص: ۱۰۱ س: ۸ - إِلَى قَوْلِهِ - فَلَا يَمْنَعُ مِنْهُ ص: ۱۰۱ س: ۱۰)

## ضرورۃ قول ضعیف پر عمل ممنوع نہیں

اور اسی معنی پر علامہ شربنیالیؒ کی عمارت کو بھی محمول کیا جائے گا، یعنی حنفیہ کے نزدیک ضعیف قول پر عمل کی ممانعت ایسے وقت ہے جب کہ ہوائے نفس کی بنیاد پر ضعیف کو اختیار کیا جا رہا ہو، اس کے برخلاف اگر واقعی ضرورت متقاضی ہو تو حنفیہ بھی ضعیف قول پر عمل کرنے سے منع نہیں کرتے (اس تفصیل سے معلوم ہوا کہ اس بارے میں حنفیہ اور شافعیہ کے درمیان کوئی حقیقی اختلاف نہیں ہے) (وعلیہ يحمل ما تقدم عن الشرنبلالی من أن مذهب الحنفیة المنهع. ص: ۱۰۱ س: ۱۰)

## تین مسئللوں سے استدلال

حنفیہ کے نزدیک ضرورت کے وقت ضعیف قول کو اختیار کرنے کے متعلق درج ذیل تین مسائل نمونہ کے طور پر پیش کئے جا رہے ہیں:

### (۱) احتلام کے وقت شرم گاہ کو پکڑ لینا :

مسئلہ یہ ہے کہ حضرات طرفینؓ کے نزدیک اگر منی اپنی اصلی جگہ سے شہوت کے ساتھ ہٹ جائے تو منی باہر آتے ہی بہر حال غسل واجب ہو جاتا ہے، خواہ شرم گاہ سے باہر نکلتے وقت شہوت ہو یا نہ ہو، اور حضرت امام ابو یوسفؓ کے نزدیک حکم یہ ہے کہ غسل کی فرضیت کے لئے منی کا شہوت کے

ساتھ باہر آنا ضروری ہے اگر بلاشوت نکلے تو غسل واجب نہ ہوگا اگرچہ اصل جگہ سے شہوت کے ساتھ جدا ہوئی ہو۔ اس مسئلہ میں طفین کا قول ظاہر مذہب ہے اور امام ابو یوسفؓ کی رائے ضعیف ہے لیکن اگر کوئی مسافر ہو یا کسی جگہ مہمان ہو اور غسل جنابت کرنے میں اسے شرم آتی ہو اور اس پر تہمت لگنے کا اندیشہ ہو تو حضرات فقهاء نے ایسے لوگوں کے لئے اجازت دی ہے کہ اگر وہ انزال کے وقت عضو مخصوص کو پکڑ لیں اور منی نہ نکلنے دیں اور شہوت بالکل ختم ہو جانے کے بعد منی کا خروج ہو تو امام ابو یوسفؓ کے قول کے مطابق ان پر غسل ضروری نہ ہوگا حالاں کہ یہ حکم ظاہر مذہب کے خلاف ہے لیکن ضرورةً اسے مفتی بہ بنا دیا گیا۔ (بدلیل أنهم أجازوا للمسافر والضیف ص: ۱۰۱)

(۱) - إلى قوله - لكن أجازوا الأخذ به للضرورة. ص: ۱۰۱ س: ۱۱

## (۲) ناسور والمرتضی کے لئے آسانی :

دوسرے مسئلہ یہ ہے کہ نواقض وضوی بحث میں عام طور پر مفتی بقول یہ لکھا جاتا ہے کہ اگر کسی زخم سے اتنا خون نکلے کہ اسے اپنے حال پر چھوڑ دینے سے وہ بہہ جائے تو وضوٹ جاتا ہے، لیکن صاحب ہدایہ نے ”محترمات النوازل“، فصل فی النجاستہ میں یہ مسئلہ اس طرح لکھا ہے: والدم إذا خرج من القروح قليلاً غير سائل ليس بمانع وإن كثراً وقيل لو كان بحال لو تركه لسال يمنع (اور جب زخموں سے تھوڑا ساخون نکلے جو بنیه والا نہ ہو تو وہ مانع صلاۃ نہیں ہے، اور بعض لوگوں نے کہا کہ اگر نکلنے والا خون اس حالت میں ہو کہ اگر اسے چھوڑ دیا جائے تو بہہ پڑے تو یہ مانع ہے)۔ اسی طرح کی عبارت نواقض وضوی بحث میں بھی ہے، اور علامہ شامیؒ فرماتے ہیں کہ میں نے ایک دوسرے نسخہ دیکھا تو اس میں بھی یہی عبارت تھی، اب صاحب ہدایہ نے جس قول کو ”قیل“ کے ساتھ نقل کیا ہے وہ مذہب کا مشہور قول ہے اور جس قول کو انہوں نے اولاد کر کیا ہے وہ قول شاذ ہے کسی اور کتاب میں اس کا ذکر نہیں ملتا، لیکن چوں کہ صاحب ہدایہ اصحاب الترجیح والترجیح میں سے ہیں لہذا معدود کے لئے ضرورت کے وقت اس قول کو اختیار کر لینے کی گنجائش دی گئی ہے۔ یعنی جن لوگوں کا زخم ناسور بن جائے جس سے تھوڑا بہت خون برابر ستارہ تھا ہو، مگر اسے وقتوں طور پر بند بھی کیا جا سکتا ہو تو ان کے لئے اس شاذ قول پر عمل کرنے میں سہولت اور آسانی کا پہلو

نکلتا ہے۔ (وینبغی أَن يَكُون مِن هَذَا الْقَبِيلِ ص: ۱۰۱ س: ۱۳ - إِلَى قَوْلِهِ - فِي جُوزِ الْمَعْذُورِ تَقْليِدَهُ فِي هَذَا القَوْلِ عِنْدَ الْضَّرُورَةِ. ص: ۱۰۲ س: ۱۹)

## كَيْ الْحِمْصَةُ

”گس“ کے معنی داغنے کے ہیں اور ”حمصہ“ کے معنی پختے کے آتے ہیں، داغنے کا عمل خون کو بند کرنے کے لئے ہوتا ہے۔ داغنے کے بعد ملک شام کے بعض ماہراطاء زخم کو خشک کرنے کے لئے پختے سے کام لیتے تھے کیوں کہ پختے میں قوت ناشفہ (جذب کرنے کی صلاحیت) زیادہ پائی جاتی ہے، پختے کے ذریعہ زخم خشک کرنے کا یہ عمل شامی الطباء کی اصطلاح میں ”کی الحمصة“ کہلاتا تھا اور زیادہ تر اس علاج کی ضرورت ایک خاص قسم کے زخم میں پیش آتی تھی جسے عربی میں ”داخس“ اور ہندی میں ”انگل دیر“ کہتے ہیں، یہ زخم انگلیوں کے ناخنوں میں پیدا ہوتا ہے اور اندر اندر عضلات میں سرایت کر جاتا ہے اور نہایت تکلیف دیتا ہے کبھی بھی اس کی وجہ سے ناخون بھی اتر جاتا ہے اور اس سے مستقل تھوڑا تھوڑا گند اپانی بہتر ہتا ہے، اس اپانی کو بند کرنے کے لئے انگلی کے سرے پر داغ دے کر زخم پر چنار کھدیتے ہیں اور اوپر سے کاغذ وغیرہ رکھ کر پٹی باندھ دیتے ہیں، اب مشکل یہ ہے کہ ”کی الحمصة“ والے کو مستحاضہ کے درجہ میں رکھ کر معدور بھی نہیں کہہ سکتے، اس لئے کہ انگلی پر مضبوط پٹی باندھ کر اتنی دیر اپانی روکا جاسکتا ہے کہ فرض نماز پڑھ لی جائے اور چنان باندھنے کی صورت میں وہ چنان جاست کو جذب کر لیتا ہے پھر اس کا اثر کاغذ اور اوپر کی پٹی پر آنے لگتا ہے اور عموماً یہ متربع اپانی اتنا ہوتا ہے کہ اگر چھوڑ دیا جائے تو بہنے لگے اور اگر پوچھ دیا جائے تو ختم ہو جائے، تو ایسا شخص اگر صاحب ہدایہ کی روایت شاذہ پر عمل کر لے تو اس کے لئے بڑی سہولت ہو سکتی ہے اور اسے تنگی سے نجات مل سکتی ہے۔ خود علامہ شامی ایک مدت تک اس مرض میں بیتلار ہے، پہلے تو آپ نماز کے وقت زخم پر کوئی چیز سختی سے باندھ لیتے تھے تاکہ نماز کے دوران خون نہ نکل سکے، لیکن بعد میں تنگی اور مشقت کی وجہ سے صاحب ہدایہ کی روایت پر عمل کرنے لگے اور صحت ہو جانے کے بعد آپ نے ساری نمازیں اختیا طالوٹا میں۔ (فِإِنْ فِيهِ تَوْسِعَةٌ عَظِيمَةٌ ص: ۱۰۱ س: ۲۰ - إِلَى قَوْلِهِ - أَعْدَتْ صَلَةَ تِلْكَ الْمَدَةَ وَلِلَّهِ الْحَمْدُ. ص: ۱۰۲ س: ۳)

## تقریں: ۵۵

○ ”کی الحمصہ“ کے متعلق علامہ شامیؒ کے معربۃ الآراء رسالہ: ”الأحكام المخصوصة بکی الحمصۃ“ کا بغور مطالعہ کر کے اس کا مکمل خلاصہ بالترتیب کاپی میں نوٹ کریں اور اس کے حوالہ جات کا اصل کتابوں سے مقابلہ کریں تاکہ مسئلہ کا سیاق و سبق پوری طرح واضح ہو سکے۔ (مذکورہ رسالہ رسائل ابن عابدین ۱/۵۲ پر شائع شدہ ہے)

### (۳) دم حیض کے متعلق مختلف روایات :

ضعیف قول پر عمل کرنے کی تیسری نظریہ ہے کہ حیض کے رنگوں کے متعلق مذہب میں ظاہر الروایہ کے علاوہ کم از کم چار ضعیف اقوال اور ہیں جن کی تفصیل درج ذیل ہے:

(۱) ظاہر الروایہ یہ ہے کہ ایام حیض میں سرخ، کالا، پیلا، گدلا، ہرا، میلا اہر طرح کا خون حیض ہے اور ایام حیض کے بعد سرخ اور کالے خون کے علاوہ کوئی خون حیض نہیں ہے (امام شافعیؒ کا مذہب اور امام مالکؒ کی ایک روایت بھی یہی ہے)۔ (بدایۃ الجتہد ۳۸۱)

(۲) امام ابو یوسفؒ کی ایک روایت یہ ہے کہ گدلا پانی اگر ابتداء ایام حیض میں نظر آئے تو وہ حیض نہیں اور اگر آخر میں نظر آئے تو حیض ہے۔

(۳) بعض مشائخ نے کہا کہ ہر اپانی مطلقاً حیض میں شمار نہیں (خواہ ایام میں آئے یا ایام کے بعد)

(۴) صاحب ہدایہ نے کہا کہ اگر عورت حیض والی ہو تو ہر اخون حیض ہے اور اگر آئسہ ہو تو ہر اخون حیض نہیں ہے (اگرچہ ایام عادت میں آئے)

(۵) بعض علماء کا قول یہ ہے کہ گدلا، میلا، پیلا اور ہر اخون غیر آئسہ عورتوں میں مطلقاً حیض ہے (خواہ ایام میں آئے یا بعد میں، اس لئے کہ اگر اس قول میں بھی ایام کی شرط لگائیں گے تو اس قول میں اور ظاہر الروایہ میں کوئی فرق نہ رہے گا) اور آئسہ میں یہ تفصیل ہے کہ اگر آخری وضع حمل کا زمانہ قریب ہے تو حیض ہے ورنہ نہیں (امام مالکؒ کا مذہب بھی المدونۃ الکبریؒ میں اسی کے

قریب نقل کیا گیا ہے۔ (بدایہ الجہد ۱/۲۸) ان اقوال کو صاحب الہمارائق نے ۱۹۲۱ء پر نقل کیا ہے اور اخیر میں فخر الامم کے حوالہ سے معراج کی عبارت نقل کی ہے کہ لو افتی مفت بشی من هذه الأقوال في مواضع الضرورة طلبا للتسییر لكان حسناً - یعنی اگر کوئی مفت ضرورت کے وقت ان ضعیف اقوال میں سے کسی کو اختیار کرے گا تو یہ بہتر ہوگا، جس کی مثال دیتے ہوئے علامہ رفعی نے فرمایا ہے کہ مثلاً کسی عورت کی عدت طہر کے لمبے ہونے کی وجہ سے طویل ہو جائے پھر وہ علاج کرائے اور پیلا خون کسی وقت بھی آجائے تو قول ۵ کے اعتبار سے وہ خون حیض میں شمار کر لیا جائے گا، اور اس کی عدت شروع ہو جائے گی (یہ قول اگرچہ مذہب میں راجح نہیں ہے بلکہ ضعیف ہے مگر اس میں چوں کہ مبتلا بہا کے لئے سہولت ہے اس لئے ضرورت اسے اختیار کرنے کی گنجائش ہے) (وقد ذکر صاحب الہمارائق الحیض ص: ۱۰۲ س: ۳ - ۵) إلی قوله - کان حسناً انتهیٰ۔ ص: ۱۰۲ س: ۵)

## تمرين: ۵۶

○ الہمارائق کی عبارت ۱۹۲۱ء کا بغور مطالعہ کر کے خلاصہ تحریر کریں۔

### کیا پتہ چلا؟

ان مثالوں سے واضح ہو گیا کہ ضرورت مندرجہ شخص کو ضعیف قول پر عمل کرنے کی فی الجملہ اجازت ہے، اور مفتی بھی ایسے شخص کے لئے ضعیف قول پر فتویٰ دے سکتا ہے، لہذا پہلے جو ممانعت گذری ہے وہ اس وقت ہے جب کہ کوئی ضرورت اور داعیہ نہ پایا جاتا ہو؛ بریں بن اجہاں ضرورت متقاضی ہو گی وہاں قول ضعیف پر عمل کر لیا جائے گا، مثال کے طور پر فقہاء نے یہ اصول مقرر کیا ہے کہ حتی الامکان مسلمان کو کفر سے بچانے کی کوشش کی جائے گی اگرچہ مذہب کی ضعیف روایت اختیار کرنی پڑے، تو یہاں بھی ظاہر الروایہ سے عدول کی بنیاد ضرورت ہے اس لئے کہ کفر نہایت عظیم معاملہ ہے۔ (وبه علم أن المضطر له العمل بذلك لنفسه ص: ۱۰۲ س: ۵)

إلی قوله - لأن الكفر شی عظیم۔ ص: ۱۰۲ س: ۸)

## اہل نظر مفتی کے لئے ضعیف قول لینے کی اجازت

علامہ بیری شرح اشیاء میں لکھتے ہیں:

**سوال:** کیا انسان کو اپنی ذات کی حد تک ضعیف روایت پر عمل کرنے کی اجازت ہے؟

**جواب:** جی ہاں! بشرطیکہ وہ ذی رائے اور اہل نظر ہو، اور اگر عامی آدمی ہو تو اس بارے میں کوئی صراحت نظر سے نہیں گذری مگر ذی رائے کی قید سے معلوم ہوتا ہے کہ عامی شخص کے لئے ضعیف قول پر عمل کی اجازت نہیں، خزانۃ الروایات میں تحریر ہے کہ اگر عالم احادیث و نصوص کے معانی سے واقف ہوا اور اہل نظر ہو تو اس کے لئے ضعیف قول پر عمل کرنا جائز ہے گو کہ وہ ظاہر مذہب کے خلاف ہو۔

علامہ بیریؒ کے اس سوال و جواب کے نقل کرنے کے بعد علامہ شامیؒ فرماتے ہیں: ضعیف پر عمل کرنے کے لئے ذی رائے کی قید لگانے سے مقصود یہ ہے کہ عامی شخص کے لئے یہ اجازت نہیں، کیوں کہ اس پر تو اپنے اکابر علماء کے صحیح کردہ اقوال کی پیروی لازم ہے لیکن یہ اسی وقت ہے جب کہ کوئی اور ضرورت داعیہ نہ ہو؟ (اگر ضرورت ہو تو اس کے لئے بھی عمل بالضعیف کی اجازت ہو گی جیسا کہ پہلے گذر چکا ہے) وفی الأشباه للبیری ص: ۱۰۲: ۸ - إلی قوله - کما عملته الأنفأً. ص: ۱۰۲ (۱۲: س)

## ایک اشکال

اگر آپ یہ اشکال کریں کہ پہلے یہ بات گذر چکی ہے کہ کسی بھی مفتی کو خواہ وہ مجتہد ہی کیوں نہ ہو، اصحاب مذہب کے متفقہ موقف سے عدول کی اجازت نہیں ہوتی، اس لئے کہ ان حضرات نے دلائل کو اچھی طرح پیچان کر صحیح اور غلط میں امتیاز کر دیا ہے اور بعد کے مفتی کا اجتہاد متفقہ میں کے اجتہاد تک پہنچا ہو انہیں ہے تو پھر اب مفتی مجتہد کو عدول عن المذہب کی اجازت دینے کا کیا مطلب ہے۔ (فإن قلت هذا مخالف لما قدمته سابقاً ص: ۱۰۲: س: ۱۲: ۸ - إلی قوله - کما

قدمناه عن الخانية وغيرها۔ ص: ۱۰۲ (۱۳: س)

## جواب

اس اشکال کا جواب یہ ہے کہ دونوں باتوں میں کوئی حقیقی تعارض نہیں ہے کیوں کہ عدول عن المذہب کی مخالفت اس وقت ہے جب کہ دوسرے کوفتوی دینے کا موقع ہو (اور اجازت اس وقت ہے جب کہ خود عمل کرنے کی ضرورت ہو تو اب تعارض نہ رہا، اس لئے کہ اجازت اور ممانعت کا محمل الگ الگ ہو گیا) اور دوسرے کوفتوی دینے وقت عدول عن المذہب کی ممانعت کی اصلاً دو وجہات ہیں:

**الف:** چوں کہ اصحاب مذہب علماء کا اجتہاد اس مفتی مجتهد کے انفرادی اجتہاد سے بڑھ کر ہے الہذا وہ مفتی عام لوگوں کے مسائل کی بنیاد پنپنے کمزور اجتہاد پر نہ رکھ۔  
**ب:** مستفتی اس کے پاس اس کا ذاتی مذہب پوچھنے نہیں آتا، بلکہ مستفتی کا مقصد اپنے پیشووا امام کا مذہب دریافت کرنا ہوتا ہے الہذا مفتی پر لازم ہے کہ وہ اسے وہی حکم بتائے جو اس کے متبع امام کا اختیار فرمودہ ہے۔

اسی بنا پر علامہ قاسمؒ کے فتاویٰ میں ذکر ہے کہ ان سے سوال کیا گیا کہ ایک واقف نے وقف کرتے ہوئے اپنے لئے تبدیلی کی شرط لگائی اور بعد میں وہ وقف اپنی بیوی کے نام کر دیا، تو علامہ نے جواب دیا کہ ”مجھے اپنے مذہب کی کتابوں میں اس تبدیلی کے معتبر ہونے کے متعلق کوئی صراحة نہیں ملی اور مفتی کے لئے اپنے مذہب کے صحیح قول ہی کو نقل کرنا ضروری ہے۔ اس لئے کہ مستفتی کا مقصد اپنے امام کی رائے معلوم کرنا ہوتا ہے وہ مفتی کی ذاتی رائے جانانا نہیں چاہتا“۔

اور اسی طرح کی صراحة ائمہ شافعیہ میں سے امام فضالؓ سے بھی منقول ہے، چنانچہ ان کے پاس جب کوئی شخص غلط کی ڈھیری کی بیع کے متعلق مسئلہ پوچھنے آتا تو وہ مستفتی سے فرماتے کہ ”میرا مذہب پوچھتے ہو یا امام شافعی کا؟“ (اور سائل جس کا مسلک پوچھنا چاہتا، وہ اسے بتا دیتے) اور وہ کبھی کبھی یہ کہا کرتے تھے کہ اگر میں اجتہاد کیا کرتا تو میرا اجتہاد امام ابوحنیفہ کے موافق ہوتا، اور میں مستفتی سے یہ کہتا کہ اس مسئلہ میں امام شافعی کا قول یہ ہے جب کہ میں خود امام ابوحنیفہ کے

مسلمک کا قائل ہوں۔ امام قفال فرماتے ہیں کہ اس تفصیل کی ضرورت اس لئے پیش آئی کہ سائل مجھ سے میرا مسلمک نہیں بلکہ امام شافعی کا مسلمک پوچھنے آتا ہے، لہذا مجھ پر لازم ہے کہ میں اسے بتادوں کہ میں اس مسئلہ میں امام شافعی کے علاوہ دوسرے کے قول پر فتویٰ دیتا ہوں۔

علامہ شامیؒ فرمار ہے ہیں کہ یہ سب باتیں دوسروں کو فتویٰ دینے کے متعلق ہیں، لیکن رہ گیا اپنی ذات کی حد تک ضعیف قول پر عمل کرنے کا معاملہ تو وہ جائز ہے جیسا کہ خزانۃ الروایات کے اس قول سے معلوم ہوتا ہے کہ ”مفہی مجتہد کو اپنے اجتہاد کی بنیاد پر مذہب کی غیر راجح رائے کو اپنانے کا اختیار ہے“، اس لئے کہ اس پر اپنے اجتہاد کی پیروی لازم ہوتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ علامہ ابن الہمامؓ نے بعض ایسے مسائل اختیار کئے ہیں جو مذہب سے بالکل خارج ہیں، حتیٰ کہ انہوں نے کہیں کہیں امام مالکؐ کے قول کی بھی تائید کر دی ہے اور کہا ہے کہ یہی میرانہ مذہب ہے، اور ہم پہلے تحریر الاصول کے حوالہ سے نقل کر چکے ہیں کہ اجتہاد میں تجزی کے صحیح قول کے مطابق ایسے مجتہد کو جو بعض مسائل میں اجتہادی شان رکھتا ہوا سے دیگر مسائل میں دوسرے مجتہد کی تقلید کی اجازت ہے۔ قلت ذاک فی حق من یفتی غیرہ ص: ۱۰۲ - إلی قوله - أی فیما لا یقدر علی الاجتہاد فیه لا فی غیره۔ ص: ۱۰۳ س: ۷)

**تنبیہ:** اس بحث سے عالم محقق کے لئے دلائل کی بنیاد پر تفرداً اختیار کرنے کی اجازت معلوم ہوتی ہے، لیکن یہ تفرد دوسروں کے لئے قابل تقلید نہیں ہے۔

## قاضی حنفی کا حکم

حنفی قاضی کو بھی ضعیف مذہب یا دوسرے مذہب پر فیصلہ اور قضاۓ کی اجازت نہیں ہے، علامہ قاسمؓ ابوالعباس احمد بن ادریسؓ کا ارشاد نقل کرتے ہیں کہ اس سوال کہ ”کیا مفتی کی طرح قاضی پر بھی راجح قول کی پیروی ضروری ہے؟“ — کا جواب یہ ہے کہ قاضی اگر مجتہد ہو تو وہ اپنے نزدیک راجح قول کے علاوہ کسی بھی قول پر فیصلہ کا مجاز نہیں ہے اور اگر قاضی مقلد ہو تو وہ اپنے مذہب کے مشہور قول پر فتویٰ دے گا اور فیصلہ کرے گا کہ گوکہ وہ مشہور قول خود اس کی رائے میں راجح نہ ہو اور فتویٰ کی طرح

مکحوم یہ مسئلہ کی ترجیح میں بھی وہ اپنے متبع امام ہی کی تقلید کرے گا کیوں کہ فیصلہ اور فتوی دینے میں خواہش نفس کی پیروی قطعاً حرام ہے اور مرجوح پر فیصلہ اور فتوی دینا اجماع کے خلاف ہے۔

## اگر کوئی قاضی راجح کے خلاف فیصلہ کر دے تو اس کا نفاذ نہ ہو گا

اور بحر الرائق میں تحریر ہے کہ اگر قاضی کسی اجتہادی مسئلہ میں اپنی رائے کے خلاف بھول کر فیصلہ کر دے تو اس کا فیصلہ امام ابوحنیفہ کے نزدیک نافذ ہو گا، اور جان بوجھ کر مذہب کے خلاف فیصلہ کر دینے کی صورت میں امام صاحب سے دور ایتیں مردی ہیں: ایک روایت ہے کہ نافذ ہو جائے گا اور دوسری یہ ہے کہ نافذ نہ ہو گا اس کے برخلاف حضرات صاحبین کے نزدیک بھول کر یا جان بوجھ کر دونوں صورتوں میں خلاف مذہب فیصلہ اور حکم نافذ نہ ہو گا۔ اب امام صاحب اور صاحبین کے اقوال میں ترجیح کے متعلق مشائخ میں اختلاف ہو گیا، فتاویٰ خانیہ میں تحریر ہے کہ امام صاحب سے ظاہر ترین روایت نفاذ قضاء کی ہے اور اسی پر فتویٰ ہے، اور معراج الدرایہ میں محیط برہانی کے حوالہ سے نقل کیا ہے کہ حضرات صاحبین کا قول راجح ہے اور اسی پر فتویٰ ہے، یہی بات ہدایہ میں بھی ہے۔

اور علامہ ابن الہمام نے فتح القدير میں لکھا ہے کہ اس مسئلہ میں اگرچہ اختلاف ہے لیکن ہمارے زمانہ میں حضرات صاحبین کے قول پر فتویٰ دینا زیادہ اوجہ ہے، اس لئے کہ جان بوجھ کر بلا ضرورت اپنے مذہب کو چھوڑنے والا صرف ناجائز نفسانی خواہش کی تکمیل کے لئے ہی ایسا کرے گا کوئی اور مقصد اس کے پیش نظر نہ ہو گا اور رہ گیا بھول کر فیصلہ کرنے والا، تو اس کا فیصلہ نافذ نہ ہونے کی وجہ یہ ہے کہ حاکم اعلیٰ نے اسے اپنے مذہب پر ہی فیصلہ کرنے کا مجاز بنایا ہے، دوسرے کے مذہب پر فیصلہ کا وہ مجاز ہی نہیں ہے، یہ تو قاضی مجتهد کا حکم ہے۔ اور قاضی مقلد کے لئے عدم جواز کی وجہ یہ ہے کہ اسے صرف مذہب ابوحنیفہ پر فیصلہ کی ذمہ داری سونپی گئی ہے، لہذا اگر وہ مذہب کے خلاف فیصلہ کرے گا تو وہ اس حکم میں معزول سمجھا جائے گا، اور اس کا حکم نافذ نہ ہو گا۔ وذکر فی البحر لو قضی فی المحتهد فیه ص: ۱۰۴ - إلى قوله - معزو لا بالسبة إلى هذا الحكم انتهى ما في الفتح انتهى كلام البحر. ص: ۱۰۵ (س: ۴)

## یہاں صاحبین کی رائے زیادہ وقیع ہے

آگے چل کر صاحب بحر نے لکھا ہے کہ قاضی مقلد کے خلاف مذہب فیصلہ کے نفاذ یا عدم نفاذ کے متعلق مشائخ کی عبارتیں مختلف ہیں، جن کا خلاصہ یہ ہے کہ مقلد قاضی اگر مذہب کے خلاف یا کسی ضعیف روایت پر فیصلہ کر دے تو اس کا فیصلہ نافذ مانا جائے گا۔ اس سلسلہ میں صاحب بحر کا سب سے مضبوط استدلال بزازی کی اس عبارت سے ہے کہ اگر قاضی خود اجتہاد نہ کرے اور دوسرے سے فتویٰ لے کر فیصلہ کرے، پھر بعد میں یہ معلوم ہو کہ وہ فتویٰ اس کے مذہب کے برخلاف ہے تو اس فیصلہ کو نافذ مانا جائے گا، اور دوسرے کو اسے توڑنے کا حق نہ ہوگا، البتہ وہ خود اسے توڑ سکتا ہے، مگر امام ابو یوسفؓ کے نزدیک وہ خوب بھی اسے توڑنے کا مجاز نہیں ہے۔ صاحب بزازی کے اس قول سے صاحب بحر نے یہ سمجھا ہے کہ قاضی مقلد کا خلاف مذہب فیصلہ بھی نافذ ہوگا، لیکن علامہ شامیؓ فرماتے ہیں کہ بزازی کی عبارت میں روایات کا جو اختلاف مردی ہے وہ مقلد کے بارے میں نہیں ہے بلکہ قاضی مجتہد کے متعلق ہے جو ہماری بحث سے خارج ہے، اور قاضی مقلد بہر حال راجح پر فیصلہ کرنے کا پابند ہے، محقق ابن الہمامؓ اور ان کے شاگرد رشید علامہ قاسمؓ سے اسی بات کی تائید منقول ہے: اور انہر الفائق میں تحریر ہے کہ فتح القدری کا فیصلہ ہی قابل اعتماد ہے اور بزازی کی عبارت روایت شاذہ پر محظوظ ہے، کیوں کہ یہ مقلد قاضی کم از کم اس شخص کی طرح تو ہے ہی جو اپنے مذہب کو بھول گیا ہو، اور یہ بات صاحبینؓ کے حوالہ سے پہلے سامنے آچکی ہے کہ نسیان کی صورت میں قاضی مجتہد کا حکم نافذ نہیں ہوتا تو قاضی مقلد کو بدرجہ اولیٰ اجازت نہ ہونی چاہئے، اور درختار میں لکھا ہے کہ خاص کر ہمارے دور میں قاضی کو خلاف مذہب فیصلہ کی بالکل اجازت نہیں دی جاسکتی ہے اس لئے کہ سلطان وقت نے اپنے منشور میں یہ صراحت کر کھی ہے کہ ضعیف اقوال پر فیصلہ منوع ہے تو خلاف مذہب فیصلہ بدرجہ اولیٰ منوع ہوگا، بلکہ مذہب کے غیر معتمد مسئلہ پر فیصلہ کی صورت میں اس مسئلہ کی حد تک گویا قاضی کو

معزول سمجھا جائے گا۔ (ثم ذکر أنه اختلَف عبارات المشائخ ص: ۱۰۵ س: ۴ - إلى قوله - كما بسط في قضاة الفتح والبحر والنهر وغيرها انتهى. ص: ۱۰۶ س: ۱)

## علامہ شامیؒ کی تائید

علامہ شامیؒ اس بحث کو انجام تک پہنچاتے ہوئے فرمار ہے ہیں کہ آپ پہلے پڑھ چکے ہیں کہ راجح قول کے مقابلہ میں مرجوح قول خود ہی کا عدم ہوتا ہے لہذا اگرچہ سلطان وقت کمزور قول پر قضا کی ممانعت نہ کرے پھر بھی ترجیح کے اصول کے اعتبار سے قاضی کے لئے مرجوح پر فیصلہ کرنا درست نہ ہوگا، چنانچہ علامہ قاسمؒ کے فتاویٰ میں تحریر ہے کہ قاضی مقلد کے لئے ضعیف قول پر فیصلہ کرنا درست نہیں ہے کیوں کہ وہ خود ترجیح کا اہل نہیں ہے اور راجح سے عدول کرنے سے اس کا مقصد یقیناً اچھا نہ ہوگا، اور اگر ضعیف پر فیصلہ کر دے گا تو وہ نافذ بھی نہ ہوگا، اور یہ بات جو نقل کی جاتی ہے کہ ضعیف قول قاضی کے فیصلہ سے مضبوط ہو جاتا ہے تو اس سے مراد قاضی مجتهد کا فیصلہ ہے، قاضی مقلد کے فیصلہ کا یہ حکم نہیں ہے اسی کی صراحت محقق ابن الہمامؓ نے فرمائی ہے۔ (قلت وقد علمت الخ ص: ۱۰۶ س: ۱ - إلى قوله - أخرج به شیخه المحقق فی فتح القدیر. ص: ۱۰۶ س: ۵)

## ختتمہ

ان اصول وضوابط اور معلومات سے قارئین نے اندازہ لگالیا ہوگا کہ فتویٰ نویسی کس قدر نازک کام ہے اور اس کے لئے لکنی احتیاط کی ضرورت ہے۔ واقعہ یہ ہے کہ اگر حضرات فقهاء اتنی احتیاط نہ فرماتے اور اصول وضوابط کی بندشیں قائم نہ فرماتے تو یہ دین کب کا محرف ہو گیا ہوتا اور دین کی اصل صورت منسخ کر دی جاتی، جیسا کہ آئے دن بعض نام نہاد دانش و ران کی طرف سے ایسی کوششیں کی جاتی رہتی ہیں، لیکن الحمد للہ امت نے ایسے فتاویٰ کو کبھی قبول نہیں کیا، اور انشاء اللہ ایسی کوششیں آئندہ بھی کامیاب نہ ہوگی۔ حضرات افتاء کے میدان میں کام کر رہے ہیں یا کام کرنے

کا ارادہ رکھتے ہیں انہیں اپنے علم میں پختگی پیدا کرنی چاہئے اور نہایت احتیاط کے ساتھ زبان و قلم کا استعمال کرنا چاہئے۔ اللہ تعالیٰ ہماری ہر قدم پر مدد فرمائے اور مرتبے دم تک صراط مستقیم پر قائم رکھے اور اپنے دین کی مخلصانہ خدمت انجام دینے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔

وَالْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ

وَصَلَى اللّٰهُ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدًا وَآلِهِ وَصَحْبِهِ أَجْمَعِينَ



# مسلک غیر پر فتوی اور عمل

شرائط و حدود

## تقریب

نحمدہ، و نصلوٰ علٰی رسولہ الکریم، اما بعد!

آج کل سہولت پسندی کے رجحان کی بنا پر تجدید پسندوں کی طرف سے اس بات کی تحریک چلائی جا رہی ہے کہ تمام فقہی مسالک اور آراء کو خلط ملٹ کر کے اپنے حسبِ منشاء نئے فقہ کی تدوین کی جائے، اور کسی ایک مسلک سے وابستگی کا جو دستور امت میں چلا آ رہا ہے اسے ختم کر دیا جائے۔ چنانچہ اس مقصد سے ایک نئی اصطلاح ”اجتماعی اجتہاد“ کے نام سے گڑھ لی گئی ہے، اور اس موضوع پر باقاعدہ سیمینار، سمپوزیم اور اجتماعات منعقد کرنے کا ایک فیشن بن گیا ہے۔ اور جب بھی کوئی فقہی موضوع ذرائع ابلاغ میں زیر بحث آتا ہے اور اس میں فقهاء و مفتیان کی رائیں مختلف ہوتی ہیں تو سہولت پسندوں کو عوام کے سامنے اپنے دیرینہ موقف کے اظہار کا اچھا موقع ہاتھ آ جاتا ہے، اور مسلکی حد بندیوں کو توڑنے کی کوششیں تیز کر دی جاتی ہیں۔

اس صورتِ حال کی نزاکت کا خیال کرتے ہوئے جمعیۃ علماء ہند کے تحت قائم ”ادارة المباحث الفقهیہ“ ۱۴۳۵ھ مطابق ۱۹۹۲ء میں دیوبند میں اسی موضوع پر ایک فقہی اجتماع منعقد کیا تھا، جس میں ایک بہسٹ سوال نامہ کے ذریعہ علماء و مفتیانِ کرام کو اس حساس موضوع پر گھرائی سے جائزہ کی دعوت دی گئی تھی۔ احتراق نے اسی سوال نامہ کے جواب میں یہ بہسٹ مقالہ طلبہ افقاء، مدرسہ شاہی (۱۴۳۵ھ) کی مدد سے تیار کیا تھا، جو بعد میں ”مذہب غیر پر فتوی اور عمل: تحلیل و تجزیہ“ کے نام سے رسالہ کی شکل میں شائع ہوا اور اہل علم میں پسند کیا گیا۔ کیوں کہ یہ مقالہ اصولی موضوع پر ہے اور اس میں قول ضعیف اور مذہب غیر پر عمل کی ان تمام شرائط وحدو دا مر متعلقہ مباحث کا احاطہ کرنے کی کوشش کی گئی ہے جن پر طلبہ افقاء کی نظر رہنی بہت ضروری ہے، اس لئے مناسب معلوم ہوا کہ اس مقالہ کو ”فتاوی نویسی کے رہنمای اصول“ کے ساتھ بطور ضمیمه محقق کر دیا جائے خاص کر اس لئے

بھی کہ ”شرح عقود رسم الْمُفْتَنِ“، کی آخری بحث ”قول ضعیف پر عمل“ سے اس مقالہ میں شامل مضامین کا گھر اربط ہے۔ احقر کو امید ہے کہ اس کے مطالعہ سے شعبۂ افتاء سے وابستہ عزیز طلبہ کے ذہن میں رسوخ اور جلا پیدا ہوگی اور تجدید پسندوں کی طرف سے موقع بمو قع چلانی جانے والی تحریکات کا مضبوطی سے مقابلہ کرنے کا ان میں حوصلہ پیدا ہوگا، انشاء اللہ تعالیٰ۔ اللہ تعالیٰ اس حقیر کاوش کو حسن قبول سے نوازیں، آمین۔

فقط والله الموفق:

احقر محمد سلمان منصور پوری غفرلہ

خادم افتاء و مدرس لیس جامعہ قاسمیہ مدرسہ شاہی مراد آباد

۱۴۲۶ھ/۱۱/۱۲



# سوال نامہ ادارۃ المباحثۃ الفقہیہ جمیعیۃ علماء ہند

بِسْمِ اللّٰہِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

اربابِ فقہ و فتاویٰ اور اصحابِ نظر و فکر علماء کے درمیان یہ بات مسلم ہے کہ ائمہ اربعہ حبھم اللہ اجمعین کے فقہی مسائل کی تقلید اور ان کی پورے طور پر پابندی اور التزام ضروری اور لازم ہے اس لئے کہ علوم اسلامی سے دوری، ورع و تقویٰ اور خوفِ خداوندی کی کمی، خواہشاتِ نفس کی پیروی اور طبیعتوں میں سہولت پسندی کا عام رجحان ہے، ایسی صورت میں اگر مختلف فقہی مذاہب سے خوشہ چینی کی عام اجازت دے دی جائے تو یہ ایک زبردست فتنہ ہو گا، جس کی مدافعت مشکل ہو گی۔

البتہ ہر زمانہ کے فقهاء کرام نے دفعِ حرج کے لئے خاص حالات میں دوسرے امام کے مسلک پر عمل اور فتویٰ کی اجازت دی ہے، جس کی نظیریں کتب فقہ میں موجود ہیں۔ موجودہ حالات میں جدید اور پیچیدہ مسائل کو حل کرنے کے لئے دوسرے مسلک کا سہارا لینا وقت کا اہم تقاضاً بن گیا ہے لیکن اگر اس کی عام اجازت دے دی جائے تو تجدید پسند طبقہ اجتہاد و تحقیق کا نام دیکر ہر ناگفتنی و ناکردنی امور کے لئے شریعت میں جگہ پیدا کر لے گا۔ اس لئے ”ادارۃ المباحثۃ الفقہیہ“ کے ذمہ داروں نے یہ ضرورت محسوس کی کہ وہ رہنمای خطوط واضح کر دئے جائیں جن کے دائرہ میں رہ کر بوقت ضرورت دوسرے مسلک پر فتویٰ اور عمل کی راہ کو اپنایا جائے۔ اس سلسلہ میں چند بنیادی سوالات پیش خدمت ہیں، جو ”دوسرے مسلک پر فتویٰ اور عمل کے حدود و شرائط“ کو منضبط کرنے میں انشاء اللہ معاون ہوں گے۔

(۱) دوسرے مسلک پر فتویٰ اور عمل کی اجازت ہے یا نہیں؟

الف: اگر اجازت ہے تو عام حالات میں یا خاص حالات میں بوقتِ ضرورت؟

ب: اگر بوقتِ ضرورت اجازت ہے تو ضرورت کی تعریف، اقسام اور اس باب میں ضرورت کی تعینیں؟

ج: ضرورتِ عامہ کا اعتبار ہے یا ضرورتِ خاصہ کا یاد و نوں کا؟

د: کیا عبادات اور معاملات میں کوئی فرق ہے؟

۵: ضرورت عامہ کے تعین کیا صورت ہے؟

(۲) کیا ضرورت کے علاوہ افتاء بمنہب الغیر کے لئے اور بھی شرائط ہیں؟ وہ کیا ہیں؟

(۳) افتاء بمنہب الغیر کے اختیار کے لئے مفتی میں کیا اہلیت ہونی چاہئے؟ کیا تہا

ایک مفتی دوسرے مسلک پر فتویٰ دینے کا مجاز ہوگا یا ارباب افتاء کا اتفاق ضروری ہے؟

(۴) کیا کسی شخص کے لئے ارباب فقه و فتاویٰ سے رجوع کئے بغیر دوسرے مسلک پر عمل

کی گنجائش ہے؟

(۵) تلفیق کے کیا معنی ہیں اور اس کی کتنی قسمیں ہیں، اور ان کے کیا احکامات ہیں؟

الف: تلفیق کی کیا کوئی ایسی شکل ہے جو دائرہ جواز میں آتی ہو؟

ب: تلفیق کے ناجائز ہونے کی وجہ اور اس کی بنیادی خرابی کیا ہے؟

(۶) جو مسئلہ ائمہ ار بعدهم اللہ کے درمیان متفق علیہ ہے کیا کسی صورت میں اس کو چھوڑ کر

دیگر ائمہ مجتهدین کے قول کو اختیار کیا جاسکتا ہے؟ اگر نہیں تو کیا وجہ ہے؟ اگر گنجائش ہے تو کب اور کیا

شرائط ہیں؟

(۷) اپنے مسلک کے غیر راجح اور ضعیف قول پر فتویٰ دینے اور عمل کرنے کی گنجائش ہے

اگر ہے تو کب اور اس کی کیا شرائط ہیں؟

منجانب:

ادارة المباحث الفقهية جمعية علماء هند، نئی دہلی

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

اللَّهُمَّ لَهُ دِينُنَا وَأَنْتَ رَبُّ الْعَالَمِينَ، وَالصَّلَاةُ عَلَى مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَآلِهِ وَسَلَامٌ عَلَى سَيِّدِ الْمُرْسَلِينَ  
سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَآلِهِ وَاجْمَعِيهِ: إِنَّا بَعْدًا

شریعتِ اسلامی کی جامعیت اور آفاقت محتاج بیان نہیں، ہر جگہ اور ہر زمانہ کے سماجی اور معاشرتی انفرادی اور اجتماعی ہر طرح کے مسائل و مشکلات کا مدد اور فتح اسلامی میں موجود ہے۔ ملت اسلامیہ کے لئے اس سے بڑھ کر اور کیا نعمت ہو گی کہ اس کو خالق دو جہاں رب ذوالجلال کی طرف سے زندگی گزارنے کا مکمل لائچہ عمل، دینِ اسلام کی صورت میں عطا کر دیا گیا ہے۔

ارشاد خداوندی ہے:

آج کے دن تمہارے لئے تمہارے دین کو میں  
نے کامل کر دیا اور میں نے تم پر انعام تمام کر دیا،  
اور میں نے اسلام کو تمہارا دین بننے کے لئے  
پسند کر لیا۔ (حضرت تھانوی)

الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِيْنَكُمْ  
وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي  
وَرَضِيَتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِيْنًا.

(المائدہ ۳)

اس عظیم نعمت کے مل جانے کے بعد اہل اسلام کو اسلام کے علاوہ کسی اور لائچہ عمل اور ضابطہ زندگی کی طرف نظر اٹھانے کی ضرورت ہے نہ گنجائش، بلکہ اہل اسلام ہی کیا دنیا کا کوئی بھی فرد اگر اس خداوندی طریقہ سے روگردانی کر کے کسی اور راستہ کو اپنائے گا تو وہ بارگاہِ ایزدی میں قبولیت نہ حاصل کر سکے گا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا:

اور جو شخص اسلام کے سوا کسی دوسرے دین کو  
طلب کرے گا تو وہ اس سے مقبول نہ ہو گا اور وہ  
آخرت میں تباہ کاروں میں ہو گا۔ (حضرت تھانوی)

وَمَنْ يَتَّخِذْ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِيْنًا فَلَنْ  
يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنْ  
الْخَسِيرِينَ. (آل عمران ۸۵)

واضح رہے کہ ”اسلامی لائچہ عمل“ کا احاطہ ”قرآنی قوانین“ سے نہیں کیا جاسکتا، بلکہ اس مقصد کے حصول کے لئے ہمیں لامحالہ صاحبِ قرآن، سرورِ کائنات، فخرِ دو عالم ﷺ کی مبارک احادیث اور آپ کے جاں شاروں کی مقدس جماعت کے آثار و فتاویٰ اور اسوہ زندگی کو بھی پیش نظر

رکھنا پڑے گا، کیوں کہ ان بنیادی مأخذ کو سامنے رکھے بغیر کوئی شخص صحیح معنی میں اسلامی احکامات کا ادراک نہیں کر سکتا۔

دوسری طرف یہ امر بھی ظاہر ہے کہ اگر ”قرآن و سنت“ میں قیامت تک پیش آنے والے سبھی واقعات و جزئیات اور ان کے احکامات کو جمع کرنے کی کوشش کی جاتی اور حال و مستقبل کے سبھی مسائل بسط و تفصیل کے ساتھ لکھ دئے جاتے تو اتنی طوالت ہو جاتی کہ ان سے عام آدمیوں کا استفادہ نہایت دشوار ہو جاتا، بریں بنا مجانب خداوندی قرآن و سنت میں قانون سازی کے بنیادی نکات بیان کر کے اہل اسلام کو اجتہاد و اتنیاط کا موقع فراہم کر دیا گیا ہے، تاکہ حالات کے مطابق قوانین شرعیہ سے استفادہ کرتے ہوئے احکامات کا تعین کیا جاسکے اور زمانہ کی ضرورتیں پوری ہوتی رہیں۔

## اسلام میں قانون سازی کی بنیاد

اسلام میں قانون سازی کی چار بنیادیں ہیں، جن پر تمام ہی فقہ اسلامی کے مسائل کا مدار رکھا جاتا ہے، اور سبھی ائمہ متبویین ان کو پیشِ نظر رکھتے ہیں۔

(۱) **كتاب الله**: یعنی رسول اکرم ﷺ پر نازل شدہ قرآن کریم، جس کی غیر مسئول اور محاکم و مفسر آئیں بلاشبہ قطعی اور یقینی طور پر قابلِ انتیاد و اتباع ہیں۔

اس بنیادی مأخذ شریعت سے احکامات و قوانین کی تخریج کے لئے حضراتِ فقهاء نے مختلف اعتبارات سے بیس قسمیں نکالی ہیں، جنہیں معلوم کئے بغیر احکام کو نہیں پہچانا جاسکتا۔ (۱) خاص (۲) عام (۳) مشترک (۴) مسئول (۵) ظاہر (۶) نص (۷) مفسر (۸) محاکم (۹) خفی (۱۰) مشکل (۱۱) محمل (۱۲) تشابہ (۱۳) حقیقت (۱۴) مجاز (۱۵) صریح (۱۶) کتابیہ (۱۷) عبارت (۱۸) اشارۃ النص (۱۹) دلالۃ النص (۲۰) اقتداء النص۔

انہی تقسیمات کے اعتبار سے دراصل احکامات کا تعین ہوتا ہے۔ (نور الانوار ۱۳۳)

(۲) **سنن رسول الله**: رسول اکرم ﷺ کے اقوال و افعال اور آپ کے سامنے پیش آمدہ واقعات وغیرہ فقہی اصطلاح میں سنن کہلاتے ہیں۔ (نور الانوار ۱۷۵)

سنن کے کچھ درجات ہیں جن کے اعتبار سے ان کی حیثیتیں بھی مختلف ہو جاتی ہیں۔

**الف: سننِ متوترة:** یعنی ایسی سنن جس کے ناقل ابتداء سے لے کر آج تک اتنی بڑی تعداد میں ہوں کہ عادۃ ان کا جھوٹ پر اتفاق مشکل ہو، سنن کے اس درجہ سے علم ضروری کا حصول ہوتا ہے۔ (نور الانوار ۲۷، اعلاء السنن ۲۳۱)

**ب: سننِ مشہورہ:** یعنی ایسی سنن جو ابتدائی زمانہ (دورِ صحابہ ﷺ) میں اگرچہ اکاؤ کا افراد سے منقول رہی ہو مگر بعد میں اسے قبول عام حاصل ہو گیا ہواں قسم کے ذریعہ کتاب اللہ کی مجلہ آئیوں کی تفسیر اور مطلق نصوص کی تقيید کا کام لیا جاسکتا ہے۔ مثلاً کفارہ یہیں میں روزہ پے در پے رکھنے کی شرط سننِ مشہورہ کے ذریعہ بڑھائی گئی ہے۔ (حاشیہ نور الانوار ۲۷-۲۸)

**ج: خبر واحد:** تیسرا درجہ خبر واحد کا ہے، جس کا اطلاق ایسی سنن پر ہوتا ہے جس کے نقل کرنے والے قرونِ ثلاثہ (دورِ صحابہ ﷺ، دورِ تابعینؓ اور دورِ تابعوںؓ) میں اتنے نہ رہے ہوں کہ ان کی روایت درجہ تواتر یا درجہ شهرت تک پہنچ سکے۔ ( واضح رہے کہ قرونِ ثلاثہ کے بعد شهرت ہونے سے حدیث مشہور نہیں قرار دی جاتی) خبر واحد مغضض ظن کا فائدہ دیتی ہے، لیکن آیتِ قرآنی: فَلَوْلَا نَفَرَ مِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ مِنْهُمْ طَائِفَةٌ لِيَتَفَقَّهُوا فِي الْمِدِينَ۔ (التوبہ) سے اتنا ضرور مستفادہ ہوتا ہے کہ اگر اس طرح کی کسی سنن کا معارضہ کسی دوسری مضبوط دلیل سے نہ ہو تو اس پر عمل کرنا ضروری ہوتا ہے، اس معنی کر خبر واحد بھی اسلامی قانون کا ایک بڑا مأخذ ہے۔ (نور الانوار ۲۸)

چنانچہ بہت سے شرعی احکامات خبر واحد سے مستفادہ ہیں، مثلاً: ڈاڑھی منڈانے کی حرمت اور حاجی کے لئے حالتِ احرام میں خوشبو وغیرہ لگانے کی ممانعت۔ (ہدایہ ۲۳۹)

**(۳) اجماع امت:** تشریع اسلامی کا تیسرا مخذالت کے اہل افراد کا قول یا فعلی اجماع ہے، جو عموم یقینی کا فائدہ دیتا ہے حتیٰ کہ اس کا منکر کافر ہے۔ (نور الانوار ۲۲۱)

## دلائل سمعیہ

ان تینوں بنیادوں کا تعلق نقلي دلائل سے ہے، جن کے فی الجملہ چار مراتب ہیں:

**الف: قطعی الثبوت قطعی الدلالۃ:** یعنی قرآن کریم کی مفسر و مکالم اور غیر موقول آیتیں اور

سنِ متواترہ۔ جیسے: خون مسفوح کی حرمت، شراب کی حرمت وغیرہ۔ اس طرح کے دلائل سے جانب امر میں فرضیت اور جانب نبی میں قطعی حرمت ثابت ہوتی ہے۔

**ب: قطعی الثبوت ظنی الدلالۃ :** یعنی قرآن کریم کی محمل و مسوول آیات اور وہ احادیث متواترہ جن کی دلالت ظنی ہے۔ مثلاً تَلَاهَةَ قُرُوْءٍ میں لفظ قُرُوْءٍ اگرچہ قطعی الثبوت ہے مگر اس کی دلالت کہ حیض مراد ہے یا طہر ظنی ہے۔ اس بنا پر حضرات حفیہ نے آیت کی تاویل حیض سے کی ہے، اور حضرات شافعی نے قُرُوْءٍ سے طہر مراد لیا ہے۔ صاحب نور الانوار فرماتے ہیں:

<p>اور اس کی وضاحت یہ ہے کہ ارشاد خداوندی ثلاثۃ قروء طہر اور حیض کے معنی میں مشترک ہے، پس حضرت امام شافعی نے طہر کے معنی لئے ہیں اور حضرت امام ابوحنیفہ نے حیض سے تاویل کی ہے۔</p>	<p>وبیانہ آن قولہ تعالیٰ قروء مشترک بین معنی الطہر والحیض فأوله الشافعی بالاطھار الخ. وأوله أبو حنیفة بالحیض۔ (نور الانوار ۱۸)</p>
--	--

الغرض اگر کسی قطعی دلیل میں عمومیت اور تاویل کی گنجائش نکل آئے تو اس کی دلالت ظنی ہو جاتی ہے، اور اس کا درجہ حکم کے اعتبار سے قطعیت سے نیچے آ جاتا ہے، پھر اس سے قطعی فرض اور قطعی حرام کا ثبوت نہیں ہوتا، بلکہ جانب امر میں وجوب یعنی فرض عملی اور جانب نبی میں کراہت تحریمی یعنی حرام عملی ثابت ہوتا ہے۔ اور اس سے ثابت شدہ متفق یا ثابت حکم کا مکمل کافر قران نہیں دیا جاتا۔ و حکمہ (الواجب) اللزوم عملاً علمًا علی الیقین حتی لا يکفر جاصدہ۔ (نور الانوار ۱۶۶)

**ج: ظنی الثبوت قطعی الدلالۃ :** یعنی وہ احادیث و اخبار آحاد جو اپنے مفہوم کے اعتبار سے قطعی ہیں، مگر ان کے ثبوت میں ظنیت پائی جاتی ہے۔ اس صفت کی دلیلیں معارضہ سے محفوظ ہونے کی صورت میں قسم ثانی کی طرح جانب امر میں وجوب اور جانب نبی میں کراہت تحریمی ثابت کرتی ہیں۔ مثلاً آنحضرت ﷺ نے ارشاد فرمایا:

لَا تشربوا فِي أَنِيَةِ الذَّهَبِ  
سونے چاندی کے برتن میں نہ پیو۔

یہ حدیث خبر واحد ہے، مگر اس سے جو معنی مقصود ہیں وہ قطعی ہیں، یعنی سونے چاندی کے برتن کا استعمال منوع ہے، لہذا اس حدیث سے سونے چاندی کے برتوں کے استعمال کی کراہت ثابت کی جائے گی۔ (علاوه ازیں کبھی دیگر قرائئن کو پیش نظر کر کر اس درجہ کے دلائل سے وجوب کے بجائے سنت اور کراہت تحریکی کے بجائے مطلق کراہت کا بھی ثبوت ہوتا ہے، مثلًا وہ احادیث آحاد جن میں بیمار کی عیادت، جنازہ کی مشایعت وغیرہ کے احکامات دئے گئے ہیں۔ (مسلم شریف ۱۸۸/۲) ان سے بالاتفاق وجوب مراد نہیں بلکہ مخصوص سنت مراد ہے)

**د: ظنی التبوت ظنی الدلالۃ :** یعنی وہ احادیث و اخبارِ آحاد جو جمل اور قبل تاویل ہوں، اس قسم کے دلائل سے جانبِ امر میں سنت و استحباب اور جانبِ نہی میں کراہتِ تنزیہ کی ثبوت ہوتا ہے۔ مثلًا ارشاد نبوی ﷺ ہے:

جب نماز کھڑی ہو جائے تو پھر فرض کے علاوہ کوئی نماز نہیں ہے۔	إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة۔ (ترمذی شریف ۹۶۱)
--	---

ابوداؤد شریف (۱۸۰/۱)

یہ حدیث خبر واحد ہونے کے اعتبار سے ظنی ہے، اور اس کی دلالت بھی ظنی ہے، باس طور کے یہ نہیں عام ہے یا صرف مسجد میں اور امام کے قریب پڑھنے کی ممانعت ہے؟ چنان چہ شافعیہ نہی کو عام مان کر فرض شروع ہونے کے بعد کہیں بھی نفل پڑھنے سے منع کرتے ہیں۔ اور مالکیہ و حنفیہ نہی کو مسجد کے ساتھ خاص مان کر خارج مسجد نو افال و سنن پڑھنے کی اجازت دیتے ہیں بشرطیکہ فرض بالکلیہ چھوٹے کا ندیشنا ہو۔ (بداية المحتهد ۱۴۹/۱) الغرض اس ظنیت کی بناء پر حدیث بالا سے جانب نہی میں صرف کراہتِ تنزیہ کی ثابت ہوگی۔

ادله سمعیہ کی یہ تفصیل اور ان سے ثابت ہونے والے احکامات کا یہ تعین علامہ شامیؒ نے رداخت کر اپنی ۹۵، شامی زکریا ۱۴۹۱-۲۰۸ میں نقل کیا ہے۔ اس کے علاوہ طحاوی علی المراتق دمشق ۳۲-۳۱، اشرفی دیوبند ۵۶-۷۵ اور شرح نقایہ ۲/۱ پر بھی اس کی وضاحت کی گئی ہے، لیکن یہ

ضابطے عمومی ہیں کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ مجتهد کے نزدیک کوئی ظنی دلیل کسی قرینہ کی بنیاد پر قطعی کے درجہ تک پہنچ جاتی ہے اور وہ اس سے وجوب کا حکم ثابت کر دیتا ہے حتیٰ کہ بعض مرتبہ خبر واحد سے رکنیت بھی ثابت کر دی جاتی ہے۔ چنانچہ اس کی وضاحت کرتے ہوئے علامہ شامی لکھتے ہیں:

لیکن کبھی مجتهد کے نزدیک دلیل ظنی اتنی مضبوط ہو جاتی ہے کہ وہ قطعی کے قریب تک پہنچ جاتی ہے، تو جو حکم ایسی دلیل سے ثابت ہوا اسے فرض عملی کہا جاتا ہے، اس لئے کہ عمل کے ضروری ہونے میں اس کے ساتھ فرائض جیسا معاملہ کیا جاتا ہے اور ظنیت دلیل کی بنابرائے واجب کہتے ہیں۔ تو یہ واجب کی اعلیٰ اور فرض کی ادنیٰ قسم ہے، بلکہ کبھی تو مجتهد کے نزدیک خبر واحد بھی قطعی کے درجہ تک پہنچ جاتی ہے، اسی وجہ سے علماء نے فرمایا ہے کہ اگر وہ (خبر واحد) عام طور پر قبول کی جاتی ہو تو اس سے رکنیت ثابت کرنا بھی درست ہے، حتیٰ کہ وقوف عرفہ کی فرضیت آنحضرت ﷺ کے ارشاد: ”الحج عرفۃ“ (حج عرفہ ہے) سے ثابت کی گئی ہے۔

اسی طرح فقهاء کے کلام میں کبھی کبھی فرض کا اطلاق ایسے حکم پر کر دیا جاتا ہے جو دلیل ظنی سے ثابت ہے، اور واجب کا نام ایسے حکم کو دے دیا جاتا ہے جو دلیل قطعی سے ثابت ہو، نیز واجب کے کبھی مختلف درجات ہوتے ہیں اور ان سب کے لئے ایک ہی لفظ ”واجب“ استعمال کر لیا جاتا ہے۔ اس لئے احکام کی تعین میں اس امر کا بھی خیال رکھنا ضروری ہے۔ علامہ شامی صاحب تلویح

شمن الممجتهد قد یقوى عنده  
الدلیل الظنی حتیٰ یصیر قریباً  
عنده من القطعی فما ثبت به  
یسمیه فرضاً عملیاً لأنہ یعامل  
معاملة الفرض فی وجوب العمل  
ویسمی واجباً نظراً إلی ظنیہ دلیله  
 فهو أقوى نوعی الواجب وأضعف  
نوعی الفرض بل قد یصل خبر  
الواحد عنده إلی حد القطعی ولذا  
قالوا أنه إذا كان متلقی بالقبول  
جاز اثبات الرکن به حتیٰ تثبت  
رکنیۃ الوقوف بعرفات بقوله ﷺ  
”الحج عرفۃ“۔ (شامی کراچی ۹۵۱، ۲۰۷۱)

سے نقل کرتے ہوئے تحریر کرتے ہیں:

إن استعمال الفرض فيما ثبت  
بظني، والواجب فيما ثبت  
بقطعي شائع مستفيض، فلفظ  
الواجب يقع على ما هو فرض  
علمأً و عملاً كصلاة الفجر،  
وعلى ظني هو في قوة الفرض  
في العمل كالوقت حتى يمنع  
ذكره صحة الفجر كتدذكرة  
العشاء وعلى ظني هو دون  
الفرض في العمل وفوق السنة  
كتعيين الفاتحة حتى لا تفسد  
الصلاه بتركها لكن تجب  
سجدة السهو.

(شامی کراچی ۹۵۱)

(شامی زکریا ۲۰۷-۲۰۸)

ظنی دلیل سے ثابت شدہ حکم کو فرض کا نام دینا اور  
قطعی دلیل سے مستقاد حکم کو واجب سے تعبیر کرنا  
(علماء کے حلقة میں) مشہور و معروف ہے، تو لفظ  
واجب کبھی ایسے حکم پر بولا جاتا ہے جو علمی اور عملی ہر  
اعتبار سے فرض ہے، جیسے نماز فجر اور ایسے حکم پر بھی  
اس کا اطلاق ہوتا ہے جو اگرچہ ظنی ہے مگر عمل میں  
فرض کی قوت رکھتا ہے۔ مثلاً نمازو تر (کہ وہ فرض  
عملی ہے) حتیٰ کہ اگر (کوئی شخص وتر نہ پڑھے  
اور) صحیح نمازو فجر سے پہلے اسے یاد آجائے کہ اس  
نے وتر نہیں پڑھی (اور وہ صاحب ترتیب ہو) تو یہ  
یاد آنا اس کے لئے صحیح فجر سے مانع ہوگا، بالکل  
اسی طرح جیسے چھوٹی ہوئی عشاء کی نماز کا یاد آنا مانع  
ہوتا ہے، اسی طرح (واجب کا اطلاق) ایسے حکم ظنی  
پر بھی ہوتا ہے جو عمل میں فرض کے درجہ سے کمتر  
اور سنت کے درجہ سے بڑھا ہوا ہے۔ جیسے سورہ  
فاتحہ کا متعین ہونا کہ اس کو چھوڑنے سے نماز تو  
 fasد نہیں ہوتی، البتہ سجدہ سہو واجب ہوتا ہے۔

ان وضاحتوں کو پیش کرنے کا مقصد یہ ہے کہ محض اولہ سمعیہ کے ضابطوں کو ہی پیش نظر رکھ  
کر ہم خود اپنی رائے سے احکامات کا تعین نہیں کریں گے، بلکہ اس میں بھی مجتہدین اور اصحاب  
رائے کے اقوال کو سامنے رکھنا پڑے گا، اس کے بغیر اولہ سمعیہ کے صحیح منشار عمل نہیں کیا جا سکتا۔

(۴) **قياس**: تشریع اسلامی کی چوہی بنیاد ”قياس“ ہے، جس کا مفہوم یہ ہے کہ حکم منصوص سے ”علت“ نکال کر اس حکم کو غیر منصوص میں جاری کرنا یا یوں کہئے کہ علت میں اتحاد کی بنیاد پر فرعی مسئلہ پر اصلی کا حکم لگا دینا، صاحب ”توضیح و تلویح“، لکھتے ہیں:

وہ اصل سے فرع کی جانب حکم کو لے جانا ہے،  
اویس مشترک علت کی وجہ سے جسے مغض لغت سے  
نہ سمجھا جاسکے۔

وهو تعددية الحكم من الأصل  
إلى الفرع بعلة متحدة لا يدرك  
بمجرد اللغة. (توضیح تلویح ۳۶۳)

اور ”معجم لغة الفقهاء“ میں قیاس کی تعریف اس طرح لکھی گئی ہے۔

قياس: وہ حکم میں اصل کو فرع کے ساتھ لاحق کر دینا ہے، (دونوں میں) علت کے اشتراک کی بنیاد پر۔

القياس: إلحاقي أصل بفرع في  
الحكم لاتحادهما في العلة.  
(معجم لغة الفقهاء ۳۷۲)

ان تعریفات سے یہ واضح ہو گیا کہ قیاس اصل دین سے خارج کوئی چیز نہیں ہے، بلکہ مغض علت کے تedyہ کا نام قیاس ہے، یہی وجہ ہے کہ فقهاء کی نظر میں قیاس وہی معتبر ہے جس کی بنیاد کسی نص پر ہو، اور جو کسی حکم منصوص کے خلاف نہ پڑتا ہو۔ اسی طرح یہ بھی شرط ہے کہ حکم اصلی منصوص نہ ہو، اور غیر مدرک باعقل نہ ہو، نیز یہ بھی ضروری ہے کہ حکم فرع کے ثبوت کے لئے کوئی غیر متعارض نص موجود نہ ہو۔ اگر ان میں سے کوئی بھی شرط نہ پائی جائے گی تو ایسے قیاس کا اعتبار نہ ہوگا، چنانچہ کتب اصول میں ان شرائط کی تفصیلات اہتمام سے درج کی جاتی ہیں۔ (التوضیح و التلویح ۳۶۸)

تو معلوم ہوا کہ قیاس نہ صرف دلیل شرعی ہے بلکہ احکام شریعت اور قرآن و سنت کی عظمت کی دلیل بھی ہے، جس کے ذریعہ سے قرآن و سنت کے الفاظ و معانی دونوں پر عمل کرنے کی توفیق میسر آتی ہے۔ اسی وجہ سے اہل اصول لکھتے ہیں:

اویس میں کتاب اللہ کی شان کی تعظیم اور اس کے الفاظ و معانی دونوں پر عمل کرنے کا فائدہ ہے، یعنی  
وفي ذلك تعظيم شأن الكتاب  
والعمل به لفظاً و معنىً أي في

قياس پر عمل کرنے میں کتاب اللہ کی تعظیم ہے، اور مقیس علیہ (جس پر قیاس کیا جائے یعنی اصل) میں الفاظ قرآن کا اعتبار ہے۔ اور مقیس (جسے قیاس کیا جائے یعنی فرع) میں قرآن کے معنی پر عمل کرنا ہے۔ (تو گویا الفاظ و معانی دونوں پر عمل ہو گیا) اس کے برخلاف قیاس کے منکرین نے صرف الفاظ قرآنی پر عمل کیا اور اس کے منشا کا اعتبار کرنے سے اعراض کیا، اسی طرح اس کے معانی کے سمندر سے چھپے ہوئے موتی نکلنے سے بھی گریز کیا ہے، اور اس بات سے بھی وہ ناواقف رہے کہ قرآن کا ایک ظاہر اور ایک باطن ہے اور ہر ایک کا الگ الگ محل ہے، اور اللہ تعالیٰ نے علماء راشحین اور اصحاب معرفت کو معانی قرآن کے دقائق سمجھنے کی توفیق عطا فرمائی ہے، تاکہ قرآنِ کریم کے معانی کے حسن و جمال سے پر دے ہٹائے جاسکیں۔

## استحسان

قياس اگر ایسا ہو کہ سلطھی نظر سے ہی اس کی معقولیت سمجھ میں آجائے تو اسے مطلق قیاس یا قیاس جلی کہتے ہیں، لیکن اگر اس میں علت نکلنے میں زیادہ گہرا تی اور گیرا تی کی ضرورت ہو تو اسے ”قياس خفی“ کہا جاتا ہے۔ اسی قیاس خفی کا نام ”استحسان“ بھی ہے، عام طور پر کتب فقہ میں استحسان اسی معنی میں مستعمل ہے۔ (تو چ تلوخ ۳۹۲) (ویسے استحسان اپنے معنی میں عموم رکھتا ہے چنانچہ استحسان بالنص، استحسان بالاجماع اور استحسان بالضرورة کی اصطلاحیں بھی اہل اصول میں مشہور ہیں، مگر ان تینوں قسموں کی حیثیت نص کے برابر ہے، اور ان کے مقابلہ میں قیاس قبول نہیں ہے۔

العمل بالقياس تعظيم شان الكتاب واعتبار نظمه فى المقىس عليه واعتبار معناه فى المقىس وأما منكره القياس فإنهم عملوا بنظم الكتاب فقط وأعرضوا عن اعتبار فحواه وإخراج الدرر المكونة عن بحار معناه وجهلوا أن للقرآن ظهراً وبطناً وإن لكل واحد مطلعاً وقد وفق الله تعالى العلماء الراسخين العارفين دقائق التاويل لكشف قناع الاستار عن جمال معنى التنزيل.

(توضیح تلویح ۳۶۷)

(حسمی ۱۰۶) مثلاً بیع سلم کا جواز، روزے کا بھول کر کھانے پینے سے نہ ٹوٹنا، استھنان کا جواز اور معمولی مینگنیوں سے کنوں کا ناپاک نہ ہونا وغیرہ۔ (توضیح تلویح ۳۹۳) البتہ استھنان بمعنی قیاس خفی کا مقابلہ جب قیاس جلی سے ہوتا ان میں ترجیح کے لئے بنیادی طور پر اصول پیش نظر رہنے چاہئیں۔

## اصول: ۱

اگر استھنان کی تاثیر مضبوط اور قیاس کا اثر کمزور ہو تو استھنان کو ترجیح ہوگی۔ (۱) مثلاً پھاڑ کھانے والے پرندوں کے جھوٹے کے بارے میں قیاس یہ چاہتا ہے کہ ان کا جھوٹا ناپاک ہو، جیسے کہ درندے جانوروں کا جھوٹا ناپاک ہوتا ہے، مگر قیاس خفی یعنی استھنان کے اعتبار سے جھوٹا ناپاک ہے، اس لئے کہ وہ اپنی چونچ سے پانی پیتے ہیں جو پاک ہڈی ہوتی ہے لہذا ان کے جھوٹے کو ناپاک نہیں کہا جائے گا، صاحب توضیح تلویح فرماتے ہیں:

مثلاً پھاڑ کھانے والے پرندے: کیوں کہ درندے چوپایوں پر قیاس کے اعتبار سے نجس ہیں، مگر استھانا ان کے جھوٹے کو پاک کہا گیا، اس لئے کہ وہ اپنی چونچ سے پانی پیتے ہیں اور چونچ ایک پاک ہڈی ہے۔	کسباع الطیر فیانہ نجس قیاساً علی سؤر البهائم طاهر استحساناً لأنها تشرب بمنقارها وهو عظم طاهر. (التوضیح والتلویح ۳۹۴)
---	--

## اصول: ۲

اگر قیاس خفی کی صحت کی دلیل ظاہر اور فساد کی دلیل خفی ہو اور اس کا مقابلہ ایسے قیاس جلی سے ہو رہا ہو جس کے فساد کی دلیل ظاہر اور صحت کی دلیل پوشیدہ اور مضر ہو تو ایسی صورت میں قیاس

(۱) اس کے مقابلہ میں تین صورتیں اور ہیں: (۱) قیاس اور استھنان دونوں کا اثر مضبوط ہو، اس صورت میں قیاس راجح ہے۔ (۲) استھنان کا اثر کمزور اور قیاس کا اثر مضبوط ہو، اس صورت میں بھی قیاس کو ترجیح ہے۔ (۳) قیاس اور استھنان دونوں کا اثر کمزور ہو، تو یا تو دونوں کو ساقط کر دیا جائے گا یا پھر قیاس پر عمل کریں گے۔ تو معلوم ہوا کہ اس طرح کی ۲ قسموں میں سے صرف ایک قسم میں استھنان کو قیاس پر ترجیح ہے۔ بقیہ اقسام میں قیاس ہی معمول ہے۔ (توضیح تلویح ۳۹۵)

جلی کو قیاسِ خفی یعنی استحسان پر ترجیح ہوگی۔ مثلاً نماز کے دوران سجدہ تلاوت رکوع کے ذریعہ ادا ہو جانا، اس میں قیاس تو یہی کہتا ہے کہ جس طرح سجدہ تعظیم پر دال ہے اسی طرح رکوع بھی تعظیم کی دلیل ہے نیز اس بارے میں نص بھی وارد ہے: وَخَرَّ رَاكِعاً۔ مگر اس میں ایک ظاہری فساد یہ پایا جاتا ہے کہ جب حقیقت یعنی سجدہ پر عمل ممکن ہے تو مجاز کا حکم کیوں دیا جا رہا ہے، تو قیاس کے صحیح نہ ہونے کی دلیل ظاہر پائی گئی، اور حکم قیاس کے صحیح قرار دینے کی دلیل اس کے مقابلہ میں مخفی رہ گئی، جب کہ استحسان کی نظر میں عمل صحیح نہ ہونا چاہئے، کیوں کہ یہ امر شارع کے خلاف ہے۔ یہاں استحسان کی صحت کی دلیل واضح ہے، اس لئے کہ ارکانِ صلاة میں سے کوئی رکن دوسرے کے قائم مقام نہیں ہوتا، مگر اس میں ایک مخفی فساد پایا جاتا ہے باس معنی کہ اس میں سجدہ کے اصل مقصد یعنی اظہار تعظیم سے صرف نظر کر لیا گیا ہے، لہذا یہاں استحسان کو چھوڑ کر قیاس کو ترجیح دیں گے، اور رکوع کے ذریعہ سجدہ تلاوت کی ادائیگی کا قول کریں گے، اس لئے کہ قیاس جلی میں صحت کا حکم مضبوط ہے، باس معنی کہ اصل میں سجدہ کی مشروعت کا حکم متکبرین کی مخالفت کے لئے دیا گیا ہے، اور یہ مقصد رکوع سے بھی حاصل ہو جاتا ہے۔ (حاشیہ حسن چینی ۳۹۵)

توضیح و تلویح میں ہے:

جیسے سجدہ تلاوت قیاس کے اعتبار سے رکوع کے ذریعہ بھی ادا ہو جاتا ہے، اس لئے کہ اللہ تعالیٰ نے رکوع کو اپنے ارشاد: وَخَرَّ رَاكِعاً میں سجدہ کی جگہ رکھا ہے۔ اور استحساناً سجدہ تلاوت رکوع سے ادانتہ ہو گا، اس لئے کہ شریعت نے تو سجدہ کا حکم دیا ہے تو وہ رکوع سے ادانتہ ہو گا جیسے نماز کا سجدہ (رکوع سے ادا نہیں ہوتا) تو ہم نے قیاس میں جو باطنی صحت پائی جا رہی ہے اس پر عمل کیا، اور یہ ہے	کس سجدہ تلاوة تؤدی بالرکوع قياساً لأنَّه تعالى جعل الرکوع مقام السجدة في قوله وَخَرَّ رَاكِعاً لا استحساناً لأنَّ الشرع أم بالسجود فلا تؤدی بالرکوع كسجود الصلاة فعملنا بالصحة الباطنة في القياس وهي أن السجود غير مقصود هنا وإنما
--	---

کہ یہاں سجدہ ہی مقصود نہیں بلکہ فرض ہر وہ عمل ہے  
جو تواضع کا مظہر ہوتا کہ تکبر کرنے والوں کی مخالفت  
ہو سکے (یہ مقصد رکوع میں بھی حاصل ہے)

الفرض ما يصلح تواضعًا  
مخالفة المتكبرين. (التوضيح)  
(۳۹۴)

ان کے علاوہ بھی دیگر تقسیمات صاحب توضیح تلویح اسی طرح حاشیہ چلپی اور دیگر کتب اصول  
میں ذکر کی گئی ہیں، جن سے معلوم ہوتا ہے کہ مطلقاً احسان کو قیاس پر ترجیح نہیں ہے، بلکہ اس کے کچھ  
آداب و شرائط ہیں، انہیں سامنے رکھ کر ہی قیاس و احسان کے درمیان ترجیح کا کام انجام دیا جاسکتا ہے۔

### حدیث معاذ رضی اللہ عنہ

قیاس و احسان کی اہمیت اور جیت سے متعلق حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ کی درج ذیل  
حدیث سب سے زیادہ واضح ہے۔ راوی کہتا ہے:

کہ آنحضرت ﷺ نے جب حضرت معاذ رضی اللہ عنہ کو  
یمن ہیجنے کا ارادہ فرمایا تو پوچھا: کہ اگر کوئی مسئلہ  
تمہارے سامنے آئے تو تم کیسے فیصلہ کرو گے؟  
حضرت معاذ رضی اللہ عنہ نے جواب دیا: میں اللہ کی  
کتاب سے فیصلہ کروں گا، حضور ﷺ نے فرمایا  
کہ اگر اللہ کی کتاب میں حکم نہ پاؤ تو کیا کرو گے؟  
حضرت معاذ رضی اللہ عنہ نے جواب دیا: کہ آنحضرت  
کی سنت سے فیصلہ کروں گا، آپ نے فرمایا  
کہ اگر اس میں بھی نہ پاؤ؟ تو حضرت معاذ رضی اللہ عنہ  
نے جواب دیا: کہ اس وقت میں بلا کسی پرواکے  
اپنی رائے سے اجتہاد کروں گا، آنحضرت  
نے یہ سن کر حضرت معاذ رضی اللہ عنہ کے سینہ پر ہاتھ مارا

إن رسول الله ﷺ لما أراد أن  
يبعث معاذًا رضي الله عنه إلى اليمن قال  
كيف تقضى إذا عرض لك  
قضاءً قال أقضى بكتاب الله قال  
فإن لم تجد في كتاب الله قال  
في سنة رسول الله ﷺ قال فإن لم  
تجد في سنة رسول الله ﷺ ولا  
في كتاب الله قال اجتهد برائي  
ولا إله، فضرب رسول الله ﷺ صدره فقال: الحمد لله الذي  
وفق رسول الله ﷺ لما  
يرضى رسول الله ﷺ.

اور فرمایا کہ اللہ کا شکر ہے کہ اس نے رسول اللہ ﷺ کے قاصد کو الی بات کی توفیق دی جس پر رسول اللہ ﷺ راضی ہیں۔

اس واقعہ سے صاف معلوم ہو گیا کہ تشریعِ اسلامی کی بنیادوں میں ایک اہم بنیاد ادلہ سمعیہ کی روشنی میں قیاس اور اجتہاد بھی ہے، جس کی جناب رسول اللہ ﷺ نے بھی تحسین فرمائی ہے۔ اس طریقہ علم کا انکار کرنا سوائے ضد اور عناد کے کسی اور امر پر محمل نہیں کیا جاسکتا۔

### دورِ صحابہ ﷺ

خیر القرون (دورِ صحابہ ﷺ) میں بھی انہی اصول تشریع سے احکامات کے استنباط کا پتہ چلتا ہے۔

(۱) ایک مرتبہ حضرت عمر ﷺ نے شراب پینے والے کی حد کے بارے میں حضراتِ صحابہ ﷺ سے مشورہ کیا، تو حضرت علیؓ نے حد قذف پر قیاس کرتے ہوئے فرمایا کہ: ”اسے اسی کوڑے لگائے جائیں“، امام مالکؓ اپنی مؤطامیں نقل فرماتے ہیں:

حضرت عمر ابن الخطاب ﷺ نے مشورہ لیا شراب کے بارے میں کہ اگر کوئی شخص اسے پی لے (تو اس کے لئے کیا حکم ہے) اس پر حضرت علیؓ کرم اللہ وجہہ نے رائے پیش کی کہ میرے خیال میں اسے اسی کوڑے ماریں، اس لئے کہ جب وہ شراب پੇ گا تو اسے نشہ آئے گا تو وہ بکواسکرے گا، بکواس کرے گا تو کسی پر بہتان لگائے گا، اور بہتان کی سزا جب کہ وہ زنا سے متعلق ہو اسی کوڑے ہیں، چنانچہ حضرت عمر ﷺ نے شراب پینے والے پر اسی کوڑے کی سزا جاری کی۔

إن عمر بن الخطاب ﷺ استشار في الخمر يشربها الرجل فقال له علی بن ابی طالب ﷺ نرى أن تجلده ثمانيين فإنه إذا شرب أسكر وإذا أسكر هدا وإذا هدا افترى أو كما قال، فجلده عمر ﷺ في الخمر ثمانيين.

(مؤطا امام مالک ۳۵۷)

چنان چہ خفیہ اور جمہور علماء کا مذہب بھی شراب کی حد کے بارے میں اسی کوڑے کا ہے۔

(بدایۃ الجہد، ۳۳۲/۲، ہدایہ ۵۲۸)

(۲) حضرت عمر رضی اللہ عنہ بتداء میں اس مسئلہ میں متعدد تھے کہ اگر چند لوگ مل کر کسی کو قتل کر دیں تو سب سے قصاص لیا جائے گا یا نہیں؟ تو حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے مشورہ دیا کہ جس طرح کئی چور اگر مل کر چوری کریں تو سب کا ہاتھ کاٹا جاتا ہے اسی طرح قاتلوں کے ساتھ بھی یہی معاملہ ہونا چاہئے، حضرت عمر رضی اللہ عنہ یہ سن کر مطمئن ہو گئے۔ یہ واقعہ قیاس کے ذریعہ حکم کے تعین کی کھلی مثال ہے۔ (چپی علی التوضیح ۳۶)

ان کے علاوہ بھی تنقیح سے دور صحابہ رضی اللہ عنہم میں قیاس کے شائع وذائع ہونے کی مثالیں مل سکتی ہیں، وہ حضرات دیانت داری کے ساتھ قرآن و سنت کی روشنی میں مسئلہ کا حکم معلوم کرتے اور اگر اپنی فہم کے مقابلہ میں کسی اور بہتر رائے اور دلیل کو دیکھتے تو اپنے فتویٰ سے رجوع کر لیا کرتے تھے، اس سسلہ میں ہمیں کافی روشنی درج ذیل واقعہ سے ملتی ہے۔

حضرت زید بن ارقم رضی اللہ عنہ کا یہ مسلک تھا کہ اگر طواف وداع سے قبل عورت کو حیض آنے لگے تو جب تک طواف نہ کر لے اس وقت تک اس کے لئے واپس لوٹنے کی اجازت نہیں ہے۔ اہل مدینہ حضرت زید بن ارقم رضی اللہ عنہ کے اسی فتویٰ پر عموماً عمل پیرا تھے۔ ایک مرتبہ حج کے موقع پر مکہ مکرمہ میں حضرت عبد اللہ بن عباس رضی اللہ عنہ سے اسی طرح کا مسئلہ معلوم کیا گیا، انہوں نے فتویٰ دیا کہ ایسی عورت وطن واپس ہو جائے اس پر طواف وداع نہیں ہے۔ اہل مدینہ یہ سن کر بولے کہ ہم تو حضرت زید بن ارقم رضی اللہ عنہ کے مقابلہ میں آپ کے فتویٰ کو نہ مانیں گے، حضرت عبد اللہ بن عباس رضی اللہ عنہ نے ارشاد فرمایا کہ: اچھا جب مدینہ پہنچو تو جانے والوں سے مسئلہ کی تحقیق کر لینا، وہ حضرات واپس آئے اور حضرت ام سليم رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے تحقیق کی، انہوں نے طواف وداع سے قبل ام المؤمنین حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے ایام شروع ہونے کا واقعہ سنایا جس سے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ کے قول کی تائید ہوتی تھی، چنان چہ جب اس کا علم حضرت زید بن ارقم رضی اللہ عنہ کو ہوا تو انہوں نے اپنی

رائے سے رجوع کر لیا۔ یہ واقعہ صحیح بخاری شریف میں باہی الفاظ ذکر کیا گیا ہے:

اہل مدینہ نے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے پوچھا کہ اگر عورت طواف زیارت کرنے کے بعد حضن میں بتلا ہو جائے (اور طواف وداع نہ کیا ہو) تو کیا کرے؟ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ وہ واپس لوٹ جائے، (یعنی اس پر طواف وداع ضروری نہیں ہے) یہ سن کر اہل مدینہ نے کہا: ہم حضرت زید بن ارقم رضی اللہ عنہ کے قول کو چھوڑ کر آپ کی رائے نہ مانیں گے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ نے فرمایا جب تم مدینہ جاؤ تو اس بارے میں تحقیق کر لینا، چنانچہ اہل مدینہ نے مدینہ پہنچ کر تحقیق کی، جن لوگوں سے تحقیق کی ان میں حضرت ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہا بھی تھیں، تو انہوں نے جواب میں حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے حیض آنے کا واقعہ بیان کیا۔

اور حضرت زید بن ارقم رضی اللہ عنہ کا رجوع مسلم شریف ۱/۲۷ کی روایت سے واضح ہوتا ہے۔ تو معلوم ہو گیا کہ حضرات صحابہ رضی اللہ عنہم کے زمانہ میں بھی قیاس واستنباط اور ایک دوسرے کی رائے کی تقلید کاررواج تھا، اس لئے کہ مذکورہ تحقیق سے قبل اہل مدینہ حضرت زید بن ارقم رضی اللہ عنہ کی رائے کے پابند تھے، یہی تو تقلید ہے۔

## بعد کا زمانہ

دوسرا صحابہ رضی اللہ عنہ کے بعد علوم کی تدوین کا دور شروع ہوا، مسائل کی کثرت ہو گئی، اسلام کا پیغام

إن أهل المدينة سألاً ابن عباس رضي الله عنه  
عن إمرأة طافت ثم حاضت قال  
لهم: تنفر قالوا: لأنأخذ بقولك  
وندع قول زيد رضي الله عنه قال: إذا  
قدمتم المدينة فاستلوا فدكموا  
المدينة فسألوا فكان فيمن  
سألوا أم سليم رضي الله تعالى  
عنها فذكرت حديث صفية  
رضي الله تعالى عنها. (بخارى

شریف (۲۳۷/۱)

عرب و عجم تک پہنچ گیا، جگہ جگہ اور قدم قدم پر احکام و مسائل بیان کرنے کی ضرورت پیش آئے۔ تدوین کے مرحلہ میں اس مشکل کا بھی احساس کیا گیا کہ بعض بعض مسائل میں نصوص متعارض ہیں، اور سطحی نظر میں وہ تعارض دونہیں ہو پاتا، اگر اس ظاہری تعارض کو ویسے ہی چھوڑ دیا جاتا تو پوری ملت فتنہ و انتشار میں مبتلا ہو جاتی، چنانچہ اللہ رب العزت نے دین کی حفاظت کے لئے جہاں محدثین کی اس جماعت کو وجود بخشا، جنہوں نے نہایت حزم و احتیاط کے ساتھ کمزور اور ضعیف احادیث کو صحیح سے ممتاز اور جدا کر دیا، ہی معانی حدیث کے ماہرا یسے فقہاء بھی پیدا فرمائے جنہوں نے اپنی زندگیاں احکام شریعت کے استنباط اور تعارض نصوص کو ختم کرنے میں لگادیں، حتیٰ کہ جماعت محدثین بھی یہ کہنے پر مجبور ہوئی کہ: الفقهاء وهم أعلم بمعانی الحديث۔ (ترمذی شریف ۱۶۳) یعنی فقہاء ہی دراصل معانی حدیث کو سمجھنے والے ہیں۔

اس معنی کر حضرات فقہاء کا وجود امت کے لئے ایک بنیادی دینی ضرورت کی حیثیت رکھتا تھا، کیوں کہ ضرورت تھی کہ استنباط احکام کا کام ایسے باصلاحیت افراد انجام دیں جو واقعی صحیح معنی تک رسائی کی الہیت رکھتے ہوں، اور منشاء ایزدی کی تیکیل کرنے والے ہوں۔

## اختلاف فقہاء

حضرات فقہاء کے کام کو اگر تقسیم کیا جائے تو وہ دو عنوانوں میں سامنے آتا ہے:

(۱) محل، محتمل اور متعارض نصوص کے معنی کی تعین: اس سلسلہ میں فقہاء اپنے اپنے اصول الگ متعین کرتے ہیں، کوئی ترجیح کوفیقت دیتا ہے، اور کسی کے نزدیک تطیق کو اعلیٰ مقام حاصل ہوتا ہے، کوئی روایہ کی فقاہت و عدم فقاہت پر مدارکھاتا ہے تو کوئی کسی خاص شہر کے اہل علم کی تقلید کرتا ہے۔ سوچنے کا یہ جدا گانہ ڈھنگ، اختلاف فقہاء کا بڑا سبب ہے۔

(۲) احکام منصوصہ سے علتوں کی تحقیق، تخریج اور تنقیح: جسے اصول کی اصطلاح میں تحقیق مناط، تخریج مناط اور تنقیح مناط کے ناموں سے تعبیر کرتے ہیں۔ تحقیقِ مناط کا مطلب یہ ہے کہ نص میں واردِ علت کے بارے میں یہ طے کرنا کہ وہ کہاں کہاں پائی جا رہی ہے اور کہاں نہیں پائی

جاری۔ اور تخریج مناطق سے مراد یہ ہے کہ غیر معلوم نص کی علت متعین کرنا تاکہ اس کا حکم غیر مخصوص تک متعدد کیا جائے، جب کہ تتفیح مناطق کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ حکم مخصوص کی کئی محتمل علتوں میں سے کسی ایک کو متعین کرنا (۱)۔ (مقدمہ فتاویٰ تاتار خانیہ ۲۳)

یہ کام چوں کہ سراسرا جتہاد پرمنی ہے اس لئے اس ذمہ داری کو انجام دیتے وقت بھی حضرات فقهاء میں سخت اختلاف رونما ہوا، اور جزوی احکامات میں بہت زیادہ فرق ہو گیا۔  
حضرات فقهاء کا یہ اختلاف دراصل رحمت خداوندی ہے، اور بظاہر اس کی حکمت یہ ہے کہ  
نص کے ہر پہلو پر عمل کی راہ کسی نہ کسی ذریعہ سے نکل آئے۔

## ائمہ اربعہ

دورِ صحابہ ﷺ و تابعین میں اگرچہ بہت سے فقهاء پائے جاتے تھے، مدینہ میں فقهاء سبعہ،  
مکہ میں ابن جریرؓ، بصرہ میں حسن بصریؓ، کوفہ میں ابراہیم نجفیؓ، سفیان ثوریؓ، اسی طرح شام میں امام اوزاعیؓ وغیرہ یہ حضرات اپنے زمانہ میں اپنی جگہ مرجع کی حیثیت رکھتے تھے، اور موقع بمو قع اپنی  
فقہی آراء کا اظہار کرتے تھے، مگر مسائل کی باقاعدہ مذوین اور ابواب فقہیہ کی جامعیت کے  
اعتبار سے جو کام حضراتِ ائمہ اربعہ: امام ابوحنیفہ، امام مالکؓ، امام شافعیؓ اور امام احمد ابن حنبلؓ کے

(۱) تحقیق مناطق کی مثال: حدیث میں فرمایا گیا من مُأْكَلْ مِنْ هَذِهِ الشَّجَرَةِ الْمُنْتَهَى فَلَا يَقْرَبُنَ مَسْجِدَنَا فَإِنَّ الْمُلْكَةَ تَأْذِي مَمَّا يَتَأْذِي مِنْهُ إِنَّسٌ۔ (مسلم شریف ۲۰۹) یعنی ہنس، پیاز کا کر مسجد میں نہ آؤ، کیوں کہ وہ ملکہ کے لئے بھی اسی طرح اذیت کا باعث ہے جیسے انسانوں کے لئے، اب علتِ حرمت یہاں نص میں موجود ہے، لہذا جہاں بھی اذی پائی جائے گی یہی حرمت کا حکم ہو گا، مثلاً بیڑی وغیرہ کی بدبو۔

تخریج مناطق کی مثال: بڑا کے بارے میں چھپڑوں کا حکم بیان کیا گیا، یہ معلوم ہے اس سے علت کی تخریج میں فقهاء کا اختلاف ہو گیا، حنفیہ نے قدر مع الجنس، شافعیہ نے طعم و ثمنیت اور مالکیہ نے اقتیات و دخار وغیرہ کی الگ الگ علتنیں نکالیں۔ (مسلم انبوی ۲۳)

تفیح مناطق کی مثال: ایک اعرابی نے رمضان کے روزے کے دوران یوں سے جماع کر لیا تو آخرست ﷺ نے اسے کفارہ ادا کرنے کا حکم دیا، اب اس حکم کی کئی علتنیں ہو سکتی ہیں، اعرابی ہونا، یوں سے جماع کرنا، رمضان میں ایسا کرنا، اس کا قصد اروزہ توڑ دینا، تو احتاف و موالک نے افطار کی علت متعین کی، جب کہ شوافع و حنابلہ نے قصد ایوی سے جماع کی علت متعین فرمائی۔ (مقدمہ تاتار خانیہ ۲۳)

ذریعہ انجام پایا اس کی نظریہ دوسری جگہ نہیں ملتی، دوسرے حضرات بھی اگرچہ مجتہد تھے مگر ان کے مذہب میں اتنی جامعیت نہیں پائی جاتی تھی کہ وہ ایک عام آدمی کی زندگی کے لئے پورے طور پر رہنمائی کا سامان بن سکے۔

حضرت امام ابوحنیفہؓ نے تخریج و استنباط اور مسائل کی تحقیق و تنقید کے لئے باقاعدہ علماء کے ایک وسیع انظر بورڈ کی تشکیل کی تھی جو پورے حزم و احتیاط کے ساتھ مسائل حاضرہ کے حل کا فریضہ انجام دیتا تھا، اسی طرح امام مالکؓ نے موطا لکھ کر قوم کو ایک نئی راہ دکھائی تھی اور علوم سلف کو محفوظ کر دیا تھا، اور امام شافعیؓ نے ”کتاب الام“، تصنیف فرمادی توین فقہ و اصول کا بنیادی پتھر نصب فرمایا تھا۔ الغرض ہر باب کے مسائل پر واقعۃ تدوینی انداز کا کام انہی ائمہ اربعہ کے ذریعہ سامنے آیا، اور دیگر حضرات مجتہدین کے مذاہب تیسری صدی ہجری کے بعد گویا کہ عملی طور پر ناپید ہو گئے، صرف ائمہ اربعہ کے مذاہب ہی کی حفاظت ہو سکی۔ (مستفاد: فتاویٰ محمودیہ ۳۸۲، عقود ۳۲۱، احسن الفتاویٰ ۱، انجمن ۸۲ اورغیرہ)

## عمل کے لئے مستقل راہ

ظاہر ہے کہ انسان کو بے کار نہیں چھوڑا جاسکتا کہ محض عدم علم کی وجہ سے اسے شریعت کی قید سے آزاد کر دیا جائے، بلکہ ہر مسلمان شریعت کے اتباع کا پابند ہے، اور قرآن و سنت کی ہدایات پر عمل کرنا اس کے لئے لازم ہے، اب اگر وہ خود براہ راست قرآن و سنت سے استفادہ کی واقعی صلاحیت رکھتا ہے تو خود مسئلہ کا حکم اپنی استعداد سے معلوم کرے، یعنی اصول شریعت کے مطابق اپنے اجتہاد سے کام لے، اور اگر اس میں خود استنباط و تخریج احکام کی الیت نہیں ہے تو اس پر لازم ہے کہ وہ اس مقصد کے لئے کسی اہل کی طرف رجوع کرے، قرآن کریم میں ہدایت دی گئی:

فَاسْأَلُوا أَهْلَ الدِّينَ إِنْ كُنْتُمْ لَا  
تَعْلَمُونَ۔ (سورة الأنبياء ۷)

پوچھ گچھ کر کے عمل کی راہ متعین کرنے ہی کو تقلید کے نام سے تعبیر کرتے ہیں۔

## تقلید کے اصطلاحی معنی

دلیل جانے بغیر کسی شخص کی پیروی کرنا اصطلاح میں تقلید کہلاتا ہے، علامہ شامی فرماتے ہیں:

غیر کے قول کو دلیل جانے بغیر اختیار کر لینے کا نام

التقلید هوأخذ قول الغير بغير معرفة

تقلید ہے۔

دلیلہ۔ (شرح عقود رسم المفتی ۷۴)

اوْرَبْجِم لغة الفقهاء میں لکھا ہے:

عالم کی تقلید کا مطلب یہ ہے کہ اس کی اصابت  
رائے کا اعتقاد رکھتے ہوئے دلیل کی طرف نظر

تقلید العالم اتباعہ معتقداً  
اُصابتہ من غیر نظر فی الدلیل۔

کئے بغیر اس کی پیروی کی جائے۔

(معجم لغة الفقهاء ۱۴۱)

گویا کہ ہم اپنے اسلاف سے حسن ظن کی بنا پر یہ بھروسہ کریں کہ انہوں نے جو کچھ قرآن  
و سنت سے سمجھا ہے وہ حق اور قبل اتباع ہے، اور عام آدمی کے لئے اس کے علاوہ کوئی چارہ کا بھی  
نہیں ہے، اور نہ اس کے بغیر وہ گمراہی سے محفوظ رہ سکتا ہے اس لئے تقلید مذہب کی بنیادی ضرورت  
ہے ورنہ دین کھلوٹ بن کر رہ جائے گا۔ اور ارشاد نبوی ﷺ:

من قال فی القرآن برأیہ فلیتبوأ مقعدہ  
جو شخص قرآن کریم کے بارے میں اپنی رائے  
سے کچھ کہے تو وہ اپنا ٹھکانا جہنم میں بنالے۔

من النار۔ (ترمذی شریف ۱۲۳۲)

جیسی وعید کے کوئی معنی نہیں رہ جائیں گے، اسی لئے ابتداء ہی سے امت میں تقلید کا رواج

رہا ہے۔

## تقلید مطلق یا مقتید ؟

مگر فرق یہ تھا کہ ابتدائی دور میں دیانت و امانت میں زیادتی کی وجہ سے تقلید مطلق میں بھی  
حرج نہ تھا، یعنی بلا کسی قید کے جس عالم اور مجتہد سے چاہتے مسئلہ معلوم کر کے اس پر عمل کر لیتے اور  
کسی ایک متعین شخص ہی کی پیروی نہ کی جاتی۔ چنانچہ دور صحابہ رضی اللہ عنہم و تابعین میں اکثر ایسے ہی

واقعات ملتے ہیں۔ (اعلاء السنن ۳۲۳ مقدمہ فی قواعد الفقہ)

لیکن بعد میں جب امانت و دیانت کا نقد ان ہو گیا اور اتباع ہوا و خواہشات کا دور دورہ ہوا اور یہ اندیشہ ہونے لگا کہ تقید مطلق کی آڑ میں دین کا مذاق اڑایا جائے گا اور احکام شریعت کو کھلونا بنالیا جائے گا، تو امت کے معتبر افراد نے معاملہ کی سُنگینی اور نزدیکت کا احساس کرتے ہوئے تقید شخصی یعنی تقید مقید کے وجوب کا فیصلہ کیا، تاکہ فتنہ کے دروازہ کو بند کیا جاسکے۔ اس کی مثال بالکل ایسی ہی ہے جیسے حضرت عثمان غنیؓ نے فتنہ کے اندیشہ سے قرآن کریم کے مختلف لغات کے نسخوں کو ختم کر کے لغت قریش پر مبنی مصحف کو باقی رکھنے کا فیصلہ فرمایا تھا، اور امت کے سبھی افراد نے آپ کے فیصلہ کو تسلیم کر لیا تھا۔ (اس کی پوری تفصیل مشکوٰۃ شریف ۱۹۳/۱۹۴ وغیرہ میں موجود ہے)

## مذاہبِ اربعہ میں اختصار

اب یہ سوال پیش نظر تھا کہ تقید شخصی کس کی کی جائے؟ تو تجربہ اور تحقیق سے امت اس امر پر متفق ہوئی کہ جامعیت اور مدویں کے اعتبار سے حضرات ائمہ اربعہ کے مذاہب سے زیادہ کوئی مسلک اس ضرورت کو پورا نہیں کر سکتا اس لئے چوتھی صدی میں اس بات پر اجماع ہو گیا ہے کہ ائمہ اربعہ کے علاوہ کسی کی تقید شخصی باضابطہ نہیں کی جائے گی۔ حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلویؒ ارشاد فرماتے ہیں:

یہ چاروں مذاہب جو دون و مرتب ہیں ان کی  
تقید پر آج تک امت کے معتبر افراد کا اتفاق چلا  
آرہا ہے، اور اس میں جو مصالح ہیں وہ مخفی نہیں،  
خاص کر اس زمانہ میں جب کہ لوگوں کی ہمتیں  
کوتاہ ہو گئی ہیں اور خواہش نفس لوگوں کے قلوب  
میں جانگزیں ہو چکی ہے اور اپنی رائے کوہی اچھی  
سمجھنے کا دور دورہ ہے۔

إِن هَذِهِ الْمَذَاهِبُ الْأَرْبَعَةُ  
الْمَدُونَةُ الْمَحْرُرَةُ قَدْ اجْتَمَعَتْ  
الْأُمَّةُ أَوْ مَنْ يَعْتَدُ مِنْهَا عَلَىٰ جُوازِ  
تَقْلِيدهَا إِلَىٰ يَوْمِنَا هَذَا، وَفِي  
ذَلِكَ مِنَ الْمَصَالِحِ مَا لَا يَخْفِي  
لَا يَسِمَّا فِي هَذِهِ الْأَيَّامِ التِّي  
قَصَرَتْ فِيهَا الْهَمَّ جَدًا  
وَأَشْرَبَتِ النُّفُوسَ الْهَوَىٰ

وأعجب كل ذي رأى برأيه.

(حجۃ اللہ البالغہ ۱۵۴۱)

اور عقد ابجید میں تحریر فرماتے ہیں:

اور جب ان چار مذاہب کے علاوہ سبھی مذاہب  
حقہ کا عدم ہو گئے تو اب انہی کا اتباع سوادِ عظم کا  
اتباع کھلائے گا اور ان چار مذہبوں سے خروج  
سوادِ عظم کے مذہب سے خروج کھلائے گا۔

ولما اندرست المذاهب الحقة  
إِلَّا هذه الأربعة كان اتباعها  
اتباعاً للسوداد الأعظم والخروج  
عنها خروجاً من السوداد  
الأعظم۔ (عقد الحيد ۳۸)

اور حقیقت میں امتِ محمدیہ علی صاحبہا الصلاۃ والسلام پر یہ اللہ رب العزت کا بڑا فضل و انعام  
ہے کہ اس نے مذاہب اربعہ کی شکل میں ہمارے لئے عمل کی ایسی راہیں معین کر دی ہیں جو ہر قسم کے  
انتشار سے پاک اور دول جمعی اور سکون قلبی کے ساتھ ہر طرح کے احکامات بجالانے کا سرچشمہ ہیں۔  
ملاجیوں فرماتے ہیں:

اور انصاف کی بات یہ ہے کہ مذاہب اربعہ پر  
انحصر اللہ کا عظیم فضل ہے، اور عند اللہ ان کے  
مقبول ہونے کی ایسی نشانی ہے جس میں  
توجیہات اور دلائل کی چند اس حاجت نہیں۔

الإنصاف أن انحصر المذاهب في  
الأربعة واتباعهم فضل إلهي وقبولية  
عند الله لامجال فيه التوجيهات  
والأدلة۔ (تفسیر احمدیہ ۲۹۷)

علامہ ابن حبیم فرماتے ہیں:

اسئہ اربعہ کے خلاف رائے اپنانے کے منوع  
ہونے پر اجماع منعقد ہے، اس لئے کہ ان چاروں  
کے مذاہب ہی مدون ہیں اور عوام و خواص میں  
مشہور ہیں اور ان کے پیروکاروں کی کثرت ہے۔

إن الإجماع انعقد على عدم العمل  
بمنهہ مخالف للأربعة لأن ضباط  
مذاہبهم وانتشارها و كثرة اتباعهم.

(الأشباه مطبوعہ کراچی ۱۴۳۱)

اور شیخ عبدالغنی نابلسی اپنے رسالہ "خلاصة التحقیق" میں وضاحت کرتے ہیں:

اس وقت مذاہب اربعہ کو چھوڑ کر دیگر مجتہدین کے مذہب پر عمل کی اجازت نہیں ہے، اس کی وجہ یہ نہیں ہے کہ دیگر مجتہدین کے مذہبوں میں کچھ نقصان ہے، اور مذاہب اربعہ ہی راجح ہیں اس لئے کہ ان مجتہدین میں خلفاء راشدین بھی ہیں جو تمام امت پر بھاری ہیں، بلکہ اصل وجہ ان کے مذہب کو اختیار کرنے کی یہ ہے (۱) ان کے مذاہب باقاعدہ مرتب و مدون نہیں ہو سکے۔ (۲) ہمیں آج ان مذاہب کی شرائط و قیود کا پورا علم نہیں ہے۔ (۳) اور وہ مذاہب ہم تک تو اتر کے طریقہ پر نہیں پہنچے، اگر وہ اس طریقہ پر ہم تک پہنچتے تو ہمارے لئے ان کی تقیید کرنا جائز ہوتا، مگر ایسا نہیں ہوا۔

آگے چل کر علامہ مناویؒ سے نقل کرتے ہیں:

الہذا قضاۓ و افتاء میں مذاہب اربعہ کے علاوہ کسی امام کی پیروی منوع قرار دی جائے گی، اس لئے کہکہ مذاہب اربعہ مشہور و معروف ہو چکے ہیں، حتیٰ کہ ان کے مطلق احکامات کی قیدیں اور عام امور کی تخصیص وغیرہ کا علم ہو گیا ہے، ان کے برخلاف دیگر مذہبوں کی اس طرح وضاحت نہیں

وأما تقلید مذهب من مذاهبيهم  
الآن غير المذاهب الأربعه فلا  
يجوز لا لنقصان فى مذاهبيهم  
ورجحان المذاهب الأربعه  
عليهم لأن فيهم الخلفاء  
المفضليين على جميع الأمة بل  
لعدم تدوين مذاهبيهم وعدم  
معرفتنا الآن بشروطها وقيودها  
وعدم وصول ذلك إلينا بطريق  
التواتر حتى لو وصل إلينا شيء  
من ذلك كذلك جاز لنا  
تقلidente لكنه لم يصل كذلك.

فيمتنع تقليد غير الأربعه في  
القضاء والافتاء لأن المذاهب  
ال الأربعه انتشرت وظهرت حتى  
ظهر تقييد مطلقها وتخصيص  
عامها بخلاف غيرهم لانفرض  
اتبعاهem. (خلاصة التحقیق - ۳)

ہو سکی، کیوں کہ ان کے پیر و کارنا پید ہو چکے ہیں۔

ان حوالہ جات سے معلوم ہو گیا کہ مذاہب اربعہ پر عمل کا انحصار ایک اجتماعی مسئلہ ہے، اور دین کی صحیح شکل و صورت میں حفاظت کا بڑا اور اہم وسیلہ ہے۔

## تعین ضروری ہے

یہاں یہ مطلب نہ سمجھا جائے کہ جب انہے اربعہ میں انحصار ہو گیا تو ان میں سے جس مسلک پر جب چاہیں علم کر لیں، بلکہ ان چاروں مذاہب میں عمل کے لئے کسی ایک مذہب کو متعین و مقرر کرنا ضروری ہے ورنہ پھر وہی فساد رونما ہو گا جو تقلید مطلق کی صورت میں پیدا ہو سکتا ہے۔ علامہ نوویؒ نے مذہب متعین کی تقلید ضروری ہونے پر اس طرح روشنی ڈالی ہے:

اور اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر جس مذہب کی چاہے اتباع کی اجازت دی جائے تو اس کا انجام یہ ہو گا کہ ہوائے نفس کی پیروی کرتے ہوئے مذاہب کی رخصتوں کو چنا جائے گا اور حلال و حرام، واجب و جواز کے درمیان عمل کا اختیار دیا جائے گا، جس کا نتیجہ بالآخر شرعی تکلیف کا چولا اتار پھینکنے کی صورت میں نمودار ہو گا۔ برخلاف دور اول (خیر القرون) کے کہ اس زمانہ میں وہ مذاہب جن میں سبھی مسائل کا حل ہو مہذب و مرتب نہیں تھے، اس اعتبار سے آج مقلد پر لازم ہے کہ وہ ایک متعین مذہب کی اتباع میں اپنی پوری کوشش صرف کر دے۔

ووجهہ اُنه لو جاز اتباع اُی مذهب شاء لافضی إلى أن يلتقط رخص المذاهب متبعاً هواه ويتخير بين التحليل والتحرير والوجوب والجواز وذلك يؤدى إلى إضلال رقبة التكليف بخلاف العصر الأول فإنه لم تكن المذاهب الواقية بأحكام مهذبة فعلیٰ هندا يلزمها أن يجتهد في اختيار مذهب يقلده على التعين. (شرح المذهب

## نفسانیت کی اجازت نہیں

اگر ہر کس و ناکس کو تقلید شخصی سے آزاد کر کے یہ چھوٹ دی جائے کہ اپنی مرضی سے مذاہب اربعہ میں جو قول پسند ہوا سے اختیار کرے، تو دین میں رخصتوں پر عمل پیرا ہونے اور نفسانی خواہشات کی اتباع کا ایسا دروازہ کھلے گا کہ شریعت مذاق بن کر رہ جائے گی، اس لئے جب آدمی کسی مذہب سے وابستہ ہو جائے تو خواہ مخواہ اسے مذہب کو ترک کرنے کا اختیار نہیں دیا جاسکتا، شرح عقود رسم المفتی میں ہے:

مطلق اختيار: يعني جس وقت چاہے جس قول کو چاہے اختیار کرنے کی ممانعت پر اجماع ہو چکا ہے۔

الف: إن الإجماع على منع إطلاق التخيير أى بأن يختار ويشتهى مهما أراد من الأقوال في أى وقت أراد. (ص: ۱۰۱)

فیصلہ کرنے اور فتویٰ دینے میں ہوائے نفس کی پیروی اجماعاً حرام ہے۔

علامہ قرافی کے کلام سے پتہ چلتا ہے کہ مجتهد یا مقلد کسی کے لئے بھی غیر راجح پر فتویٰ اور فیصلہ دینا حلال نہیں ہے، اس لئے کہ یہ خواہش نفس کی پیروی ہے جو بالا جماعت حرام ہے۔

ب: وأما إتباع الهوى في الحكم والفتيا حرام إجماعاً. (ص: ۱۰۴)  
ج: وكلام القرافي دال على أن المجتهد والمقلد لا يحل لهم الحكم والافتاء بغير الراجح لأنه اتباع للهوى وهو حرام إجماعاً. (ص: ۲۷)

اور شیخ عبدالغنی نابلسیؒ نے لکھا ہے:

علامہ ابن الہمامؓ نے فرمایا کہ اجتہادی مسئلہ میں مقلد کے لئے وہی حکم ہے جو مجتهد کے لئے ہیں، یعنی جب مجتهد کی کسی مسئلہ میں دور نہیں ہوں اور

قال ابن الہمام حکم المقلد في المسئلة الاجتہادية كالمجتهد فإنہ إذا كان له رأيین في مسئلة

وہ ان میں سے ایک پر عمل کر لے تو جس پر عمل کیا ہے وہ رائے متعین ہو جاتی ہے، لہذا اس رائے سے اس وقت تک رجوع نہیں کر سکتا جب تک دوسری رائے کی ترجیح سامنے نہ آجائے، اسی طرح مقلد نے جب ایک مذہب کے حکم پر عمل کر لیا تو دوسری حکم دوسرے مذہب کا اختیار نہیں کرے گا۔

الغرض جب کسی شخص نے کسی ایک امام کا دامن تحام لیا تو اب بلاعذر یا بلا ضرورت محض اپنی طبیعت چاہئے کی بنیاد پر دوسرے امام کے مذہب کو اختیار نہیں کیا جائے گا۔

## الامان، الحفظ!

حتیٰ کہ علامہ شامیؒ نے فتاویٰ تاتار خانیہ کے حوالہ سے یہ واقعہ لکھا ہے کہ ایک حنفی شخص نے کسی صاحب حدیث کی لڑکی کو نکاح کا پیغام دیا، اس صاحب حدیث نے جواب دیا کہ جب تک تم اپنے حنفی مذہب کو چھوڑ کر ہمارے مذہب کے مطابق فاتحہ غلف الامام اور رفع یدین وغیرہ پر عمل پیرا نہ ہو گے، میں اپنی بچی تمہارے نکاح میں نہ دوں گا۔ حنفی نے ان شرائط کو مان لیا اور محض نکاح کی خاطر حنفیت چھوڑ کر صاحب حدیث کے زمرہ میں شامل ہو گیا۔ اس واقعہ کی خبر جب شیخ ابو بکر جوز جائی کو پہنچی تو انہوں نے سر جھکایا اور فرمایا کہ نکاح تو خیر درست ہو گیا لیکن مجھے خطرہ ہے کہ آخری وقت میں اس کا ایمان نہ جاتا رہے، اس لئے کہ اس نے اپنے اس مذہب کا استخفاف کیا ہے جسے وہ حق سمجھے ہوئے تھا، اور اس نے محض ایک بد بودا دنیا کے مردار کے حصول کی غرض سے اسے ترک کر دیا ہے۔ (شامی کراچی ۲۰۰۷ء)

اسی بنا پر حضراتِ فقہاءؓ نے فرمایا ہے:

ارتحل إلى مذهب الشافعى  
مذهب شافعی کی طرف خواہ تجوہ جو شخص منتقل  
ہو جائے اس کو سزا دی جائے گی (اس لئے کہ  
يعزز. (در مختار ۴، ۸۰۱۴، شامی زکریا

و عمل بأحد هما يتعين ما عمل به  
وأمضاه بالعمل فلا يرجع عنه إلى  
غيره إلا بترجح ذلك الغير  
الآن، فالملقب إذا عمل بحكم من  
منذه لا يرجع إلى آخر من  
منذه آخر. (خلاصة التحقيق ۵)

عموماً ایسا کرنا ہوائے نفس کی بنا پر ہوتا ہے)

اسی طرح علامہ شامی نے ”منخ“ سے نقل کرتے ہوئے لکھا ہے:

عقیدہ میں لاابالی پن اور دنیوی غرض کے حصول کے لئے کیف ماتفاق اور حسب طبیعت ایک مذہب سے دوسرے مذہب کی طرف منتقل ہونے کی جرأت اور جسارت کی وجہ سے جو شخص دوسرا مذہب اختیار کر لے اس کی گواہی قبول نہیں کی جائے گی۔

وإن انتقل إلية لقلة مبالاته في الاعتقاد والجرأة على الانتقال من مذهب إلى مذهب كما يتفق له ويميل طبعه إليه لغرض يحصل له فإنه لا تقبل شهادته. (شامی ۴۸۱۵)

کتاب الشہادات، شامی زکریا (۲۰۰۱۸)

حاصل یہ کہ یہ کوئی کھیل تماشہ نہیں کہ جب چاہیں جس کا قول لے کر عمل کر لیں، بلکہ مذاہب اربعہ میں سے کسی ایک معین مذہب سے وابستہ ہو کر عمل کرنا پڑے گا، اور اس کے خلاف بلا کسی داعیہ شرعیہ کے عمل کرنا دیانت و ثقاہت کے خلاف ہو گا۔

## ناگزیر صورت حال

تاہم یہاں اس حقیقت سے بھی صرف نظر نہیں کیا جا سکتا کہ کبھی کبھی ایسی ناگزیر صورت حال سامنے آتی ہے کہ اپنے مذہب کو ترک کئے بغیر چارہ کار بھی نہیں ہوتا، یہ صورت حال کبھی تو خود مذہب سے خروج کرنے والے کی اجتہادی صلاحیت کی بنا پر پیش آتی ہے، اور کبھی اس کے مقاضی دیگر امور (ضرورت وغیرہ) بھی ہوتے ہیں۔ اب سوال یہ ہے کہ ایسے وقت میں شریعت کی جانب سے دوسرے مذہب کو اختیار کرنے کی گنجائش ہے یا نہیں؟ اگر ہے تو مطلق ہے یا اس میں کچھ قیودات ہیں۔ ظاہر ہے کہ مطلق اجازت نہیں دی جا سکتی، ورنہ پھر تقلید کے کوئی معنی ہی نہ رہیں گے، لہذا قیودات کے ساتھ اجازت دی جائے گی اور اس میں خاص طور پر تین باتوں کا خیال رکھا جائے گا۔

(۱) خروج کرنے والے کی فقہی صلاحیت۔

(۲) خروج کرنے کا مقصد۔

(۳) جس مسئلہ کی طرف خروج کیا جا رہا ہے اس کے بارے میں یہ تحقیق کہ اس سے کوئی خلاف اجماع امر تو لازم نہیں آ رہا ہے؟

اگر ان تینوں امور کی تتفقح کردی جائے تو افقاء بمنہذہب الغیر کی بحث کافی حد تک سست سکتی ہے۔

## ○ بحث: اہلیت

اہلیت کی بحث کو سمجھنے کے لئے فقهاء کے مشہور طبقات کا جان لینا ضروری ہے، علامہ ابن حکیم پاشا نے نقل کرتے ہوئے علامہ شامی تخریج فرماتے ہیں کہ فقهاء کے مشہور سات طبقات ہیں:

(۱) مجتهدین فی الشریعہ / مجتهد مطلق: جو اولہ اربعہ سے اصول و فروع کا استنباط کرتے ہیں، جیسے: ائمہ اربعہ۔

(۲) مجتهدین فی المذہب / مجتهد منتب: جو اکثر اصول میں کسی امام کے قیمع اور جزویات میں مجتهد ہوتے ہیں، جیسے: امام ابوحنیفہؓ کے شاگردوں میں امام ابو یوسفؓ، امام محمدؓ وغیرہ۔

(۳) مجتهدین فی المسائل: جو اصول و فروع میں اپنے امام کے پوری طرح پابند ہوتے ہیں، مگر غیر منصوص مسائل کا حکم منصوص کی روشنی میں تعین کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں، جیسے: امام خصفؓ، امام طحاویؓ وغیرہ۔

(۴) اصحاب تخریج: جن کا کام مذہب کے مجمل اقوال کی تفصیل اور محتمل اقوال میں سے ایک معنی کی تعین ہوتا ہے، جیسے: ابو بکر رازیؓ وغیرہ۔

(۵) اصحاب ترجیح: جو متعارض روایات مذہب میں تطبیق و ترجیح کا فریضہ انجام دیتے ہیں، جیسے: امام قدوریؓ اور صاحب ہدایہؓ وغیرہ۔

(۶) اصحاب تمیز: جو مذہب کی صحیح اور ضعیف روایتوں میں فرق و امتیاز کی صلاحیت رکھتے ہیں، جیسے: اصحاب متون۔

(۷) مقلد مغض: جو گذشتہ طبقات میں سے کسی طبقہ کی صلاحیت کے حامل نہیں ہوتے، ان کا کام صرف پہلے لوگوں کے فتاویٰ کو نقل کرنے کا ہوتا ہے، جیسا کہ آج کل اکثر مفتیان کا یہی

حال ہے۔ (شامی ارے، شامی زکریا ۱۸۰-۱۷۹، شرح عقود رسم لمفتی ۲۷-۳۳ ملخساً)

واضح ہو کہ ائمہ اربعہ کے بعد امت میں کوئی ایسا مجتہد مطلق پیدا نہیں ہوا جس کے اجتہاد کو امت نے اتفاقی طور پر قبول کر لیا ہو، اور مذہب حنفی و مالکی و حنابلہ میں نویں صدی کے آس پاس تک مجتہدین فی المذہب پائے جاتے رہے۔ (النافع الکبیر للعلامہ اللکھنوی ۶)

غور کیا جائے تو اب اس طبقہ کی چند اس ضرورت بھی باقی نہیں رہی، اس لئے کہ سبھی ضروری اصول و فروع کی تدوین مکمل ہو چکی ہے، البتہ بعد کے طبقات کا وجود امت میں رہا ہے اور رہے گا۔ اور خود ضرورت بھی اس بات کی مقاضی ہے کہ یہ طبقات تا قیامت موجود ہیں، تاکہ غیر منصوص مسائل کی تخریج وغیرہ کا کام انجام دیا جاتا رہے، اس لئے یہاں یہ نہ سمجھنا چاہئے کہ طبقاتِ فقهاء کے ضمن میں جن حضرات کے نام ابطویر مثال فقهاء نے ذکر کر دئے ہیں بس وہی ان طبقات کے مصدق ہیں اور بعد میں کوئی شخص ان صفات کا حامل پیدا ہی نہیں ہو سکتا، بلکہ یہ صلاحیتیں بعد کے فقهاء و مفتیان میں بھی حسب ضرورت پائی جاسکتی ہیں اور پائی جاتی رہی ہیں۔

## طبقاتِ مجتہدین

حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلویؒ نے مجتہد کے تین طبقات بیان فرمائے ہیں جو درج ذیل ہے:

- (۱) مجتہد مطلق مستقل: یعنی وہ شخص جو فقاہت نفس، سلامتی طبیعت، بیدار مغزی، دلائل کی معرفت، استنباط کی صلاحیت اور جزئیات پر گہری نظر جیسی صفات سے متصف ہو، جیسے حضرات ائمہ اربعہ۔

- (۲) مجتہد مطلق منتب: یعنی وہ اہل اجتہاد جو ائمہ متوفیین میں سے کسی کی طرف نسبت کرتا ہو، لیکن مذہب اور دلیل میں اس کا نزام مقابله نہ ہو، بلکہ محض اجتہاد میں اس کا طریقہ اپنانے کی بناء پر مذکورہ امام کی طرف منسوب ہو، جیسے: امام ابو یوسفؓ، امام محمدؓ اور دیگر شاگردان امام ابو حنیفؓ۔

- (۳) مجتہد فی المذہب: یہ ایسا شخص ہے جو کسی امام کی تقلید کا پابند ہو، مگر ساتھ میں اپنے امام کے اصول و ضوابط کے دائرہ میں رہتے ہوئے دلیل کی روشنی میں اپنے اصول مقرر کرنے کی بھی

صلاحیت رکھتا ہو (تاکہ غیر منصوص مسائل کا حکم معلوم کرنے میں آسانی ہو، اور ضرورت وغیرہ کا حسب موقع لاحاظ رکھا جاسکے) ایسے شخص میں درج ذیل صفات پائی جانی ضروری ہیں:

الف: اپنے مذہب کے اصول کا علم رکھنے والا ہو۔

ب: احکام کے دلائل تفصیل کے ساتھ جانے والا ہو۔

ج: قیاس اور معافی کے ادراک پر اسے پوری بصیرت حاصل ہو۔

د: اور اپنے امام کے اصول و قواعد کے علم کی بنابر غیر منصوص مسائل کو منصوص پر قیاس کر کے تخریج واستنباط احکام کی مکمل اور بھرپور صلاحیت رکھنے والا ہو۔ اس طبقہ میں بہت سے علماء و فقہاء کو شامل کیا جاسکتا ہے، اور تقریباً ہر زمانہ میں کچھ نہ کچھ افراد اس صلاحیت کے موجود رہتے ہیں۔ (الانصار فی بیان سبب الاختلاف بحوالہ النافع الکبیر ۵-۶ ملحداً)

حضرت شاہ صاحبؒ کی اس وضاحت سے یہ اشکال بالکل ختم ہو جاتا ہے کہ حضرت امام ابو یوسفؓ اور امام محمد تو مجتہد مطلق کے منصب پر فائز ہیں (جیسا کہ اصول اور فقہ کی کتابوں سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ اصول و فروع دونوں میں امام صاحبؒ سے اختلاف کرتے ہیں) پھر انہیں مجتہد فی المذہب کے درجہ میں کیوں رکھا جاتا ہے؟ چنانچہ شاہ صاحبؒ نے مجتہد مطلق کے دو درجے کر کے اس مشکل کو حل فرمادیا ہے۔ (۱) دوسرے یہ کہ اس تقسیم سے یہ جھگڑا بھی ختم ہو جاتا ہے کہ کس کو اصحاب تخریج میں رکھیں اور کس کو اصحاب ترجیح میں رکھیں، اس لئے کہ فقہاء کے کام مختلف انداز کے ہیں، ایک ہی طبقہ کے فقہاء ایک جگہ ترجیح کے مقام پر فائز دکھائی دیتے ہیں تو دوسری جگہ تخریج کا کام بھی انجام دیتے ہیں، اور کہیں کہیں ان میں اجتہادی شان بھی نظر آتی ہے۔ دراصل یہ سب صلاحیت رکھنے والے حضرات حضرت شاہ صاحبؒ کی رائے میں مجتہد فی المذہب کے طبقہ میں داخل ہیں، بعض اصول کی عبارتوں سے بھی اس کی تائید ہوتی ہے۔

(۱) علامہ شامیؒ نے اس مشکل کو اس طرح حل کیا ہے: وَإِنَّ الْمُرَادَ بِالْمُجتَهِدِ فِي الْمُنْهَبِ هُمْ أَهْلُ الطَّبَقَةِ التَّالِثَةِ مِنَ الطَّبَقَاتِ الشَّالِثَةِ مِنَ الطَّبَقَاتِ السَّبْعِ الْمَارَةِ، وَإِنَّ الطَّبَقَةَ الثَّانِيَةَ وَهُمْ أَصْحَابُ الْإِمَامِ أَهْلُ اجْتِهَادِ مَطْلَقٍ إِلَّا أَنَّهُمْ قَلِيلُوهُ فِي أَغْلَبِ أَصْوَلِهِ وَقَوَاعِدِهِ بِنَاءً عَلَى أَنَّ الْمُجتَهِدَ لَهُ أَنْ يَقْلِدَ أَخْرَى۔ (شرح عقود رسم المفتی ۷۵)

## اجتہاد میں تجزیٰ

یہاں یہ بھی جان لینا چاہئے کہ اہل اصول کی اصطلاح میں ”تجزیٰ فی الاجتہاد“، یعنی بیک وقت ایک شخص میں اجتہاد و تقلید کی صلاحیت پائی جاسکتی ہے یا نہیں؟ یہ ایک معرکۃ الآراء مسئلہ رہا ہے، اور اس بارے میں راجح قول یہ ہے کہ جس مسئلہ میں مفتی مجتہد ہو اس میں اپنے اجتہاد پر عمل کرنے کا پابند ہے، اور دیگر مسائل میں وہ کسی دوسرے مجتہد کی تقلید کر سکتا ہے۔ علامہ شامی فرماتے ہیں:

تحریر میں لکھا ہے: مجتہد مطلق کے علاوہ شخص کے لئے بھی فی الجملہ تقلید لازم ہے، اگرچہ وہ بعض مسائل فقہیہ یا بعض علوم مثلاً فرانض میں مجتہد ہی کیوں نہ ہو، یہ قول اجتہاد میں تجزیٰ کی رائے پر مبنی ہے، اور یہی حق ہے۔ لہذا جن مسائل میں اسے اجتہاد کی قدرت نہیں ان میں دوسرے کی تقلید کرے گا۔

قال فی التحریر: مسئلۃ غیر المجتهد المطلق یلزمہ التقلید وإن كان مجتہداً فی بعض مسائل الفقه أو بعض العلوم كالفرائض على القول بتجزی الاجتہاد وهو الحق فيقلد غيره فيما لا يقدر عليه.

(شرح عقود رسم المفتی ۷۴)

## عدول عن المذہب کے لئے درکار صلاحیت

اب دیکھنا یہ ہے کہ اپنے مذہب کو چھوڑ کر دوسرا مذہب اختیار کرنے کے لئے کس صلاحیت کی ضرورت ہے؟ ہمیں یہاں عامی آدمی کے خروج عن المذہب کے بارے میں بحث نہیں کرنی، اس لئے کہ وہ تو شرعاً پنے مفتی کا پابند ہوتا ہے، اور اگر وہ آداب و حدود کی رعایت رکھتے ہوئے کسی واقعی ضرورت کی بنابر کسی مفتی کی رائے پر عمل کرے گا تو شرعاً اس پر دارو گیر نہ ہوگی۔ علامہ شامی نقش کرتے ہیں:

وإن كان عامياً اتبع المفتى فيه

الاتقى الأعلم.

(رسم المفتى ۶۲)

او راگر عامی ہو تو اس بارے میں جانکار اور متقنی مفتی کے فتویٰ پر عمل کرے گا۔

لہذا عامی آدمی کے خروج عن المذہب کو بحث میں نہ لاتے ہوئے ہمیں مفتیان اور ربانی افتاء کی صلاحیت کا معیار مقرر کرنا ہے۔ اگر فقہی کتابوں کا تتبع کیا جائے تو معلوم ہو گا کہ خروج عن

المذهب کا مسئلہ دراصل ”اصول پر فتویٰ دینے“ کے مسئلہ سے مشابہ ہے، کیوں کہ غیر کے مذهب پر فتویٰ یا تاویل کے رجحان کی بنا پر دینا ہوگا، یا کسی ضرورت واقعہ کے تحت یا اقدام کیا جائے گا۔ اور یہ دونوں باتیں اصول و ضوابط سے تعلق رکھتی ہیں، لہذا فقهاء نے اصول پر فتویٰ دینے کے لئے جس صلاحیت کو ضروری جانا ہے، ہماری نظر میں وہی صلاحیت واستعداد خروج کرنے والے مفتی میں پائی جانی ضروری ہوگی۔ اصول سے فتویٰ دینے کے لئے جو شرائط ہیں ان کی تفصیل علامہ شامیؒ نے علامہ ابن الہمامؓ کے حوالہ سے اس طرح نقل کی ہے:

مسئلہ: کسی مجتهد کے اصول سے تخریج کر کے (نہ کہ اصل مذهب نقل کر کے کیوں کہ وہ سب کے لئے بلا شرط جائز ہے) فتویٰ دینا غیر مجتهد کے لئے جائز ہے بشرطیکہ (۱) وہ غیر مجتهد شخص مذهب مجتهد کے مصادر و مأخذ پر مطلع ہو۔ (۲) اس میں غور و فکر کی صلاحیت ہو۔ (۳) قواعد سے جزئیات نکالنے پر قدرت ہو۔ (۴) (ایک جیسے اور ہم جنس مسائل میں) فرق و جمع کی صلاحیت ہو۔ (۵) اپنی رائے بر مناظرہ کرنے کی قوت ہو، اس طرح کہ صاحب مذهب کے مقررہ اصول سے نتئی ایسی جزئیات نکالنے کا اسے پورا ملکہ حاصل ہو گیا ہو، جن کے بارے میں صاحب مذهب سے صراحةً منقول نہیں ہے، اسی کو مجتهد فی المذهب کہتے ہیں، اور اگر اس میں یہ صفات نہیں ہیں تو اس کے لئے اصول سے جزئیات کا استنباط درست نہیں ہے۔

مسئلہ: افتاء غير المجتهد  
بمنهب مجتهد تخریجاً على  
أصوله لانقل عینه. إن كان مطلعاً  
على مبانيه أى مأخذ أحكام  
المجتهد - أهلاً للنظر فيها -  
قادراً على التفريع على قواعده -  
متمكاناً من الفرق والجمع -  
والمناظرة في ذلك - بأن يكون  
له ملكرة الاقتدار على استنباط  
أحكام الفروع المتتجدة التي  
لانقل فيها عن صاحب المنهيب  
من الأصول التي مهدها صاحب  
المنهيب وهذا المسمى  
بالمجتهد في المنهيب - جاز -  
وإلا يكن كذلك لا يجوز. (شرح

اس عبارت سے معلوم ہوا کہ مذکورہ پانچ صفات اصول پر فتویٰ دینے کے لئے مفتی میں ہونی ضروری ہیں، اور مجتهدی المذہب کی صلاحیت کا معیار بھی یہی ہے، واضح ہو کہ یہاں مجتهدی المذہب سے یا تو طبقہ ثالثہ کے مجتہدین فی المسائل مراد ہیں، یا اگر حضرت شاہ ولی اللہ صاحبؒ کی رائے کو لیا جائے تو اہل اجتہاد کا تیراطبقة مراد ہے جسے شاہ صاحبؒ نے اسی عنوان سے معنوں کیا ہے۔ البتہ علامہ شامیؒ نے مجتهدی المذہب کے ضمن میں فقهاء کے طبقات میں سے طبقہ ثالثہ، رابعہ اور خامسہ تینوں کو شامل کیا ہے، اس معنی کر کہ یہ حضرات اصول پر فتویٰ دینے کے مجاز ہیں۔ علامہ موصوف لکھتے ہیں:

اور ظاہر یہ ہے کہ اس حکم میں تیسرے، چوتھے اور پانچویں طبقہ والے بھی شریک ہیں، اور ان سے نیچے والوں کے لئے بس نقل کر دینا کافی ہے۔

والظاهر اشتراک أهل الطبقة  
الثالثة والرابعة والخامسة في  
ذلك وإن من عداهم يكتفى  
بالنقل۔ (شرح عقود رسم المفتی ۷۶)

اس عام مفہوم کے اعتبار سے جب مجتهدی المذہب کو اصول پر تحریج و استنباط کی اجازت ہے تو مذہب کے اصول و ضوابط ہی کے پیش نظر اگر اس صلاحیت کا مفتی غیر مذہب کو اختیار کرے گا تو یقیناً اس کا قول قابل اعتناء اور لائق توجہ ہو گا، اسی بات کو علامہ آدمیؒ نے احکام الاحکام میں بایں الفاظ بیان کیا ہے:

اور مختار یہ ہے کہ اگر وہ مجتهدی المذہب ہو بایں طور کہ وہ مجتهد مطلق جس کی وہ تقلید کر رہا ہے، کے مذہب کے مآخذ پر مطلع ہو اور اپنے امام کے قواعد پر جزئیات کے استنباط کی قدرت رکھتا ہو، اور فرق و جمع اور نظر و مناظرہ کی صلاحیت ہو تو اس کے لئے فتویٰ دینا جائز ہے اس لئے کہ یہ صفات اسے عامی آدمی سے ممتاز کرتی ہیں، اور اس کی

والمحترم أنه إذا كان مجتهداً في  
المذهب بحيث يكون مطلعاً على  
ما يأخذ المجتهد المطلق الذي يقلده  
وهو قادرٌ على التفريع على قواعد  
إمامه وأقواله متى متمكن من الفرق  
والجمع والنظر والمناظرة في  
ذلك، كان له الفتوى تميزاً له عن

دلیل ہر زمانہ میں اس قسم کے لوگوں کے فتویٰ  
قبول کرنے پر اجماع کا انعقاد ہے، اور اگر وہ ایسا  
نہیں ہے تو فتویٰ کی اجازت نہیں ہے۔

العامی و دلیلہ انقطاع الإجماع من  
أهل کل عصر علی قبول مثل هذا  
النوع من الفتویٰ وإن لم يكن  
كذلك لا۔ (الحکام الأحكام للأمدي

(١٦٤١) بحوالہ جواہر الفقہ

اس تفصیل سے عدول عن المذہب کے لئے مطلوب نفس الہیت کا تعین ہو گیا کہ یہ کام ہر  
ایک نہیں کر سکتا بلکہ مجتہد (یعنی)

(۱) اس میں اجتہاد فی المذہب (بمفهوم مذکور) کی صلاحیت پائی جائے۔

(۲) یا کم از کم (تجھی فی الاجتہاد کے قول کی بنا پر) مسئلہ محوث عنہا میں اس کی نظر  
اجتہادی ہو، ایسا شخص ہی اس کام کو انجام دے سکتا ہے۔

ظاہر ہے کہ اس زمانہ میں اجتہاد کی صلاحیت کا پایا جانا ناممکن نہیں تو دشوار ضرور ہے، اور  
اتباع ہوئی کی بنا پر اس بات میں نہایت احتیاط کی ضرورت ہے۔ لہذا محقق اور احوث امریہ ہے کہ  
جب تک چند مددین اور معتبر علماء کسی مسئلہ میں عدول عن المذہب پر اتفاق نہ کر لیں اس وقت تک  
عدول کی اجازت نہ دی جائے، ورنہ سخت فتنہ کا اندیشہ ہے۔ حکیم الامت حضرت اقدس مولانا  
اشرف علی تھانویؒ اس مسئلہ پر بحث کرتے ہوئے تحریر فرماتے ہیں:

”اس لئے اس زمانہ میں طمینان کی صورت یہی ہو سکتی ہے کہ کم از کم دو چار محقق علماء دین  
کسی امر میں ضرورت کو تسلیم کر کے مذہب غیر پر فتویٰ دیں، بدون اس کے اس زمانہ میں اگر اقوال  
ضعیفہ اور مذہب غیر کو لینے کی اجازت دی جائے تو اس کا لازمی نتیجہ ہدم مذہب ہے۔“ (الحکیمة الناجزة ۲۳۵)

یہ تو عام فتویٰ کی بات ہے لیکن اگر کوئی باصلاحیت شخص خود اپنے عمل کے لئے عدول عن  
المذہب کرتا ہے تو نہ کوہہ عبارات سے اس کے لئے ایسا کرنے کی اجازت اور گنجائش ہے، یہ الگ  
بات ہے کہ دوسرے مقلدین اس کے عمل اور فتویٰ کو نہ اپنائیں۔ (اسی طرح کوئی مضطراً اور مجبور

ہو جائے اور دوسرا مذہب اختیار کئے بغیر چارہ نہ ہو تو اس کے لئے بھی گنجائش ہو گی)

## ○ بحث: ۲: ضرورت

بحث کا دوسرا موضوع یہ ہے کہ اپنے مذہب کو چھوڑنے کی ضرورت ہی کیا پیش آ رہی ہے، عقل مند خواہ تجوہ کوئی کام نہیں کیا کرتا، اس لئے ایسے مقصد کی تعین ضروری ہے جس سے واقعہ خروج عن المذہب کے لئے جواز کی راہ ہموار ہو سکے۔ اب وہ ضرورت کیا ہو سکتی ہے اس پر غور کرنا ہے، فقہاء کی عبارتوں سے تو اتنا معلوم ہوتا ہے کہ اگر قصد محمود ہو تو خروج کی اجازت ہے، اور اگر قصد مذموم ہو تو خروج کی اجازت نہیں ہے۔ علامہ شامی فرماتے ہیں:

اور اگر کوئی شخص اپنے مذہب سے بری ہو گیا کسی اجتہاد کی وجہ سے جو اس کے سامنے واضح ہوا تو یہ اس کے لئے قابل تعریف اور باعث اجر ہو گا، لیکن مجتہد کے علاوہ دوسرے شخص کے لئے بلا دلیل بلکہ دنیوی غرض سے دوسرے مذہب کی طرف منتقل ہونا یا قابل مذمت، موجب معصیت اور لا اُن سزا جرم ہے، اس لئے کہ اس نے دین میں منوع فعل کا ارتکاب اور اپنے مذہب کے ساتھ احتخاف کا معاملہ کیا ہے۔	ولو ان رجالاً برئ من مذهبهم باجتهادٍ وضـح لهـ کانـ مـحـمـودـاً ما جـورـاً أـمـا اـنـتـقـالـ غـيـرـهـ منـ غـيـرـ دـلـيلـ بـلـ لـمـا يـرـغـبـ منـ عـرـضـ الـدـنـيـاـ وـشـهـوـتـهـاـ فـهـوـ الـمـذـمـومـ الـأـثـمـ الـمـسـتـوـجـبـ لـلـتـأـدـيـبـ وـالـتـعـزـيرـ لـأـرـتـكـابـهـ الـمـنـكـرـ فـيـ الدـيـنـ وـاسـتـخـفـافـهـ بـلـيـنـهـ وـمـنـهـبـهـ. (من التاترخانیة ملخصاً، شامی
---	---

(۱۳۲/۶، شامی ذکر یا ۸۰/۴)

یہاں قصد محمود اور مذموم پر خروج و عدم خروج کا مدارکھا گیا ہے، مگر محمود اور مذموم ہونے کا فیصلہ صرف عامل اور مفتی پر نہیں چھوڑا جاسکتا، بلکہ اس کے لئے حدود اور اصول متعین کرنے ضروری ہوں گے۔ ورنہ تو ہر ایک اپنے قصد کو محمود بتا کر خروج کی راہ نکالے گا۔ اور مذہب کے ساتھ استہزا کا دروازہ کھل جائے گا، اس لئے ذیل میں محمود اور مذموم کے متعلق کچھ اہم اشارات ذکر کئے جاتے ہیں۔

## قصدِ محمود کی نشانیاں

بظاہر تسع سے معلوم ہوتا ہے کہ حضراتِ فقہاء نے درج ذیل باتوں کو قصدِ محمود کی علامت

قرار دیا ہے:

### (۱) پہلی نشانی: اجتہادی صلاحیت

مقلد مجتہدا پنی اجتہادی صلاحیت کی بنا پر مذہب سے خروج کر رہا ہو، گویا کہ اس کا اجتہاد ہی اس کے لئے ضرورت داعیہ ہے۔ مثلاً:

**الف:** امام طحاویؒ کا فجر و عصر کی نمازوں کے بعد طواف کی دور کعیسی پڑھنے کے بلا کراہت جواز کا قول کرنا۔ جو دیگر ائمہ راحنف کے خلاف ہے، یہ ان کے اپنے اجتہاد پر مبنی ہے۔ (شرح معانی

الآثار ۱/۳۹۷)

**ب:** محقق ابن الہمامؓ نے مفقود الحیر کی موت کے بارے میں تمام اقوال مذہب سے ہٹ کر ۰۷ رسال کا قول اختیار کیا ہے، اور استدلال میں یہ حدیث لائے ہیں کہ آنحضرت ﷺ نے ارشاد فرمایا کہ میری امت کی عمر ۲۰ سے ۷۰ رسال کے درمیان ہوں گی، یہ قول بھی ان کے اجتہاد کا شمرہ ہے۔ اسی بنا پر محمود ہے اور کوئی شخص اس قول کے اختیار کرنے پر ان کی تغییظ نہیں کر سکتا، کیوں کہ وہ اپنی ذات کے اعتبار سے اس اجتہاد کے مجاز ہیں۔ (فتح القدير ۶/۱۶۹)

**ج:** محقق ابن الہمامؓ نے کلب عقر کی موجودگی میں خلوت صحیح ہونے نہ ہونے کے بارے میں اپنی رائے سے یہ فیصلہ کیا ہے کہ اگر وہ مرد کا ہو تو اس کی موجودگی خلوت کی صحت سے منع نہیں ہے، حالاں کہ عام احناف کا قول یہ ہے کہ کلب عقر مطلقًا منع ہے خواہ شوہر کا ہو یا بیوی کا۔ (فتح القدير ۳/۲۱، شامی ۳/۱۵۵)

**د:** علامہ ابن الہمامؓ نے ضوء میں تسمیہ کو واجب قرار دیا ہے اور اس پر دلائل قائم کئے ہیں، حالاں کہ دیگر ائمہ میں سے کوئی اس کا مقابل نہیں ہے۔ (فتح القدير ۶/۲۳) یہ بھی ان کا اجتہادی فیصلہ ہے۔  
**ه:** حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلویؒ نے فرمایا کہ ایسے قریبی میں جمعہ کا قیام جائز ہے جہاں

کم از کم پچاس افراد رہتے ہوں یا ان کی مجتہدانہ رائے ہے، ورنہ احناف اس کے قائل نہیں ہیں۔

(جیۃ اللہ الباغۃ ۳۰)

و: شیخ الاسلام حضرت مولانا سید حسین احمد مدفی نور اللہ مرقدہ نے رمضان المبارک میں جماعتِ تہجد کے جواز بلکہ مطلقاً استحباب کی رائے اپنائی ہے جب کہ یہ احناف کی عام فقہی تصریحات کے خلاف ہے، حضرت اس بارے میں براہ راست حدیث ثریف: من قام رمضان إيماناً واحتساباً غفرلةً ما تقدم۔ (مشکاة شریف ۱۱۴۱) سے استدلال کرتے ہیں۔ اور قیام رمضان کو تراویح کے ساتھ خاص نہ کر کے اسے تمام نوافل کے لئے عام قرار دیتے ہیں۔ یہ مسئلہ ان کی مجتہدانہ صلاحیت کی دلیل ہے، اور ان جیسی صفات کا حامل شخص اگر اس طرح کی رائے اختیار کرے تو اس پر کوئی اعتراض کا موقع نہیں ہے، کیوں کہ اس کا اجتہاد خود اس کے لئے ضرورتِ داعیہ کی حیثیت رکھتا ہے۔ (تفصیل دیکھئے الجمیعۃ شیخ الاسلام نمبر امطبوعہ پاکستان ۱۰۳-۱۰۵)

اس طرح کے اور بھی بہت سے معمولی تفردات ہیں جو علماء مذہب نے بعض بعض جگہ اختیار کئے ہیں، اور ان کی بنیاد اجتہاد پر ہے، الہذا ایسے لوگوں کے لئے ان آراء کا اختیار کرنا درست اور جائز نہیں بلکہ محمود ہے۔ (مگر ایسے حضرات کا تفرد و سرے لوگوں کے لئے جوت نہیں ہے) اور ان کی مدل آراء بسا اوقات مذہب میں قبول بھی کر لی جاتی ہیں، مثلاً موزن کے حیی علی الصلاة اور حیی علی الفلاح کہتے وقت سامع کے لئے حیی علی الصلاة اور حوقله دونوں کو جواب میں کہنے کا قول محقق ابن الہمامؓ کا تفرد ہے، جسے مذہب میں مفتی بہ بنا دیا گیا ہے، ورنہ ہمارے ائمہٗ ثالثہ تو صرف حوقله جواب میں کہنے کا قول کرتے ہیں۔ (فتح القدر ۱۸/۲۲۸، بہشتی گوہر تاج ۷۵/۷۷)

## (۲) قصدِ محمود کی دوسری نشانی: عرف کی تبدیلی

یہ ہے کہ عرف و زمانہ بدل جانے کی وجہ سے مذہب میں تبدیلی ناگزیر ہو جائے، مثلاً: ظاہر عدالت سے متصف گواہوں کے بارے میں امام ابوحنیفہ ترکیہ کی شرط نہیں لگاتے جب کہ حضرات صاحبینؓ اس کی شرط لگاتے ہیں، تو مشائخ متأخرین نے عرف کے بدل جانے اور زمانہ کے متغیر

ہونے کی بنا پر مسئلہ مذکورہ کے متعلق امام صاحبؒ کی رائے کو چھوڑ کر حضراتِ صاحبینؓ کی رائے کو اختیار کیا ہے، کیوں کہ اب امانت و دیانت کا وہ معیار باقی نہیں رہا کہ ظاہری عدالت کو باطنی عدالت کے لئے دلیل بنایا جائے۔ (شرح عقودِ رسم المفتی ۹۵)

اور اس طرح کی بہت سی مثالیں عرف کی بحث میں مل جائیں گی جن سے معلوم ہو گا کہ عرف و زمانہ کی تبدیلی کی بنا پر اپنے امام کی متابعت چھوڑ دینا بھی قصدِ محمود کی ایک اہم علامت ہے۔ چنان چہ علامہ شامیؒ نے شرح عقودِ رسم المفتی عرف کی بحث میں اس طرف اشارہ کیا ہے، کہ ولی مقتول اگر اپنے محلہ کے علاوہ کسی اور محلے میں رہنے والے شخص پر قتل کا دعویٰ کرے اور اس پر بینہ بھی پیش کر دے تو امام صاحبؒ کے نزدیک یہ بینہ مدعایلیہ کے خلاف قبول نہیں ہوتا، جب کہ حضراتِ صاحبینؓ کے نزدیک یہ بینہ قبول کر لیا جائے گا۔ اس مسئلہ کے بارے میں سید جمویؒ نے علامہ مقدسیؒ سے نقل کیا کہ میں نے مسئلہ مذکورہ کے متعلق امام صاحبؒ کے فتویٰ کی اشاعت سے بھی منع کر دیا ہے، کیوں کہ اگر لوگوں کو اس کا پتہ لگ گیا تو وہ ویران مغلوب میں لوگوں کو قتل کرنے پر جری ہو جائیں گے، الہذا فتویٰ صاحبینؓ کے قول پر ہی دیا جائے گا تا کہ ضررِ عام کو دفع کیا جاسکے۔ (دیکھئے شرح عقودِ رسم المفتی ۹۷)

الغرض عرف کی تبدیلی بھی اہل نظر فقهاء سے کبھی کبھی اس کا تقاضا کرتی ہے کہ وہ مذہب کو ترک کر کے کسی اور رائے کو اختیار کر لیں، تو اگر کوئی اہل آدمی آداب و شرائط کا لحاظ رکھ کر یہ عمل کرے گا تو یقیناً اس کا قصدِ محمود کہا جائے گا۔

### (۳) قصدِ محمود کی تیسری علامت: ضرورتِ شرعیہ

ضرورتِ شرعیہ کا پایا جانا ہے، یعنی یہ دیکھا جائے کہ ضرورت کی تکمیل اگر خروج عن المذہب سے ہو رہی ہے تو اس کو اختیار کرنے کا کیا طریقہ ہو گا؟ پھر وہ ضرورت کس درجہ کی ہے کہ اسے خروج کے لئے مجیز بنایا جائے، ان سب چیزوں پر غور و فکر کرنے کے بعد جو رائے اپنائی جائے گی وہ قصدِ محمود پر مبنی ہو گی۔

## کوئی ضرورت معتبر ہے؟

فقہاء کے کلام سے معلوم ہوتا ہے کہ ضرورت کے ۵ درجات ہیں:

- (۱) ضرورت بمعنی اضطرار: یعنی منوع کا ارتکاب اتنا ناگزیر ہو جائے کہ اگر ایسا نہ کرے تو جان کی ہلاکت کا خطرہ ہو۔
- (۲) ضرورت بمعنی حاجت: یعنی منوع کے ارتکاب نہ کرنے سے ہلاکت کا اندیشہ تونہ ہو لیکن سخت مشقت کا خطرہ ہو۔
- (۳) ضرورت بمعنی منفعت: یعنی ایسی ضرورت جس کے پورانہ ہونے سے ہلاکت یا مشقت کسی کا خطرہ نہ ہو بلکہ محض اپنی خواہش کی تکمیل مقصود ہو۔
- (۴) ضرورت بمعنی زینت: یعنی محض زیب و وزینت کے لئے امر منوع کے ارتکاب کی ضرورت ہو۔

(۵) ضرورت بمعنی فضول: یعنی فضول خرچی کے لئے ضرورت کا اظہار یا محض توسع کے لئے حرام اور مشتبہ چیزوں کے استعمال کا خیال ہو یہ تفصیل علامہ جموی نے ”الاشباء والنظائر“ کے حاشیہ میں ”فتح المدبر“ کے حوالہ سے لکھی ہے، اور یہوضاحت کی ہے کہ ان میں سے صرف اول درجہ کی ضرورت سے امر حرام کا ارتکاب جائز ہوتا ہے اس سے نیچے درجہ کی ضرورتیں حرام کے استعمال کے لئے مجری نہیں بن سکتیں۔ (الاشباء والنظائر حاشیہ جموی ۲۶۱)

لیکن دوسری طرف فقه کا بھی مسلمہ قاعدہ ہے کہ **الحاجة تنزل منزل الضرورة** عامہ کانت او خاصة۔ (الاشباء ۳۹۳/۱) یعنی حاجت بھی کبھی کبھی درجہ ضرورت (بمعنی اضطرار) میں آجائی ہے، یعنی اس کے ذریعہ بھی کسی امر منوع کا ارتکاب درست قرار دیا جاتا ہے، اس تفصیل سے یہ نتیجہ نکالنا مشکل نہیں ہے کہ اصل میں تو منوعات کی اجازت صرف اضطراری حالت کے لئے ہے، لیکن اگر کسی جگہ اہلیت رکھنے والے حضرات حاجت کو ضرورت کا درجہ دیدیں تو وہ بھی رخصت میں ضرورت کے مقام پر آ جاتی ہے، لہذا حاجت جب تک حاجت کے درجہ میں رہے گی اُسے مجری

نہیں بنا�ا جائے گا، اور جب اسے ضرورت کے درجہ تک پہنچا دیا جائے گا تو وہ محیز بن جائے گی۔

## حاجت اور ضرورت کے اثر میں فرق

البتہ یہ ضرور پیش نظر رکھنا ہو گا کہ ضرورت بمعنی اضطرار کی صورت میں تو منصوص قطعی حرمت بھی نص قطعی فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَلَا إِثْمٌ عَلَيْهِ۔ (البقرہ ۱۷۳) کی ہدایت کے بموجب مرتفع ہو جائے گی۔ جیسے:

- (۱) مضطرب کے لئے حالت مخصوصہ میں مردار وغیرہ کھانا حلال ہے۔ (معارف القرآن ۳۸/۳)
- (۲) لقمہ گلے میں اٹک جائے اور سامنے شراب رکھی ہو پانی وغیرہ موجود نہ ہو تو جان بچانے کے لئے شراب کا گھونٹ پینا درست ہے۔ (الاشباه والنظائر ۲۴۶)
- (۳) مجبور محض کے لئے بدرجہ مجبوری کلمہ کفر زبان سے نکالنے کی اجازت ہے۔ (عالمگیر ۳۸/۵) وغیرہ۔

لیکن حاجت کے ذریعہ جس حرمت کا ارتقائے کیا جائے گا وہ منصوص قطعی کے درجہ کی نہ ہوئی چاہئے، بلکہ اگر اس کی حرمت میں کسی بھی طرح ثبوت یا دلالت میں ظنیت پائی جائے تو ہی حاجت کے وقت اس کے ارتقائے کے بارے میں سوچا جاسکتا ہے اور نص قطعی کا حکم کسی بھی طرح محض حاجت کی بنیاد پر مرتفع نہیں کیا جاسکتا، یہ اسی وقت مرتفع ہو گا جب کہ ضرورت اضطرار کے درجہ کی پائی جائے۔

## حاجت کی مثالیں

اس اصول کی وضاحت کے لئے درج ذیل مثالوں کا مطالعہ مفید ہو گا:

- (۱) سونے چاندی کا استعمال مرد کے لئے حرام ہے لیکن حضرت عرفجہ ابن اسد علیہ السلام کو آنحضرت ﷺ نے حاجت شدیدہ کی بنا پر سونے کی ناک لگانے کی اجازت دی، چوں کہ یہ نہیں اخبار آحاد سے ثابت ہونے کی وجہ سے ظنی تھی، لہذا حاجت کی بنیاد پر حکم نہیں مرتفع کر دیا گیا، اور بعد کے فقهاء نے بھی اسی پر فتویٰ دیا ہے۔ (دیکھنے طحاوی شریف ۲۳۹، شامی کراچی ۳۶۶)
- (۲) مرد کے لئے ریشم پہننے کی حرمت اخبار آحاد سے ثابت ہونے کی بنا پر ظنی الثبوت

قطعی الدلالۃ ہے، لہذا میداں جنگ میں اس کے استعمال کی حاجت کی بنا پر اجازت دی جاسکتی ہے۔ (شامی ۳۵۱/۶)

(۳) عام حالات میں احتیبیہ کو دیکھنا منوع ہے لیکن حاجت کی بنیاد پر مخطوطہ کو اسی طرح خریداری کے وقت باندی کو دیکھنے کی اجازت دی گئی ہے۔ (نووی علی مسلم ۲۵۶)

ان تمام مثالوں سے معلوم ہوا کہ حاجت کے ذریعہ صرف حکم ظنی میں تسهیل اور رخصت ہو سکتی ہے، اور نص قطعی کا حکم ہٹانے میں حاجت موثر نہیں اس کے لئے اضطرار کی ضرورت ہے۔ اور پھر مخصوص حاجت کا تحقیق بھی کافی نہیں بلکہ یہ ضروری ہے کہ ارباب فکر و نظر اسے حاجت مان بھی لیں اور اس کے ذریعہ حکم ظنی کی تبدیلی کی ضرورت بھی محسوس کر لیں۔ تینع سے معلوم ہوتا ہے کہ حضرات فقهاء حاجت کی بنا پر زیادہ تر حاجت عامہ اور عموم بلوئی کی صورت میں اور کبھی کبھی ضرورت شدیدہ خاصہ کی شکل میں رخصت و تخفیف کا حکم کرتے ہیں۔

## حاجت عامہ

عمومی حاجت کا مطلب یہ ہے کہ اگر اس میں رخصت نہ دی جائے تو عام لوگ دینی اعتبار سے تنگی میں بنتا ہو جائیں، یا عدم رخصت کی شکل میں ضیاع دین وغیرہ کا خطرہ لاحق ہو، تو ایسی صورت میں یہ حاجت ضرورت کے درجہ میں رکھ دی جاتی ہے اور ظنی دلائل پر مبنی احکامات میں تخفیف کردی جاتی ہے۔ مثال کے طور پر:

**الف:** تعلیم قرآن کریم پر اجرت جائز قرار دی گئی، حالاں کہ متقدہ میں اس اجرت کے بالکل یہ عدم جواز کے قائل تھے۔ علامہ شامیؒ اس بارے میں بطور خلاصہ لکھتے ہیں:

بس علماء نے ضرورةً تعلیم قرآن پر اجراء کے صحیح	فاؤتو بصحبته علی تعلیم
ہونے کا فتویٰ دیا، کیوں کہ پہلے زمانہ میں اساتذہ	القرآن للضرورة فإنه كان
کے وظائف اسلامی بیت المال سے مقرر تھے، جو	للمعلمين عطايا من بيت المال
اب منقطع ہو گئے، تو اب اگر تعلیم قرآن پر اجرت	وانقطعت فلو لم يصح

کے لیئے دین کو جائز نہ قرار دیں تو قرآن کریم کے ضائع ہونے کا اندیشہ ہے، اور اس میں دین کا بھی ضیاع ہے اس لئے کہ اسامتہ معاشی ضرورتوں کی تکمیل کے لئے کمائی کی طرف بھی محتاج ہوں گے۔ (ارتعالیم پر توجہ نہ دے سکیں گے)

الاستئجار وأخذ الأجرة لضاع  
القرآن وفيه ضياع الدين  
لاحتياج المعلمين إلى الاكتساب.

(شرح عقود رسم المفتى ۳۸)

ب: قاضی اور گواہ کے لئے اس بات کی اجازت دی گئی کہ وہ مرعی علیہا اجنبیہ کو دیکھیں اگرچہ شہوت کا خوف ہو، حالاں کہ اجنبیہ کو دیکھنا از روئے حدیث جائز نہیں ہے، لیکن حاجت عامہ کی بنا پر دیکھنے کے حکم میں تخفیف کر دی گئی۔ صاحب ہدایہ لکھتے ہیں:

اور قاضی کے لئے عورت کے خلاف فیصل کرتے وقت اور گواہ کے لئے عورت کے خلاف گواہی دیتے وقت عورت کی طرف دیکھنا جائز ہے، اگرچہ شہوت کا بھی خوف ہو اس لئے کہ یہاں لوگوں کے حقوق قضاۓ اور شہادت کے واسطے سے حاصل کرنے کی ضرورت ہے۔ (جو بغیر دیکھے پوری نہیں ہو سکتی۔)

ويجوز للقاضى إذا أراد أن  
يحكم عليها وللشاهد إذا أراد  
الشهادة عليها النظر إلى وجهها  
 وإن خاف أن يشتهى به للحاجة  
إلى إحياء حقوق الناس بواسطة  
القضاء وأداء الشهادة. (عينی  
۴۴۲/۴، هدایہ ۲۲۶/۴)

ج: ضرورتِ عامہ کی بنا پر ڈاکٹر اور طبیب کو مریض کا ستر دیکھنے کی اجازت دی گئی، کیوں کہ ایسا نہ کرنے میں عام لوگوں کا مرض بڑھنے اور صحیح تشخیص نہ ہونے کا واقعی اندیشہ ہے۔ ہدایہ میں ہے:

اور جائز ہے ڈاکٹر کے لئے کہ وہ مریض کے مرض کی جگہ دیکھے (گو کہ وہ ستر کی جگہ ہو) اس لئے اس میں ضرورت پائی جاتی ہے۔

ويجوز للطبيب أن ينظر إلى  
موقع المرض للضرورة. (هدایہ

۴۴۳/۴)

د: جیسا کہ ابھی ذکر ہوا کہ میدانِ جنگ میں خالص ریشم پہننا مردوں کے لئے جائز قرار دیا گیا، جب کہ یہ عام حالات میں منوع ہے، اس لئے کہ اگر اس کو کسی بھی حال میں جائز نہ کہیں تو عام لوگوں کا اس معنی کرتھیان ہے کہ وہ شنوں پر ہیبت ڈالنے والے اور تلوار کے دار سے بچانے والے لباس سے محروم ہو جائیں گے۔ ہدایہ میں لکھا ہے:

صحابینؓ کے نزدیک حالتِ جنگ میں ریشم اور دیباج کا کپڑا (مردوں کے لئے) پہننے میں مضافت نہیں ہے جیسا کہ امام شععیؓ سے منقول ہے کہ آنحضرت ﷺ نے جنگ کی حالت میں ریشم اور دیباج پہننے کی رخصت دی ہے، اور دوسرے یہ کہ اس میں ضرورت بھی تحقیق ہے، اس لئے کہ خاص ریشم تلوار وغیرہ ہتھیاروں کی چوٹ سے بچانے والا اور اپنی چمک دمک کی وجہ سے دشمن کی نظر میں بارعب بنانے والا ہے۔

۵: جمعہ و عیدین اور مجمع کثیر کے موقع پر سجدہ سہو کا واجب حکم ساقط کر دیا گیا، اس لئے کہ لوگوں کی نمازوں کو فتنہ اور خرابی سے بچانا ایک حاجتِ عامہ ہے، جس کا لحاظ رکھنا ضروری ہے۔ درختار میں ہے:

اور سجدہ سہو کا حکم نماز عید، نماز جمعہ فرض و فل سب میں برابر ہے، مگر متاخرین کے نزدیک مختار قول یہ ہے کہ وہ پہلی دونمازوں (نماز عید اور نماز جمعہ) میں واجب نہیں ہے، تاکہ فتنہ کو دفع کیا جاسکے، (اس لئے کہ ازدحام کی وجہ سے سجدہ سہو میں لوگ غلط فہمی میں بیٹلا ہو سکتے ہیں) اور شامی

ولا بأس بلبس الحرير والديباج  
في الحرب عندهما لمداروى  
الشعبي أنه عليه السلام رخص  
في لبس الحرير والديباج في  
الحرب ولأن فيه ضرورة فإن  
الخالص منه أدفع لمعرة السلاح  
وأهيبت في عين العدو لبريقه.

(ہدایہ ۴۴۰۱۴)

والسهو في صلاة العيد والجمعة  
والمكتوبة والتطوع سواء  
والمحترar عند المتأخررين عدمه  
في الأوليين لدفع الفتنة كما في  
 الجمعة البحر. وتحته في  
 الشامي: الظاهر أن الجمع الكثير

میں ہے: ظاہر یہ ہے کہ اگر عید اور جمعہ کے علاوہ دیگر نمازوں میں بھی مجمع زیادہ ہو تو یہی حکم ہے (یعنی بحدہ سہوں ہونہ ہوگا) جیسا کہ فقهاء نے بحث کی ہے اور رحمتی نے بحث کرتے ہوئے کہا کہ خاص کر ہمارے زمانہ میں یہی حکم ہونا چاہئے۔

و: متعدد بیویوں کے درمیان برابری سفر میں نہیں ہے، جب کہ اس بارے میں نص مطلق ہے، اور نابرابری پر سخت وعید آتی ہے۔ (۱) لیکن چوں کہ سفر میں "قسم" لازم کرنے میں سخت ضرر کا اندیشہ ہے اس لئے کہ عورتوں کی طبعیتیں مختلف ہوتی ہیں، اس لئے حاجت عامہ کی بنا پر سفر میں برابری کا حکم ساقط کر دیا گیا۔ درجتاً میں ہے:

حرج کودفع کرنے کے لئے سفر کرنے میں متعدد بیویوں کے درمیان برابری ضروری نہیں ہے، اس لئے کہ جبھی آسان ہوگا جب کہ سب بیویوں کے ساتھ سفر میں لے جائے، اور اس بات کو لازم کرنے میں جو ضرر ہے وہ مخفی نہیں ہے۔

ز: آزادآدمی پر پابندی (حجر) اگرچہ مذہب میں جائز نہیں ہے لیکن حاجت عامہ کی خاطر اور ضرر عام کودفع کرنے کے لئے یہ حکم دیا گیا کہ قاضی بلیک کرنے والے ذخیرہ اندو زکام بغير اس کی رضامندی کے نقش دے؛ کیوں کہ نہ بخچنے میں عام لوگوں کا نقصان ہے۔ علامہ شامی بحث کرتے ہوئے لکھتے ہیں:

اور بعض لوگوں نے کہا کہ قاضی بالاتفاق ائمہ اس کا مال نقش دے گا، اس لئے امام ابوحنیفہ ضرر عام کو

(۱) ترمذی شریف میں ہے: عن أبي هريرة ﷺ عن النبي ﷺ قال: إذا كانت عند الرجل إمرأتان فلم يعدل بينهما جاء يوم القيمة وشقته ساقطٌ۔ (ترمذی شریف ۲۷۱)

الكثير فيما سواهما كذلك  
كما بحثه بعضهم وكذا بحثه  
الرحمتى وقال خصوصاً فى  
زماننا. (شامی کراچی ۹۲۱۲، شامی  
ذكریا ۵۶۰۱۲)

ولا قسم في السفر دفعاً للحرج  
وفي الشامي: لأنه لا يتيسر إلا  
بحملهن معه وفي إلزامه ذلك  
من الضرر ما لا يخفى الخ. (شامی  
ذكریا ۳۸۴۱۴، شامی ذکریا ۲۰۶)

وقيل يبيع بالاتفاق لأن أبا حنيفة  
يرى الحجر لدفع ضرر عام

وہذا کذلک۔ (شامی کراچی) دفع کرنے کے لئے کسی شخص پر حرج (پابندی) کو رو سمجھتے ہیں۔ (۳۹۹/۶)

## عموم بلوی

عموم بلوی بھی دراصل حاجت عامہ کا ہی ایک عنوان ہے اس کا اصطلاحی مطلب یہ ہے: ممنوع کا اس درجہ پھیل جانا کہ مکلف کے لئے شیع المحتظر شیع عاً یعسر علی المکلف معہ تحاشیہ۔

(معجم لغۃ الفقهاء ۳۲۲)

فقہ میں عموم بلوی بھی موجب رخصت قرار دیا گیا ہے۔ علامہ شامی فرماتے ہیں:

الملعوم من قواعد ائمتنا  
التسهيل في مواضع الضرورة  
والبلوي العامة۔ (شامی ۱۸۹/۱)  
ہمارے ائمہ کے قواعد سے یہ بات معلوم شدہ ہے کہ ضرورت اور عام ابتلاء کے وقت سہولت دی جاتی ہے۔

لہذا معلوم ہوا کہ ضرورت بمعنى حاجت سے جو تسهیل و رخصت دی جاتی ہے اس کی دوسری بڑی وجہ عموم بلوی بھی ہے، فقہ اسلامی کے بہت سے مسائل عموم بلوی پر بنی ہیں۔ کچھ مثالیں ذیل میں پیش کی جاتی ہیں:

(۱) اگر چڑے کے موزہ میں ذی جرم نجاست لگ جائے تو قیاس کا مقتضی یہ ہے کہ جب تک اسے دھونہ لیا جائے وہ پاک نہ ہو، لیکن چوں کہ اب راستوں میں گندگیوں کی کثرت ہو گئی ہے، اور راستوں سے بچنا امر دشوار ہے، لہذا امام ابو یوسف نے فتویٰ دیا کہ اگر موزہ پر لگی ترنجاست مٹی سے پوچھلی جائے اور اس کا اثر باقی نہ رہے تو موزہ پاک سمجھا جائے گا۔ ہدایہ میں ہے:

وفي الرطب لا يجوز حتى يغسله لأن المسح بالأرض يكثـر ولا يطهره وعن أبي يوسف أنه إذا  
اور ترنجاست سے اس وقت تک پاکی نہ ہو گی جب تک کہ اسے نہ دھولے، اس لئے کہ زمین پر لگنے سے نجاست اور پھیلی گی، اور پاک نہ ہو گی۔ اور

امام ابو یوسفؑ کی روایت یہ ہے کہ اگر زمین سے  
لگنے کی وجہ سے نجاست کا اثر بالکل زائل ہو جائے تو

مسحہ بالأرض حتی لم يبق أثر  
النجاست يطهر لعموم البلوى.

ابتلاء عام کی وجہ سے موزہ پاک سمجھا جائے گا۔

(هدا یہ مع الفتح ۱۹۶/۱)

(۲) جانوروں کے گور سکھا کر ایندھن کی جگہ استعمال کرتے ہیں تو اس کی راکھ کو نجس قرار نہیں دیا جائے گا، اس لئے کہ اس طرح روٹیاں پکانے کا اتنا رواج بعض جگہ ہے کہ اس سے احتراز دشوار ہے۔ اور اگر راکھ کو ناپاک قرار دیں تو ساری روٹیاں ناپاک ہونے کا حکم دینا ہو گا۔ صاحبِ درختار فرماتے ہیں:

اور نجس چیز کی راکھ ناپاک نہیں ہو گی ورنہ تمام  
شہروں میں روٹیوں کی ناپاکی کی لازم آئے گی (اس  
لئے کہ روٹیاں پکانے میں گور وغیرہ کے اپلے  
کام میں آتے ہیں) شامی میں ہے: کہ آج کل  
عموم بلوئی کی وجہ سے فتویٰ اسی قول پر ہے، اس  
سے یہ پتہ چلا کہ اصل میں ماہیت کے بدلنے کی  
بنیاد پر جس راکھ کی طہارت کے قول کو اختیار کیا  
گیا اس کی علت عموم بلوئی ہے۔

ولا يكُون نجساً رماداً قدراً وإن  
لزم نجاست الخبز فيسائر  
الأمصال، وفي الشامي: وإن  
الفتوى على هذا القول للبلوى  
فمفادة أن عموم البلوى علة  
اختيار القول بالطهارة المعللة  
بانقلاب العين. (شامی کراچی

۳۲۶/۱)

(۳) ٹھہرے ہوئے ماء کثیر میں جب تک تغیر اوصاف نہ ہو جائے محسن نجاست نظر آنے  
سے نجاست کا حکم نہ لگایا جائے گا، اس میں بھی طہارت کا حکم عموم بلوئی کی وجہ سے دیا گیا ہے۔ علامہ  
شامیؒ نے فرمایا:

اور فتوئی مطلقاً نجس نہ ہونے پر ہے، الایہ کہ  
اوصاف میں تغیر آجائے، اور اس میں دکھائی  
دینے یا نہ دینے میں کوئی فرق نہیں۔ یہ حکم عموم

والفتوى على عدم التجسس  
مطلقاً إلا بالتغيير بلا فرق بين  
المرئية وغيرها لعموم البلوى.

بلوئی کی بنیاد پر دیا گیا ہے۔

(۲) نجس برتن کے بارے میں قیاس کا مقتضی یہ ہے کہ وہ بھی پاک ہی نہ ہو، کیوں کہ کچھ نجس پانی تھہ میں باقی رہے گا (جب کہ نیچے سوراخ نہ ہو) لیکن عام حاجت اور عموم بلوئی کی بنیاد پر استحساناً اسے پاک قرار دیا گیا ہے۔ علامہ عبدالعزیز بخاری<sup>ؒ</sup> کشف الاسرار میں لکھتے ہیں:

اور اسی طرح برتن کی تھہ میں جب کہ پانی نکلنے کا سوراخ نہ ہو اگر اس کے اوپر سے پانی بھایا جائے تو اس کی طہارت کا حکم نہ ہونا چاہئے، اس لئے کہ نجس پانی تھہ میں کچھ نہ کچھ رُک جائے گا۔ مگر علماء نے استحساناً اس قیاسی حکم پر عمل ترک کر دیا ہے، اور خطابات شارع علیہ السلام میں ضرورت کا اعتبار کیا گیا ہے۔

وَكَذَا إِلَيْهِ إِذَا لَمْ يَكُنْ فِي السَّفْلَةِ تَقْبَلْ يَخْرُجُ مِنْهُ الْمَاءُ إِذَا أُجْرِيَ مِنْ أَعْلَاهُ لَانَ الْمَاءُ النَّجْسُ يَجْتَمِعُ فِي السَّفْلَةِ فَلَا يَحْكُمُ لِطَهَارَتِهِ إِلَّا أَنْهُمْ اسْتَحْسَنُوا تَرْكَ الْعَمَلِ بِمَوْجِ الْقِيَاسِ لِلضَّرُورَةِ إِلَى ذَلِكَ لِعَامَةِ النَّاسِ وَلِلضَّرُورَةِ إِثْرَ فِي الْحَطَابَاتِ.

(کشف الأسرار ۶۴)

الغرض معلوم ہوا کہ امت کو گناہ سے بچانے کے لئے بھی حکم میں تخفیف کا اصول حضرات فقہاء کے نزدیک مسلم ہے، اسی کو علت عموم بلوئی سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ اور یہ ہم پہلے بتا چکے ہیں کہ عموم بلوئی ضرورت بمعنی اضطرار میں داخل نہیں، بلکہ ضرورت بمعنی حاجت میں اس کا شمار ہے۔ لہذا عموم بلوئی سے بھی صرف ظنی اور اجتہادی حرمتوں کے احکامات میں تسہیل ہوتی ہے۔ حرمت قطعی کے ارتفاع میں عموم بلوئی موثر نہیں ہے، اور اس کی تائید اس ارشاد بنوی سے ہوتی ہے کہ آخر زمانہ میں سود کا اس قدر شیوع ہو جائے گا کہ ہر آدمی کم از کم اس کے غبار سے تو متاثر ضرور ہوگا۔

اس ارشاد کے باوجود سودی کی حرمت بدستور برقرار رہی، اگر عموم بلوئی کا لحاظ نصوص قطعیہ میں کیا جاتا جو اس شیوع کی بنابر سود کی کھلی اجازت دے دی جاتی، مگر امت اس پر متفق ہے کہ سودی معاملات میں کثرت کی بنابر سود کی قطعی حرمت کو مرتفع نہیں کیا جا سکتا۔ معلوم ہوا کہ عموم بلوئی نصوص

قطیعہ پرا شر انداز کسی درجہ میں نہیں ہے۔

## ضرورتِ خاصہ

شریعت میں رخصت کی تیسری بنیاد ضرورتِ خاصہ ہے، یعنی کسی فرد واحد کو ایسی ضرورت درپیش کہ رخصت نہ ہونے کی صورت میں اس کی ذات کو مشقت میں پڑنے کا اندر یا شہ ہو۔ اب مشقت خواہ جانی ہو، خواہ مالی ہو اور خواہ طاعات و عبادات کی حفاظت کی شکل میں ہو تینوں شکلوں میں موجب رخصت بنتی ہے۔

## مالی مشقت میں رخصت کی مثال

تیل وغیرہ سونے چاندی کے برتوں میں رکھنا جائز نہیں ہے، لیکن اگر رکھ دیا گیا تواب اگر یہ کہا جائے کہ اس سے نکالنا بھی جائز نہیں تو اس سے مال کی اضاعت لازم آئے گی، جو مالی مشقت ہے۔ لہذا اجازت دی گئی کہ اس برتن سے دوسرے برتن میں پلٹ سکتے ہیں بلکہ ہاتھ میں لے کر وہاں سے استعمال بھی کر سکتے ہیں۔ علامہ شامیؒ فرماتے ہیں:

ان تحریر شدہ برتوں میں تیل جیسی کوئی چیز رکھنا تو  
جائے نہیں ہے، اس لئے کہ یہ بھی بلا شبہ اس کا  
استعمال ہے لیکن اگر رکھ دینے کے بعد اگر اس  
میں بغیر نفع اٹھائے چھوڑ دیا جائے تو اس سے  
مال کا ضائع کرنا لازم آئے گا۔ لہذا اس برتن سے  
نکال کر ضرورتہ استعمال کرنا ضروری ہو گا۔

إن وضع الدهن مثلاً ذلك إلا فإنه  
المحرر لا يجوز لأنَّه استعمال له  
قطعاً ثم بعد وضعه إذا ترك فيه  
بلا انتفاع لزم إضاعة المال فلا  
بد من تناوله منه ضرورة  
الخ. (شامی کراجی ۳۴۲۱۶)

## عبادات کی حفاظت کے لئے رخصت کی مثال

اگر جان بوجہ کر نماز میں ایک چوتھائی سے زیادہ کشف عورت کر لیا، تو اگرچہ تین تسبیحات کے بعد کشف نہ رہا ہو پھر بھی نماز فاسد ہو جاتی ہے۔ لیکن اگر کسی ضرورت کی بنا پر ایسا ہوا تو اس

وقت تک نماز کے فساد کا حکم نہ ہو گا جب تک کہ تین تسبیحات کے بقدر کشف عورت نہ ہو، یہ حکم معتبری بکی نماز کو فساد سے بچانے کے لئے ہے۔ تو یہاں ضرورت خاصہ کا اثر عبادات میں رونما ہوا۔ علامہ شامیؒ نے فتاویٰ خانیہ سے نقل کرتے ہوئے یہ فیصلہ تحریر کیا ہے:

اور فقہ سے زیادہ مشابہ بات یہ ہے کہ جان بوجھ کرایسا کیا (یعنی ایک چوتھائی سے زیادہ کشف عورت کر لیا) تو نماز فاسد ہوگی۔ الا یہ کہ کوئی ضرورت ہو، مثلاً ضائع ہونے کے اندیشہ سے نجس جوتا اٹھالیا (تو نماز فاسد نہ ہوگی) جب تک کہ اس کے ساتھ ایک رکن ادا نہ کرے (یعنی اگر ایک رکن بقدر تین تسبیحات کے اسی مانع صلاة کے ساتھ رہا تو نماز فاسد ہو جائے گی۔)

## ما حصل

اس پوری بحث سے معلوم ہوا کہ حاجت جب کہ ضرورت عامہ، عموم بلوئی اور ضرورت خاصہ کی شکل میں متحقق ہو تو اس کے ذریعہ شریعت کے قطعی الثبوت ظنی الدلالۃ، یا ظنی الثبوت قطعی الدلالۃ، یا ظنی الثبوت ظنی الدلالۃ احکامات میں تخفیف ہو سکتی ہے؛ البتہ اگر اضطرار کے درجہ کی ضرورت پائی جائے تو پھر قطعی حکم میں بھی تخفیف ہو جاتی ہے، لہذا جب کسی مسئلہ میں ضرورت بیان کی جائے تو مفتی کو یہ غور کرنا چاہئے کہ وہ مسئلہ قطعی ہے یا اس میں ظنیت پائی جاتی ہے؟ اگر قطعی ہو تو اس وقت تک تخفیف کا فتویٰ ہرگز نہ دے جب تک کہ اضطرار کا تحقیق نہ ہو جائے۔ مثلاً سودی لین دین کی حرمت قطعی ہے (جیسا کہ آیاتِ قرآنیہ اور سخت ترین وعیدوں پر مشتمل احادیث مبارکہ سے معلوم ہوتا ہے) تو سود میں ملوث ہونے کی اجازت سوائے مضطرب اور مجبور ترین شخص کے کسی کو نہیں دی جاسکتی۔ اسی بناء پر حضرت مجدد الف ثانیؓ نے بہت واضح الفاظ میں بعض سہولت پسندوں کے فقہی

والأشبه الفساد مع التعمد إلا  
لحاجةٍ كرفع نعله لخوف  
الضياع مالم تؤدر كما في  
الخلاصة. (شامی ۴۰۸۱)

عبارت یجوز للمحتاج الاستقراض بالربح سے سود کی اجازت پر استدلال کی تردید کرتے ہوئے لکھا ہے:

رباء کی حرمت نص قطعی سے ثابت ہے جو محتاج وغیر محتاج دونوں کو شامل ہے۔ محتاج کو اس حکم سے الگ کرنا ایک حکم قطعی کو منسوخ کرنے کے مراد ہے۔ اور قنیہ کی روایت اس درجہ کی نہیں ہے کہ وہ حکم قطعی کو منسوخ کر سکے۔

اور اگر اس روایت قنیہ (یکوز للحتاج الخ) کو صحیح مان بھی لیا جائے تو یہاں احتیاج کو اضطرار اور مخصوص کے معنی میں لیا جائے گا۔ تاکہ حرمت کے قطعی حکم کے لئے مخصوص آیت قطعیہ: "فَمَنِ اضْطُرَّ فِي مَحْمَصَةٍ إِلَّا  
الخ" کو بنایا جاسکے، کیوں کہ یہ آیت بھی قوت

کے اعتبار سے پہلی آیت کے برابر ہے۔

لہذا اضطرار سے کم درجہ میں سودی معاملہ اختیار کرنے کی اجازت نہیں دی جاسکتی، اگرچہ مشقت شدیدہ ہی کیوں نہ ہو، اور جب مشقت شدیدہ سود کے لئے موجب رخصت نہیں بن سکتی تو اس سے بھی کم درجہ کی مشقت مثلاً کار و بار میں ترقی اور صنعت کاری کے لئے سودی قرضہ لینا اور خواہ مخواہ بنك میں روپیہ جمع کر کے سود لینا بھلا کیسے درست ہو سکتا ہے؟

## واضح رہے !

یہاں یہ غلط فہمی نہ ہو کہ جب حالت اضطرار موجب رخصت ہے تو جہاں بھی اضطرار پایا جائے وہاں ہر حکم قطعی مرتفع ہو جائے ایسی بات نہیں ہے، بلکہ اضطرار سے رخصت بھی اس شرط پر موقوف ہے کہ اس رخصت کو اختیار کرنے سے کسی دوسرے ہم مثل شخص کا ایسا حق نہ مارا جا رہا ہو

حرمتِ رباعیں قطعی ثابت شدہ است  
کہ شامل محتاج وغیر محتاج است تخصیص  
محتاج ازاں جانمودن لشخ ایں حکم قطعی  
است۔ قنیہ رتبہ آں ندارد کہ لشخ حکم  
قطعی کندان لشخ۔

ولو سلم صحة هذه الرواية پس  
احتیاج را باضطرار ومحصہ می باید فرود  
آورد تا مخصوص آں حکم قطعی آیت کریمہ:  
فَمَنِ اضْطُرَّ فِي مَحْمَصَةٍ إِلَّا  
باشد کہ مثل اوسٹ درقاۃ۔

(مکتوبات امام ربانی ۱۴۲۷)

جس کی بعد میں تلافی نہ کی جاسکے۔ اسی وجہ سے حضراتِ فقہاء نے صراحت کی ہے کہ اگرچہ اکراہ کی وجہ سے اپنی جان چلے جانے کا قوی اندیشہ ہو، پھر بھی دوسرے کو قتل کرنا جائز نہیں ہے۔ اسی طرح اپنے ہاتھ کا ٹھنے کے مقابلہ میں اکراہ کی صورت میں دوسرے شخص کا ہاتھ کا ثنا ناجائز ہے، اس لئے کہ دونوں طرف حق برابر ہے، اور اسلام میں انسانیت کے اعتبار سے ہر فرد یکساں طور پر قبل احترام ہے، لہذا ایک کو دوسرے پر اعضاء یا جان تلف کر دینے میں فوقیت نہیں دی جاسکتی، درحقیقت میں ہے: لایر خص قتلہ او سبہ او قطع کسی بھی ایسے عمل کو کرنے کی اجازت نہ ہوگی جو عضوہ و مالا یستباح بحال۔ کسی بھی حال میں حلال نہیں ہوتے۔

(درمختار ۱۳۵۱۶)

اس اصول اور جزئیے سے پتہ چلتا ہے کہ ایک شخص کے اضطرار کو ختم کرنے کے لئے دوسرے شخص کے اعضاء کو تلف کرنے یا مبتذل بنانے کی اجازت نہیں ہے۔ اسی سے اعضاء انسانی کی پیوند کاری کا حکم بھی معلوم ہو جائے گا کہ اضطراری حالت ہونے کے باوجود دوسرے انسان کا عضو خریدنا اور اس کا استعمال کرنا بدستور حرام رہے گا، کیوں کہ ہر انسان کے اعضاء (جس پر اس کی ساخت کا مدار ہے) آیت قرآنی: وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ اللَّخُ، کی روشنی میں قابل تکریم و احترام ہیں اور ایک کا عضو دوسرے کو لوگانا احترام کے خلاف ہے۔ (جوہر الفقہ ۲۶۷۲)

یہ تو وہ صورت ہوئی جس میں مسئلہ کا حکم قطعی ہو تو اس میں رخصت کے لئے اضطرار کی ضرورت ہوگی، لیکن اگر مسئلہ مبوث عنہا کا حکم کسی بھی طریقہ ہو تو اس میں تخفیف کے لئے اضطرار ہونا ہی ضروری نہیں بلکہ مشقہ شدیدہ، نظام میں اختلال، حقوق کا ضیاع وغیرہ صورتوں میں بھی حکم میں تخفیف کی جاسکتی ہے، جیسا کہ گذشتہ مثالوں سے معلوم ہو گیا ہے۔

## تصویر کا مسئلہ

فولوں کی پیچنے اور کھپوانے کی حرمت کا مسئلہ بھی اسی بحث کی روشنی میں حل کیا جاسکتا ہے، بظاہر اس کی حرمت میں دلالت یا ثبوت کے اعتبار سے ظنیت پائی جاتی ہے اس لئے کہ اس سلسلہ میں

وارد احادیث مبارکہ کو درجہ شہرت میں تو یقیناً رکھا جاسکتا ہے لیکن درجہ تواتر تک پہنچانا مشکل ہے جب کہ قطعی الثبوت ہونے کے لئے درجہ تواتر ہونا لازم ہے، لہذا اگر کسی جگہ تصویری کشی ضروری ہو تو محض اصطلاحی اضطرار کے وقت ہی اس کی اجازت نہ ہوگی بلکہ حاجت کو بھی اس مسئلہ میں اضطرار کے درجہ میں رکھا جاسکتا ہے، اسی بناء پر علماء نے درجہ مجبوری پا سپورٹ وغیرہ بنوانے اور سفر کی ضرورت کے لئے فوٹو بنوانے کی اجازت دی ہے۔ (جوہر الفقہ ۲۳۲/۳)

## اب غور کرنا ہے

اس تفصیلی وضاحت کے بعد اب یہ دیکھنا ہے کہ مذہب سے ہٹ کر دوسرا قول اختیار کرنا کس درجہ کا ناجائز ہے، اور اس کا ثبوت کس دلیل سے ہے۔ ظاہر ہے کہ مذہب بدلنے کی حرمت نہ تو نص قطعی سے ثابت ہے اور نہ حرمت لعینہ ہے، بلکہ تنقیح خص اور اتابع ہوئی سے محفوظ رکھنے کے لئے مذہب بدلا ناجائز کہا گیا ہے، اس لئے اس کی حرمت ظنی الثبوت ہوگی، لہذا نہ صرف اضطرار بلکہ حاجت کے تحقیق پر بھی تبدیل مذہب اور افتاء بمنتهب الغیر کی اجازت ہوگی بشرطیکہ اس حاجت کو اہل علماء اس درجہ کا شمار کریں کہ اسے اضطرار کے درجہ میں رکھا جاسکے۔ چنانچہ حضرات فقہاء نے ضرورتِ عامہ، عموم بلوئی اور ضرورتِ خاصہ ان تینوں بنیادوں پر مذہب سے عدول کرنے کی اجازت دی ہے۔

## ضرورتِ عامہ کی بنیاد پر تبدیلی کی مثال

پہلے زمانہ میں علوم قرآنیہ کی تعلیم کے لئے جو حضرات علماء اپنے وقت کو فارغ کرتے تھے ان کے وظائف اسلامی حکومتیں بیت المال سے دیا کرتی تھیں، لیکن یہ سلسلہ بند ہوا تو عام ضرورت پیش آئی کہ تعلیم و تعلم بھی جاری رہے، اور علماء کی معاشی کفالت کا بھی انتظام ہو، اس لئے کہ اگر علماء مفت میں پڑھائیں گے تو معاش کا مسئلہ کیسے حل ہوگا؟ اور اگر معاش میں لگیں گے تو پڑھائی کیسے چلے گی؟ اور مشکل یہ تھی کہ مذہب احناف میں طاعات پر اجراء مطلقاً ناجائز ہے، جس میں تعلیم قرآن بھی شامل ہے۔ بریں بنا متاخرین نے عام ضرورت کا احساس کرتے ہوئے ضیاع دین کے

اندیشہ سے اس سلسلہ میں موالک و شافع کے مسلک کو اختیار کیا، اور تعلیم قرآن کی اجرت جائز ہونے کا فیصلہ فرمادیا۔ علامہ شامی نقل فرماتے ہیں:

اور خلاصۃ الفتاویٰ میں بسط سے نقل کرتے ہوئے لکھا ہے کہ طاعات یعنی تعلیم قرآن، تعلیم فقہ، اذان، وعظ، حج اور جہاد وغیرہ پر کسی کو اجرت پر رکھنا جائز نہیں ہے، یعنی اجرت ہی واجب نہیں ہوتی۔ اور اہل مدینہ کے نزدیک یہ معاملہ درست ہے، اور اسی قول کو امام شافعی، نصر بن یحییٰ، عاصم بن یوسف، ابو نصر فقیہ اور ابوالیث وغیرہ نے اختیار کیا ہے۔

وَمِنْ خُلَّاَصَةِ الْفَتاوَىٰ نَقْلًاً عَنِ الْأَصْلِ لَا يَجُوزُ الْاسْتَئْجَارُ عَنِ الطَّاعَاتِ كَتَّعْلِيمِ الْقُرْآنِ وَالْفَقْهِ وَالْأَذَانِ وَالتَّذْكِيرِ وَالْحَجَّ وَالْغَزْوَ وَيُعْنِي لَا يَجُوبُ الْأَجْرُ وَعِنْدَ أَهْلِ الْمَدِينَةِ يَجُوزُ وَبِهِ أَخْذُ الشَّافِعِيِّ وَنَصِيرِ وَعَصَامِ وَأَبُو نَصْرِ الْفَقِيهِ وَأَبُو الْلَّيْثِ رَحْمَهُمُ اللَّهُ تَعَالَىٰ (شفاء العلیل) وَبِلِ الْغَلِيلِ الْخَ. (رسائل ابن عابدین ۱/۱۵۴)

اس کے بعد آگے چل کر امام زیلیعی سے نقل کرتے ہیں:

اور آج کل فتویٰ تعلیم قرآن پر اجرت کے جواز کا ہے، اور یہ مشائخ بلخ میں سے متاخرین کا قول ہے، اور انہوں نے یہ قول اس تحساناً کیا ہے، اور یہ فرمایا ہے کہ مشائخ متقدمین نے اپنے زمانہ کے مشاہدہ پر جواب کی بنیاد رکھی تھی اس لئے کہ حفاظت کم تھے اور لوگ ان کی طرف راغب زیادہ تھے، اور ان کے عطیات بیت المال سے مقرر تھے ان۔

لیکن اب یہ سب باقیں خواب و خیال ہو گئیں، اب حفاظ کرام معاش میں مشغول ہو گئے اور بہت

وَالْفَتْوَىٰ الْيَوْمِ عَلَىٰ جَوَازِ الْاسْتَئْجَارِ لِتَعْلِيمِ الْقُرْآنِ وَهُوَ مَذْهَبُ الْمُتَأْخِرِينَ مِنْ مَشائِخِ بَلْخَ اسْتَحْسَنُوا ذَلِكَ وَقَالُوا بَنِي أَصْحَابِنَا الْمُتَقْدِمُونَ الْجَوَابُ عَلَىٰ مَا شَاهَدُوا مِنْ قَلْةِ الْحَفْظَةِ وَرَغْبَةِ النَّاسِ فِيهِمْ وَكَانَ لَهُمْ عَطَّيَاتٍ فِي بَيْتِ الْمَالِ الْخَ.

وَأَمَّا الْيَوْمُ فَذَهَبَ ذَلِكَ كَلَهُ وَاشْتَغَلَ الْحَفَاظُ بِمَعَاشِهِمْ وَقَلَ

کم لوگ حبۃ اللہ تعلیم دینے والے رہ گئے۔ اور وہ وقت بھی نہیں نکال پاتے، کیوں کہ ان کی ضروریات اس سے مانع رہتی ہیں۔ تو اب اگر اُجرت دے کر تعلیم کا دروازہ نہ کھولا گیا تو قرآن کریم کی تعلیم ضائع ہونے کا اندیشہ ہے (لہذا اب اُجرت کے جواز کا فتویٰ دینا ہوگا)

ما یعلم حسپةً ولا یتفرغون لہ  
أیضاً فیإن حاجتهم تمنعهم من  
ذلک فلو لم یفتح لهم باب  
التعلیم بالاجر لذهب القرآن  
الخ. (حوالہ بالا ۱۶۱۱)

تو معلوم ہوا کہ حاجت عامہ کی بنیاد پر اپنا مذہب چھوڑ کر دوسرے مذہب پر فتویٰ دیا جاسکتا ہے، جیسا کہ مسئلہ بالا میں متاخرین احناف نے عمل کیا، اور اس بنیاد پر مذہب غیر کو اختیار کرنا قصد محمود کی نشانی ہوگا۔

## عموم بلوی کی وجہ سے دوسرے مذہب پر عمل

اگر باغ کی فصل اس وقت پیچی جائے جب کہ کچھ پھل نکلے ہوں اور کچھ نہ نکلے ہوں، اور پھل پکنے تک چھوڑے رکھنے کا عرف عام ہو جائے تو اگرچہ ائمہ احناف کے ضابطہ کے مطابق یہ معاملہ ناجائز ہے، لیکن عموم بلوی کی بنیاد پس الائمه حلواتی نے جواز کا فتویٰ دیا ہے، اور یہی امام مالک کا قول ہے۔ (بدایۃ الجہد ۱۱۸/۲)

اس اعتبار سے یہ بر بناء عموم بلوی خروج عن المذہب کی مثال بن سکتی ہے۔ علامہ شامی اس مسئلہ میں ضرورت اور حاجت ثابت کرتے ہوئے تحریر فرماتے ہیں:

<p>میں کہتا ہوں کہ اس زمانہ میں ضرورت کا تحقیق مخفی نہیں ہے، خاص کر شام کے دمشق کے علاقے میں جہاں پھلوں اور باغات کی کثرت ہے۔ اس لئے کہ لوگوں میں جہالت کے غلبہ کی وجہ سے انہیں کسی شرعی طریقہ کے ذریعہ معاملہ کرنے کا پابند نہیں بنایا جاسکتا، اور اگر چند افراد ان پابندیوں</p>	<p>قلت لکن لا يخفى تحقق الضرورة في زماننا ولا سيما من مثل دمشق الشام كثيرة الأشجار والشمار فإنه لغبنة الجهل على الناس لا يمكن إلزامهم بالتخليص بأحد الطرق المذكورة وإن</p>
---	--

پر عمل بھی کر لیں تو عام لوگ ہرگز اس کے پابند نہیں رہ سکتے، اور ان کی عادت چھڑانا بہت تنگی کا باعث ہے۔ اور اس کے نتیجہ میں ان شہروں میں بچلوں کا کھانا بالکل حرام قرار دینا پڑے گا، اس لئے کہ ان کے علاوہ بچل وہاں بازار میں بیچھے ہی نہیں جاتے۔ اور جناب رسول اللہ ﷺ نے ضرورت کی بنابریع سلم کی رخصت عنایت فرمائی، حالاں کہ وہ معدوم شیء کی بیع ہے۔ تو جب یہاں بھی ضرورت متحقق ہے تو اسے بھی بیع سلم کے حکم کے ساتھ ماحصل کرنا دلالۃ ممکن ہے، اس اعتبار سے یہ بیع نص کے معارض نہ ہوگی، اسی بنابر جواز کے حکم کو علماء نے استحسان میں شمار کیا ہے، کیوں کہ قیاس تو عدم جواز کا متقاضی ہے۔ اور فتح القدير کے ظاہر کلام سے بھی جواز کی طرف رجحان معلوم ہوتا ہے، اسی وجہ سے صاحب فتح نے امام محمدؐ سے اس بارے میں روایت نقل کی ہے، بلکہ پہلے یہ بات گذرچکی ہے کہ شمس الائمه حلواتیؑ نے ہمارے اصحاب سے نقل کیا ہے کہ جب بھی معاملہ تنگی میں پڑ جاتا ہے تو اسے کشادہ کیا جاتا ہے، اور یقیناً اس اصول سے زیر بحث مسئلہ میں ظاہر الروایت سے

امکن ذلک بالنسبة إلى بعض أفراد الناس لا يمكن بالنسبة إلى عامتهم وفي نزعهم عن عادتهم حرج كما علمت ويلزم تحريم أكل الشمار في هذه البلدان إذ لاتباع إلا كذلك والنبي ﷺ إنما رخص في السلم للضرورة مع أنه بيع المعدوم فحيث تحققت الضرورة هنا أيضاً يمكن إلهاقه بالسلم بطريق الدلالة فلم يكن معارضأ للنص فلذا جعلوه من الاستحسان لأن القياس عدم الجواز وظاهر كلام الفتح الميل إلى الجواز ولذا أورد له الرواية عن محمدؐ بل تقدم أن الحلواني رواه عن أصحابنا وما صداق الأمر إلا اتساع ولا يخفى أن هذا مسوغ للعدول عن ظاهر الرواية. (شامی ۱۴/۵۵)

عدول کرنے کی گنجائش معلوم ہوتی ہے۔

حضرت حکیم الامت مولانا اشرف علی تھانویؒ کے ایک فتویٰ سے بھی یہی معلوم ہوتا ہے کہ عرف عام ہونے کی صورت میں عموم بلوئی کی بنابر مذکورہ معاملہ درست ہے۔ (دیکھئے امداد الفتاویٰ ۶۶/۳) اس سے معلوم ہوا کہ اگر اس طرح کی ضرورت پیش آنے کی بنابر مذہب کو ترک کیا جائے تو وہ بھی قصد محمود پر محمول ہو گا۔

## ضرورتِ خاصہ کی بنابر مذہب سے خروج

خاص اور انفرادی حاجتوں کی بنابر حضرات فقہاء تقریباً ہر زمانہ میں مذہب غیر پر فتویٰ دیتے رہے ہیں، اس سلسلہ کی بعض مثالیں ذیل میں پیش کی جاتی ہیں:

(۱) عورتِ ممتدۃ الطہر یعنی جسے بلوغ کے بعد ۳ روز حیض آ کر بند ہو گیا تو اگر اسی حالت میں وہ مطلقہ ہو جائے تو احناف کا مذہب یہ ہے کہ جب تک اسے تین حیض نہ آ جائیں تو وہ عدت میں ہی رہے گی۔ ظاہر ہے کہ یہ حکم عورت کے لئے نہایت مشقت کا باعث ہے، اس لئے علماء نے مشقت کودفع فرماتے ہوئے امام مالکؐ کے قول پر فتویٰ دیا کہ ۹ رہیئے گذرنے پر اس کی عدت ختم ہو جائے گی۔ علامہ شاہیؒ فرماتے ہیں:

اور اس مسئلہ کی نظر ممتدۃ الطہر عورت کی عدت کا مسئلہ ہے، یعنی وہ عورت جو تین دن حیض کا خون دیکھنے سے بالغ ہوئی پھر وہ برابر پاک رہنے لگی تو ہمارے یہاں حکم یہ ہے کہ وہ اس وقت تک عدت ہی میں رہے گی جب تک کہ تین حیض نہ آ جائیں۔ اور امام مالکؐ کے نزدیک ایسی عورت کی عدت ۹ رہیئے میں پوری ہو جائے گی، اور فتاویٰ بزاڑیہ میں لکھا ہے کہ ہمارے زمانہ میں

ونظیر ہلہذه المسئلة عدة ممتدۃ الطہر التي بلغت لرؤیة الدم ثلاثة أيام ثم امتد طهرها فإنها تبقى في العدة إلى أن تحيض ثلاث حيض وعندها مالک تنقضى عدتها بتسعة أشهر وقد قال في البزارية: الفتوى في زماننا على قول مالک وقال الزاهدی کان

فتویٰ امام مالکؓ کے قول پر ہے، اور علامہ زاہدیؒ  
نے فرمایا کہ ہمارے بعض اصحاب اسی قول پر  
ضرورت فتویٰ دیا کرتے تھے۔

بعض أصحابنا یفتون بہ  
للضرورة۔ (شامی کراچی ۲۹۶۱)

(۲) دائن اگر اپنے قرضہ کی جنس کا مال قرضہ کے بقدر مدیون کے گھر سے چوالے تو اس کی اجازت ہے، لیکن اگر خلافِ جنس مال چڑائے گا تو حنفیہ کے نزدیک اس کی اجازت نہیں، بلکہ جو م ثابت ہونے پر قطع یہ ہوگا۔ جب کہ اس بارے میں امام شافعیؓ کا قول یہ ہے کہ دائن مدیون سے اپنے قرضہ کے بقدر ہر طرح کا مال لے سکتا ہے، خواہ موافق جنس ہو یا خلافِ جنس۔ چوں کہ یہاں دائن کے حق کے احیاء کی ضرورت پائی جاتی ہے، لہذا متأخرین احناف نے بوقت ضرورت امام شافعیؓ کے قول کو اختیار کیا ہے، اور اسی کو منتظر ہے، ملتقی الابحر میں تحریر ہے:

اور اگر اس کا دین نقد تھا اور اس نے کوئی سامان مقرض سے چوالا یا تو اس کا ہاتھ کاٹا جائے گا، البتہ اس بارے میں امام ابو یوسفؓ کا اختلاف ہے۔ اور امام شافعیؓ نے خلافِ جنس مال لینے کی بھی اجازت دی ہے، کیوں کہ مالیت میں مماثلت پائی جاتی ہے۔ اور بختی میں فرمایا ہے کہ یہی امام شافعیؓ کا قول اوسع ہے لہذا ضرورت کے وقت اس قول پر عمل کیا جائے گا۔

اور علامہ شامی تھستانی سے نقل کرتے ہوئے تحریر فرماتے ہیں:

اور اس میں اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ دائن مدیون کا خلافِ جنس مال بھی (بلا اجازت) لے سکتا ہے، باشرطیکہ مالی برابری پائی جائے، اور یہ قول زیادہ وسعت کا باعث ہے۔ اور اس قول کو

وإن كان دينه نقداً فسرق عرضاً  
قطع خلافاً لأبي يوسف واطلق  
الشافعىُّ أخذ خلاف الجنس  
للمجانسة في الماليه قال في  
المجتبى و هو أوسع فيعمل به  
عند الضرورة۔ (ملتقى الابحر مع  
مجمع الأنهر ۱۲۶۱)

وفيه إيماء إلى أن له أن يأخذ من  
خلاف جنسه عند المجانسة في  
المالية وهو أوسع فيجوز الأخذ  
به وإن لم يكن مذهبنا فإن

اختیار کرنا درست ہے اگرچہ یہ ہمارا مذہب نہیں  
ہے، کیوں کہ انسان ضرورت کے وقت ایسے قول  
پر عمل کرنے میں معدود سمجھا جاتا ہے۔

الإِنْسَانُ يَعْذَرُ فِي الْعَمَلِ بِهِ عِنْدِ  
الْحُرْكَةِ. (شامی کراچی ۹۵۱۴)

## الْحَكِيلَةُ النَّاجِزَةُ كَمَسَائلٍ

حضرت اقدس مولانا اشرف علی تھانویؒ نے ”الْحَكِيلَةُ النَّاجِزَةُ“ میں جو مسائل مذہب غیرے  
لئے ہیں ان میں اصلاً دوالگ مسئلے ہیں۔ اول تو غیر اسلامی ممالک میں جماعت مسلمین کا  
قاضی کے قائم مقام ہونا ہے، اور دوسرے زوجہ مفقود کے بارے میں انتظار کی مدت طے کرنا ہے۔  
(جو مالکیہ کے نزدیک عام حالات میں مرافعہ کے بعد ۲۳ رسال اور خاص حالت میں کم از کم ایک  
سال ہے۔ (دیکھئے الحکیلۃ الناجزۃ ۵۹) ان میں سے پہلا مسئلہ یعنی جماعت مسلمین کا قاضی شرعی کے قائم  
مقام ہونا ضرورت عامہ میں داخل ہے، جب کہ زوجہ مفقود کا مسئلہ ضرورت خاصہ میں داخل ہے۔  
اور اب جب کہ امارت شرعیہ ہند قائم ہونے کے بعد اکثر علماء ہند ہندوستان میں انصب قضاۃ  
کے جواز کے قائل ہو گئے ہیں، تو اب اس معاملہ میں مذہب سے خروج کی کوئی وجہ نہیں رہی، بلکہ اب  
اس امارت کے نصب شدہ قضاۃ ہی فقہ حنفی کے مطابق زوجہ عنین، زوجہ محنوں، زوجہ متعنت وغیرہ کے  
مسائل حل کر سکتے ہیں، البتہ زوجہ مفقود کے لئے امام مالکؐ کے مذہب پر عمل جاری رہے گا۔

الغرض اس تفصیل سے معلوم ہو گیا کہ حاجت عامہ، عموم بلوئی اور ضرورت خاصہ کی بنیاد پر  
ترجیح دلیل کے بغیر دوسرے مذہب پر عمل اور فتویٰ کی گنجائش ہے۔ اسی طرح مجتهد مفتی دلیل کی ترجیح  
کی بنیاد پر مذہب سے خروج کرنے کا مجاز ہے، اور یہ تمام امور قصد محمود کی نشانیاں سمجھی جائیں گی۔

## قصدِ مذہب میں نشانیاں

اس کے مقابلہ میں درج ذیل تین چیزیں خاص طور پر قصدِ مذہب میں نشانی سمجھی جائیں گی۔  
(۱) مفتی مجتهد کا ترجیح دلیل کے بغیر دوسرے مذہب کو اختیار کرنا، یعنی نہ تو وہاں کوئی

ضرورت شرعی پائی جاتی ہو اور نہ مجتهد خود دوسرے قول کو راجح سمجھتا ہو، پھر بھی دوسرے مذہب کو کسی وجہ سے اختیار کر لے تو یہ منوع ہو گا۔ شیخ عبدالغنی نابلسی ارشاد فرماتے ہیں:

اور اگر مجتهد کی کسی مسئلہ میں دو رائے ہوں اور اس نے ایک رائے پر عمل کر لیا ہو تو عمل کردہ اس کے لئے متعین ہو جاتا ہے، اور خود عمل کے ذریعہ وہ اس قول کو نافذ کر دیتا ہے۔ لہذا اس قول سے اس وقت تک رجوع کرنا درست نہ ہو گا جب تک کہ دوسرے قول کی ترجیح ظاہر نہ ہو جائے۔

(۲) قصد مذموم کی دوسری نشانی یہ ہے کہ مفتی غیر مجتهد خواہ مخواہ بلا اہلیت و صلاحیت کے غیر مذہب پر فتویٰ دے، لہذا ایسے فتویٰ کا شریعت میں کوئی اعتبار نہ ہو گا۔ اس لئے کہ اسے تو صرف علماء و مشائخ مذہب کی رائے نقل کرنے کا حق ہے، اپنی طرف سے رائے دینے کا حق نہیں ہے، چنانچہ کہ مذہب سے خروج کا اختیار ہو، اصول بزدؤی میں تحریر ہے:

علماء و فقهاء کا اس بات پر اجماع ہے کہ مفتی کے لئے مجتهد ہونا ضروری ہے، اور اگر وہ خود مجتهد نہ ہو تو اس کے لئے فتویٰ دینا حلال نہیں ہے، الیہ کو وہ نقل کر کے فتویٰ دے۔

فإنه إذا كان له رأيين في مسألة وعمل بأحدهما يتعين له ما عمل به وأمضاه بالعمل فلا يرجع عنه إلى غيره إلا بترجح ذلك الغير. (خلاصة التحقيق ۵)

أجمع العلماء والفقهاء على أن المفتى يجب أن يكون من أهل الاجتهاد وإن لم يكن من أهل الاجتهاد فلا يحل له أن يفتى إلا بطريق الحكایة، ذكره (يعني في الكثر). بحواله شمس التحقيق ۴

(۳) قصد مذموم کی تیسرا بڑی نشانی یہ ہے کہ محض رخصتوں کی تلاش اور شہوات کی تکمیل کے لئے اپنے مذہب کو چھوڑ کر دوسرا مذہب اختیار کیا جائے، یہ بھی بالکل یہی منوع ہے۔ اور اس بنیاد پر خواہ مجتهد خروج کرے یا غیر مجتهد، کسی کو عدول عن المذہب کی ہرگز اجازت نہ ہوگی۔ جیسا کہ ابتداء میں وضاحت ہو چکی ہے۔

## ○ بحث نمبر: ۳ مسئلہ کی جانچ پر تال

جس مسئلہ کی طرف مذہب سے خروج کیا جا رہا ہے اس کے بارے میں یہ تحقیق بھی ضروری ہے کہ اسے اختیار کرنے میں کوئی شرعی خرابی تو لازم نہیں آ رہی ہے، اس بحث کو مزید مدقعہ کرنے کے لئے مسائل کا درج ذیل تجزیہ مناسب ہوگا:

(۱) ایسے مسئلہ کی طرف خروج جو حضرات صحابہ کی اجماعی یا قدر مشترک رائے کے خلاف ہو۔

(۲) ایسے قول کی طرف خروج جو مذاہب اربعہ کے بالکل خلاف ہو۔

(۳) ایسے مسئلہ کو اختیار کرنا جو مذاہب اربعہ میں سے کسی ایک کے خلاف ہو مگر اسی مذہب کے دیگر ائمہ کے موافق ہو، اور مشائخ مذہب سے اس کی ترجیحات بھی منقول ہوں۔

(۴) ایسے قول پر فتویٰ دینا جو اگرچہ اپنے امام کے رانچ مذہب کے خلاف ہو مگر اسی مذہب کے دیگر ائمہ کے موافق ہو، اور مشائخ مذہب سے اس کی ترجیحات بھی منقول ہوں۔

(۵) ایسی رائے کو لینا جو ایک ہی مذہب کے کسی نہ کسی امام سے منقول ہو، لیکن بعد کے مشائخ میں سے کوئی اس کا مویدہ نہ ہو۔

(۶) اپنے مذہب میں مسئلہ مصراحت نہ ہونے کی بنا پر دوسرے مذہب سے اس مسئلہ کا حکم معلوم کرنا۔

ان چھ صورتوں کے احکامات کی تفصیل ذیل میں درج کی جاتی ہے۔

### پہلی صورت

اگر مجموع الیہ مسئلہ اجماع صحابہ کے خلاف ہو تو اس پر فتویٰ دینا اور عمل کرنا مجتہد یا مقلد کسی کے لئے جائز اور درست نہیں ہے۔ جیسا کہ کتب اصول میں اس کی صراحة ہے، حتیٰ کہ اگر کسی مسئلہ میں صحابہ کے دو قول ہوں تو انہیں بالکلیہ چھوڑ کر تیسرا قول اپنانا بھی خلاف اجماع ہوگا۔ شیخ

عبد الغنی نابلسی فرماتے ہیں:

جب صحابہ دو قول میں اختلاف کریں تو ہمارے  
نزدیک ان دو کے علاوہ تیسرے قول کی نفی پر  
اجماع سمجھا جاتا ہے۔

إذا اختلف الصحابة في قولين  
يكون إجماعاً على نفي قول  
ثالث عندنا.

اور بعض متاخرین نے فرمایا کہ حق بات یہ ہے کہ  
اس طرح تفصیل کی جائے کہ اگر تیسرے قول  
سے اس رائے کا بطل لازم آتا ہو جس پر صحابہ  
فی الجملہ متفق رہے ہوں تو ایسا قول لینا جائز ہیں،  
اور اگر ایسا نہ ہو تو جائز ہے۔

وقال بعض المتأخرین: الحق هو  
التفصيل وهو أن القول الثالث إن  
استلزم إبطال ما أجمعوا عليه لم  
يجز أحداهه وإلا جاز. (توضیح  
وتلویح ۳۸۹، خلاصة التحقیق ۷)

معلوم ہوا کہ صحابہ ﷺ کا اجماع مطلق ہو یا اجماع مرکب (قد مرشّتک) اس کا خلاف کرنا

درست نہیں ہے۔

## اجماع مطلق کی مثالیں

اجماع مطلق کی بعض مثالیں درج ذیل ہیں:

(۱) التقائے ختنین کے موجب غسل ہونے پر سبھی صحابہ ﷺ کا اتفاق واجماع ہو گیا ہے۔  
اب کسی بھی شخص کے لئے یہ جائز ہیں ہے کہ وہ التقائے ختنین کے موجب غسل نہ ہونے کا قول  
کرے۔ (تفصیل دیکھئے شرح معانی الاتمار ۳۵)

(۲) متعہ کی حرمت پر صحابہ ﷺ کا اتفاق ہو چکا ہے۔ (ترمذی شریف ۲۱۳/۱) الہذا اب اگر کوئی  
مفتش متعہ کی حلیت کا قول کرے گا تو اس کا قول قطعاً قابلاً اعتبار نہ ہو گا۔

(۳) ایک مجلس کی تین طلاقوں کو قضائے تین ہی شمار کرنے پر صحابہ کا اجماع سکوتی اور انہے  
اربعہ کا اتفاق ہے، الہذا اس اجماعی رائے سے خروج کسی بھی حال میں اور کسی کے لئے بھی جائز ہیں

ہے۔ محقق ابن الہمام<sup>ؓ</sup> نے نہایت مدلل انداز میں اس مسئلہ پر صحابہ کے اجماع کو ثابت کر کے اخیر میں فرمایا ہے:

اسی بنیاد پر ہم نے کہا کہ اگر کوئی قاضی یہ فیصلہ کرے کہ ایک زبان سے بیک وقت دی گئی تین طلاق ایک کے حکم میں ہیں تو اس کا فیصلہ نافذ نہ ہوگا۔ اس لئے کہ اس مسئلہ میں اجتہاد کی گنجائش نہیں ہے، اور یہ خلاف ہے اختلاف نہیں ہے۔

وعن هذا قلنا لو حكم حاكم  
بأن الشلات هم واحدة لم ينفذ  
حكمه لأنه لا يسوغ الاجتهاد  
فيه فهو خلاف لا اختلاف.

(فتح القدير کوئنہ ۳۳۰/۱۳)

اس لئے عام طور پر جو یہ غلط فہمی پھیلائی جاتی ہے کہ مطلقہ ثلاثہ کسی اہل حدیث عالم سے عدم طلاق ثلاثہ کا فتویٰ حاصل کر لے تو اس کے لئے شوہراوں کے ساتھ رجوع کے بعد بلا حلالة رہنا جائز ہوگا، بالکل بھی توجہ کے قابل نہیں ہے۔ اس لئے کہ یہ رائے اجماع صحابہ کے خلاف ہے اور علامہ ابن تیمیہ<sup>ؒ</sup> کے ان تفروdat میں سے ہے جو خارقِ اجماع ہیں۔ (۱)

### اجماع مرکب کی مثالیں

اجماع مرکب یعنی اختلاف آراء کی صورت میں نقطہ اشتراک سے تجاوز کی وضاحت درج ذیل مثالوں سے ہوگی۔

(۱) حاملہ عورت کے شوہر کا اگر وضع حمل سے پہلے ہی انتقال ہو جائے تو اس کی عدت کب ختم ہوگی، اس سلسلہ میں حضراتِ صحابہ کی دو جماعتیں ہیں۔ جمہور کا قول یہ ہے کہ وضع حمل پر عدت ختم ہو جائے گی، جب کہ حضرت ابن عباس<sup>ؓ</sup> اور حضرت علی کرم اللہ و جہہ کے نزدیک وضع حمل اور عدتِ موت میں جزو مانہ لمبا ہواں کے ختم ہونے پر عدت کا مدار کھا جائے گا۔ (بدایۃ الجہد ۱/۲۷)

اب گویا کہ حق انہی دور ایوں میں منحصر ہو گیا، لہذا اگر کوئی شخص یہ کہنے لگے کہ صرف مہینوں پر عدت پورا ہونے کا مدار ہوگا، خواہ وضع حمل ہو یا نہ ہو، تو یہ ایسا قول ہوگا جو دونوں را ایوں کے خلاف (۱) علامہ ابن تیمیہ<sup>ؒ</sup> کے بہت سے اقوال امت کے سوادِ عظم کے خلاف ہیں۔ علامہ ابن حجر<sup>بنی</sup> یعنی<sup>ؒ</sup> نے فتاویٰ حدیثیہ میں ص ۸۷ پر ان کو شمار کیا ہے، تفصیل وہاں دیکھی جائے۔

ہوگا، بریں بنا اُسے اپنا نادرست نہ ہوگا۔ صاحب توضیح و تلویح فرماتے ہیں:

اور اس کی نظریہ ہے کہ صحابہؓ نے اختلاف کیا ہے کہ حامل موتی عنہا زوجہ کی عدت کیا ہے؟ تو بعض کے نزدیک وضع حمل اور عدتِ موت میں جوز یادہ لمبی ہو وہی عدت ہے، تو اب اگر کوئی یہ کہے کہ صرف عدتِ موت (۳۰ مہینے دس دن) عدت ہے خواہ وضع حمل ہو یا نہ ہو، یہ ایسا تیرا قول ہو گا جس کا کوئی قائل نہیں ہے۔ (آگے فرماتے ہیں) کیوں کہ وضع حمل سے قبل محض مہینوں سے عدت شمار کرنا اجماعاً مردود ہے، یا تو اس وجہ سے کہ واجب دونوں مدتوں میں سے لمبی مدت ہے، یا اس قول کی بنابر کہ وضع حمل عدت ہے۔ اسے اجماع مرکب کا نام دیا جاتا ہے، تو جو چیز قدر مشترک ہے یعنی محض مہینوں سے عدت کا مدار نہ ہونا یہ جمیع علیہ ہے۔

ونظیرہ انہم اختلفوا فی عدۃ حاملٍ توفی عنہا زوجها فعدۃ البعض تعتد ببعد الأجلین و عند البعض بوضع الحمل فلا استفادة بالأشهر قبل وضع الحمل قول ثالث لم يقل به أحدٌ (وقال بعد ذلك) فإن الاستفادة بالأشهر قبل الوضع منتفٍ إجماعاً أما لأن الواجب بعد الأجلين وأما لأن الواجب وضع الحمل، هذا يسمى إجماعاً مرکباً فما به الاشتراك وهو عدم الاستفادة بالأشهر مجتمع عليه. (التوضیح والتلویح ۳۴۹۱۳۵، خلاصة التحقیق ۱۸)

(۲) بھائیوں کی موجودگی میں دادا کوکل مال ملے گایا مقام سہ کے طریقہ پر ترک کی تقسیم ہوگی، اس بارے میں جمہور صحابہؓ کی رائے یہ ہے کہ دادا کل مال کا وارث ہوگا، اور اس کی موجودگی میں حقیقی اور علاقتی بھائی بہن محروم ہوں گے، جب کہ بعض صحابہؓ مثلاً حضرت زید بن ارقم رض اور حضرت عبداللہ بن مسعود رض وغیرہ حضرات کے نزدیک دادا کو ایک بھائی کے درجہ میں رکھ کر ترک کی تقسیم ہوگی۔ ان دونوں اقوال میں اتنی بات مشترک ہے کہ دادا ایسی صورت میں محروم نہ ہوگا، لہذا اگر کوئی شخص تیرا قول یا اختیار کر لے کہ دادا محروم ہو جائے گا تو اس کا یہ قول مبطل اجماع ہوگا۔

توضیح و تلویح میں ہے:

وَفِي الْجَدَّ مَعَ الإِخْرَاجَ اتَّفَاقَ  
الْفَرِيقَيْنَ وَاقِعٌ۔ (توضیح و تلویح ۳۵۰)

## فائدہ

یہاں یہ بات یاد رکھنی چاہئے کہ اگر صحابہؓ کے مختلف فیہ مسلک کے علاوہ کوئی تیسرا قول لیا جائے جس سے صحابہؓ کے اجماع مرکب اور قدرشتر کا ابطال نہ لازم آتا ہو تو ایسے قول کو اختیار کرنا مجتہد مطلق کے لئے فی الجملہ جائز ہے۔ مثال کے طور پر شہر میں جذام، برص، جنون، جب و عنہ اور رلق و قرن پائے جانے کی صورت میں بعض صحابہؓ کے نزدیک سب میں عورت کو حق فتح ثابت ہے، اور بعض کے نزدیک کسی میں حق فتح ثابت نہیں ہے۔ اب اگر کوئی شخص بعض میں حق فتح ثابت کرے اور بعض میں نہ کرے تو ایسی صورت میں وہ بالکلیہ اجماع کے خلاف کرنے والا نہ ہوگا، بلکہ زیادہ سے زیادہ ایک رائے پر عامل اور دوسرا رائے کا تارک کہلانے گا، یعنی جن چیزوں میں فتح ثابت کر رہا ہے ان میں قائلین فتح کا قبیع ہوگا، اور جن چیزوں میں فتح کا انکار کر رہا ہے ان میں مانعین فتح کی رائے لینے والا ہوگا۔ اور تیرے قول کے ممنوع نہ ہونے کی اصل وجہ یہ ہے کہ اصولاً یہ ضروری نہیں ہے کہ مجتہد صرف ایک ہی صحابی کی رائے کا پابند ہو، دوسرے کی رائے نہ لے سکے۔ بلکہ مجتہد کو اس طرح پابند بنانا اجماعاً باطل ہے۔ (تفصیل ملاحظہ فرمائیں: توضیح و تلویح ۳۵۰)

## دوسری صورت

اگر کسی عالم کا اختیار کردہ مسئلہ ایسا ہے جو ائمہ اربعہ میں سے کسی کے مذهب سے میل نہیں کھاتا تو اس صورت میں طبقات فقہاء میں دوسرے طبقہ یعنی مجتہدین منتسبین کو تو کسی درجہ میں چھوٹ دی جاسکتی ہے کہ وہ اپنے پایہ اجتہاد کی بدولت اس قول کو اختیار کر لیں، کیوں کہ وہ صرف اصول میں مجتہد مطلق کے مقلد ہیں، جزئیات میں وہ کسی کے پابند نہیں ہیں۔ شیخ عبدالغنی نابلسی لکھتے ہیں:

وَأَهْلُ الْاجْتِهَادِ الْمَقِيدُ يَجِبُ	أَهْلُ الْاجْتِهَادِ تَقْلِيدُهُمْ
اَصْوَلُ مِنْ لَازْمٍ ہے، مَگَرُ وَهُوَ جَزِئَاتٌ مِّنْ اَسْكَنٍ	عَلَيْهِمْ تَقْلِيدُ اَهْلِ الْاجْتِهَادِ

پابند نہیں ہیں، جیسے حضرات صاحبین<sup>ؐ</sup> اور ان کے درجہ کے فقہاء جو مجتہد مقید ہیں۔

المطلق في أصول مذاهبهم فقط  
دون الفروع كأبى يوسف  
ومحمد ونحوهما من أهل  
الاجتهاد المقيد. (خلاصة التحقيق ۱۶)

لیکن مجتہدین منتسبین سے نیچے درجہ کے کسی مجتہد یا مفتی کو ائمہ اربعہ سے خارج کسی قول کو اختیار کرنے کی اجازت نہ ہوگی۔

## مجتہدین منتسبین کا ائمہ اربعہ کے مسلک سے خروج

ذیل میں بعض ایسی مثالیں پیش کی جاتی ہیں جن میں مجتہد منتسب نے ایسی رائے اختیار کی ہے جو ائمہ اربعہ کی رائے کے خلاف ہے۔

(۱) امام زفر وغیرہ کے نزدیک تیم میں نیت شرط نہیں ہے، جب کہ بقیہ تمام ائمہ کے نزدیک تیم کی صحت کے لئے نیت شرط قرار دی گئی ہے۔ (ہدایہ ۱۵۱)  
امام زفر کا یہ مذہب ائمہ اربعہ کے خلاف ہے، لیکن چوں کہ وہ خود اجتہاد مقید کے درجہ پر فائز ہیں، اس لئے ان کا یہ قول اختیار کرنا منوع نہ ہوگا۔

(۲) امام ابو یوسف<sup>ؓ</sup> کے نزدیک جنبی کو حالتِ جنابت میں بلا وضو غسل سونے کی مطلقاً اجازت ہے، وضواس کے لئے مستحب نہیں ہے جب کہ جمہور علماء و ائمہ کے نزدیک جنبی کے لئے وضو کر کے سونا مستحب ہے، مگر امام ابو یوسف<sup>ؓ</sup> کا قول جمہور کے خلاف ہونے کے باوجود اپنی جگہ صحیح ہے، اس لئے کہ وہ مجتہد مقید ہیں۔ (طحاوی شریف ۱۵۷)

(۳) اگر مقتدی صرف دو ہوں تو جمہور ائمہ کے نزدیک امام آگے بڑھ کر نماز پڑھائے گا جب کہ اس صورت میں امام ابو یوسف<sup>ؓ</sup> فرماتے ہیں کہ امام دونوں مقتدیوں کے درمیان میں اسی صاف میں کھڑا ہوگا۔ (ہدایہ ۱۲۳)

امام ابو یوسف<sup>ؓ</sup> اس مسئلہ میں اگرچہ جمہور ائمہ کے خلاف رائے رکھتے ہیں، مگر ان جیسے مجتہد کے لئے ایسا کرنا جائز اور درست ہے۔

## ایک شبہ کا ازالہ

یہاں یہ شبہ نہ کیا جائے کہ جب ائمہ اربعہ کے خلاف رائے اپنا خلاف اجماع ہے تو ان مجتہدین منتسبین کے لئے کیسے جائز ہو گیا کہ وہ ائمہ اربعہ سے خروج کریں، اس لئے کہ بات اصل میں یہ ہے کہ مجتہدین منتسبین جو رائے بھی اپناتے ہیں وہ درحقیقت ان کے امام ہی کا کوئی نہ کوئی قول ہوتا ہے۔ چنانچہ یہ حضرات اس بات پر قسمیں کھایا کرتے تھے کہ ہم نے جو بھی قول اختیار کیا ہے وہ ماضی میں ہمارے امام کا قول رہ چکا ہے، چنانچہ علامہ شامی نقلم فرماتے ہیں:

قال أبو يوسف ما قلت قوله	خالفت فيه أبا حنيفة إلا قوله قد
امام ابو یوسف <sup>ؓ</sup> نے فرمایا کہ میں نے کوئی بھی ایسا قول اختیار نہیں کیا جس میں میں نے امام	کان قاله وروی عن زفر انه قال ما خالفت أبا حنيفة في شيء إلا
ابوحنیفہ کی مخالفت کی ہو، مگر وہ قول دراصل امام صاحب <sup>ؑ</sup> ہی کا ارشاد فرمودہ تھا۔ اور امام زفر <sup>ؓ</sup> سے مردی ہے کہ میں نے امام ابوحنیفہ کی مخالفت نہیں	قولاً قاله ثم رجع عنه۔ (شرح عقود
کی الایہ کہ ایسا قول اختیار کیا جو آپ نے پہلے فرمادیا تھا پھر اس سے رجوع کر لیا تھا۔	رسم المفتی ۶۵)

اس وضاحت سے معلوم ہوا کہ ان حضرات کا بظاہر ائمہ اربعہ کے خلاف رائے اپنا خلاف اجماع نہیں ہے کیوں کہ ان کے اقوال اپنے امام ہی کی روایتوں پر مبنی ہیں۔ واللہ اعلم۔

## تیسرا صورت

اگر اپنے مذهب کو چھوڑ کر ایسا قول اختیار کیا جا رہا ہے جو ائمہ اربعہ میں سے کسی ایک کے خلاف مگر دوسرے کے موافق ہے تو درج ذیل شرائط کے ساتھ اسے اختیار کرنے کی اجازت ہے۔

### پہلی شرط

ضرورت معتبرہ پائی جائے (جبیسا کہ ضرورت کی بحث میں تفصیل آچکی ہے)

## دوسری شرط

رخصت کے اتباع کا خیال نہ ہو بلکہ مجتهد اپنے اجتہاد کی بنا پر اس قول کو اختیار کر رہا ہو  
(جیسا کہ اہلیت کی بحث میں اس جانب اشارات گذر چکے ہیں)

## تیسرا شرط

جو قول لیا جائے وہ اس امام کی تمام شرائط و آداب کی رعایت کے ساتھ لیا جائے، چنانچہ علامہ شامی<sup>۱</sup> نے ضرورت کے وقت جمع بین الصلا تین کی اجازت پر روشنی ڈالتے ہوئے تحریر کیا ہے کہ ایسا ضرورت مند حنفی جب جمع بین الصلا تین کرے گا تو اسے مذہب شافعی کے مطابق حالت اقتداء میں سورہ فاتحہ پڑھنی ہوگی، اسی طرح وضو کے بعد مس ذکر اور مس مرأۃ سے اجتناب کرنا ہوگا۔ (دیکھئے:

شامی ۳۸۲/۱، بحر الرائق ۲۵۷/۱، اعلاء السنن مقدمہ ۸۶/۲)

اور مختار میں ہے:

ولا بأس بالتقليد عند الضرورة لكن بشرط أن يلتزم جميع ما يوجبه ذلك الإمام لما قدمنا أن الحكم الملفق باطل بالإجماع۔ (در مختار ۳۸۲/۱)

## چوتھی شرط

اور چوتھی اہم ترین شرط یہ ہے کہ اس قول کو اختیار کرنے سے تلفیق خارج اجماع نہ لازم آرہی ہو۔

## تلفیق کیا ہے؟

اس شرط کو سمجھنے کے لئے تلفیق کے لغوی اور اصطلاحی معنی اور اس کے اقسام کو جان لینا ضروری ہے۔ تلفیق کے لغوی معنی ایک چیز کو دوسری چیز کے ساتھ ملانے کے آتے ہیں۔

مجمع لغة الفقهاء میں تحریر ہے:

التلفيق ضم شفهٰ إلى أخرى۔ تلفیق ایک حصہ کو دوسرے حصہ سے ملانے کا نام

ہے۔

(معجم لغة الفقهاء ۴/۱۴)

اور اصطلاحی تعریف یہ ہے:

ایسا کام کرنا جس میں کئی مذاہب اس طرح جمع ہو جائیں کہ کسی بھی مذہب کے اعتبار سے وہ عمل صحیح قرار دینا ممکن نہ رہے۔

القيام بعمل يجمع فيه بين عدة مذاہب حتى لا يمكن اعتبار هذا العمل صحیحاً في أيٍّ منهٍ من المذاہب. (معجم لغة الفقهاء ۱۴۴)

اور صاحب قواعد الفقه نتفیق کی تعریف اس سے زیادہ عام الفاظ میں فرمائی ہے، آپ فرماتے ہیں:

تفیق کے معنی خواہش نفس کے تابع ہو کر رخصتوں کا تلاش کرنا ہے۔  
التفیق تتبع الرخص عن الھوی.  
(قواعد الفقهاء ۲۳۶)

ان تعریفات سے یہ بات نکھر کر سامنے آگئی کہ اصل میں لفظ تلفیق کا اطلاق حقیقتہ اس شکل پر ہی ہو گا جس میں (عمل واحد کی صورت میں) خرق اجماع لازم آرہا ہو، اور (دولم میں ہونے کی شکل میں) تنبع رخص پائی جا رہی ہو، ان دونوں صورتوں کے علاوہ جو تلفیق کی (جائز) شکلیں ہیں وہ حقیقت میں تلفیق نہیں بلکہ مجاز اُن پر تلفیق کا اطلاق کیا جاتا ہے۔ ہماری اس توجیہ و تطیق سے وہ اشکالات حل ہو جائیں گے جو تلفیق کے بارے میں فقهاء کی بعض متصاد عبارتوں سے معلوم ہوتے ہیں کہ بعض عبارات میں نفس تلفیق ہی کو منوع قرار دیا گیا ہے، اور بعض میں تلفیق کی اجازت دی گئی ہے، تو جہاں منع ہے وہ تلفیق حقیقی ہے اور جہاں اجازت ہے وہ تلفیق مجازی ہے۔

## تفیق حقیقی

تفیق کی حقیقی شکل کو پیش نظر رکھ کر شیخ عبدالغنی نابلسی فرماتے ہیں:

جب کوئی عبادت یا معاملہ ملا جلا کر اس طرح انجام دے کہ ہر مذہب سے ایسا قول ہے جس کا قائل دوسرے مذہب والا نہ ہو، اور وہ معاملہ

متى عمل عبادة أو معاملة ملتفقة  
أخذًا لها من كل مذهب قوله  
لا يقول به صاحب المذهب

مذاہب اربعہ کی حدود سے خارج ہو جائے اور ایک پانچواں مذہب بن جائے تو ایسی عبادت باطل ہے، اور ایسا معاملہ صحیح نہیں ہے اور ایسا کام کرنے والا شخص دین سے کھلواڑ کرنے والا ہے۔

الآخر فقد خرج عن المذاهب الأربعه واحتى لف له مذهبًا خامسًا فعبادته باطلة ومعاملته غير صحيحة وهو متلاعب في الدين

الخ. (خلاصة التحقيق ۱۷)

اسی بنا پر استاذ ابوالحق اسفرائیں سے نقل کیا گیا ہے کہ انہوں نے فرمایا کہ ہم مجتہدین کے بیس ہزار ایسے اقوال جانتے ہیں کہ جن کا خلاف کرنے سے عمل کا باطل ہونا لازم آتا ہے۔ (مشائقین فی ابطال التفیق ۱۲) ذیل میں تتفیق حقیقی کی چند مثالیں ملاحظہ فرمائیں۔

(۱) وضو کرنے کے بعد پچھنے لگوائے، اور عورت کو مس کر لیا، تو کسی امام کے نزدیک اس کا وضو باقی نہیں رہا۔ حنفیہ کے نزدیک تو اس لئے کہ خروج دم پایا گیا، اور دیگر حضرات کے نزدیک اس لئے کہ مس عورت کا تحقیق ہوا، الہذا یہ عمل ملحق بالاجماع باطل ہو گیا، اور اس وضو سے پڑھی گئی نماز کا اعتبار نہ ہو گا۔

توضیح میں لکھا ہے:

اس لئے کہ جو شخص پچھنے لگوائے اور عورت کو مس کر لے تو اس کی نماز بالاجماع درست نہیں ہے، ہمارے نزدیک اس لئے کہ اس نے پچھنے لگوائے (اور خون کا خروج ہو گیا) اور امام شافعی کے نزدیک اس لئے کہ اس نے عورت کو چھوپیا (جو ان کے نزدیک ناقص وضو ہے)

(۲) کوئی شخص امام مالک کے مذهب پر عمل کرتے ہوئے ایسے دوقلہ سے کم پانی سے وضو کرے جس میں نجاست پڑی ہو اور پھر مس کرتے وقت سر کا استیغاب نہ کرے (جو مالکیہ کے نزدیک فرض ہے) بلکہ بعض سر پر مسح کرے تو شخص تتفیق حقیقی کا مرتكب ہے، ایسی صورت میں اس کا

فإن من احتجم ومس المرأة لتجاوز صلاته بالإجماع أما عندنا فلا احتجاج وأما عند الشافعى فللمس. (التوضيح ۳۵۲)

وضو بالاجماع باطل ہوگا، مالکیہ کے نزدیک اس وجہ سے کہ اس نے استیغاب نہیں کیا، اور دیگر ائمہ کے نزدیک اس لئے کہ اس نے دوقلہ سے کم نجس پانی سے وضو کیا ہے۔ صاحب شمس التحقیق فرماتے ہیں:

مثلاً كُوئي شخص دوقلہ سے کم ایسے پانی سے وضو کرے جس میں نجاست پڑی ہو پھر پورے سر پر مسح کے بجائے سر کے بعض حصہ پر مسح کر کے نماز پڑھ لے تو کسی کے نزدیک بھی نماز درست نہ ہوئی۔	<b>مثلاً صلی المتصوّر من دون قلتین فيه نجاست ماسحاً بعض رأسه.</b> (شمس التحقیق ۱۴)
---	--

(۳) مالکیہ کے نزدیک وضو میں اعضاءِ مغسولہ کو رکڑنا ضروری ہے، اور وضو کے بعد عورت کو بلا شہوت چھونانا قرض وضو نہیں ہے، جب کہ شافعیہ کے نزدیک مس مرأۃ ناقض وضو ہے، اور دلک ضروری نہیں ہے۔ اب اگر کوئی شخص رکڑنے کے ضروری نہ ہونے کے متعلق امام شافعیؒ کے قول کو لے، اور مس مرأۃ کے ناقض نہ ہونے کے بارے میں امام مالکؐ کے قول پر عمل کرے تو دونوں میں سے کسی کے نزدیک اس کا وضو صحیح نہ ہوگا۔ امام مالکؐ کے نزدیک اس لئے کہ رکڑنا نہیں پایا گیا، اور شوافع کے یہاں اس لئے کہ مس مرأۃ پایا گیا، لہذا اس تلفیق کی بنابرائے وضو سے پڑھی گئی نماز درست نہ ہوگی۔ علامہ ابن ہمامؓ فرماتے ہیں:

پس جو شخص دھوئے جانے والے اعضاء کے رکڑنے کے فرض نہ ہونے کے مسئلہ میں امام شافعیؒ کی تقلید کرے، اور عورت کو بلا شہوت چھونے سے وضو نہ ٹوٹنے کے مسئلہ میں امام مالکؐ <sup>ؑ</sup> کے نزدیک کی پیرودی کرے، پھر وہ وضو کرے اور شہوت کے بغیر عورت کو چھوکر نماز پڑھ لے تو اس	<b>فمن قلد الشافعیؒ في عدم فرضية الدلک للأعضاء المغسولة في الوضوء والغسل ومالكؐ في عدم نقض اللمس بلا شهوة للوضوء فتوضأ ولمس بلا شهوة وصلى إن كان الوضوء بذلك صحت</b>
---	--

نے اعضاء مغولہ کو رکھ کر وضو کیا ہے تو اس کی نماز  
امام مالک<sup>ؓ</sup> کے نزدیک درست ہو جائے گی لیکن  
اگر رکھے بغیر وضو کیا ہے تو امام مالک<sup>ؓ</sup> اور امام  
شافعی<sup>ؓ</sup> کے نزدیک نماز درست نہ ہوگی۔

(۲) احتفاف کے نزدیک نکاح کی صحت کے لئے گواہوں کا ہونا ضروری ہے لیکن ولی ہونا  
ضروری نہیں ہے، جب کہ مالکیہ کے نزدیک گواہ ضروری نہیں مگر ولی کا ہونا ضروری ہے۔ اب اگر  
کوئی شخص حنفیہ کی تقلید کرتے ہوئے ولی کو ضروری قرار نہ دے، اور مالکیہ کا قول لیتے ہوئے گواہوں  
کی موجودگی ضروری نہ سمجھے، اور بلا ولی اور بلا گواہ نکاح کرے تو وہ حقیقت تلفیق کرنے والا ہوگا، اور  
دونوں اماموں میں سے کسی کے نزدیک بھی اس کا نکاح صحیح نہ ہوگا، اور اگر اس طرح نکاح کے بعد  
وطی کرے گا تو اسے حد لگائی جائے گی۔

صاحب خلاصۃ التحقیق نقل کرتے ہیں:

اور اگر بغیر ولی اور بغیر گواہوں کی موجودگی کے  
دونوں امام کی تقلید کرتے ہوئے نکاح کر لے تو  
حد لگائی جائے گی، جیسا کہ امام رفعی<sup>ؓ</sup> نے فرمایا  
ہے۔ اس لئے کہ دونوں امام، امام ابوحنین<sup>ؓ</sup> اور امام  
مالک<sup>ؓ</sup> ایسے نکاح کے باطل ہونے پر متفق ہیں۔

صلاتہ عند مالک<sup>ؓ</sup> وإن كان بلا  
دلک بطلت عندهما أى عند  
الشافعی<sup>ؓ</sup> و مالک<sup>ؓ</sup>۔ (التحریر بحوالہ  
خلاصۃ التحقیق ۲۰)

ولو نکح بلا ولی ولا شهود ايضاً  
تقلیداً لهما حد كما قاله الرافعی  
لأن الإمامين أبا حنيفة و مالكا  
اتفقاً على البطلان۔ (خلاصۃ  
التحقیق ۲۱)

## تلفیق حقیقی کا حکم

حقیقی تلفیق کا حکم یہ ہے کہ وہ کسی بھی حال میں کسی کے لئے بھی جائز نہیں ہے، خواہ اسے  
اختیار کرنے والا مجتہد ہو یا مقلد۔ اور چاہے اُسے ضرورةً اختیار کیا جائے یا بلا ضرورت، اسی لئے  
علامہ عبدالغنی نابلسی<sup>ؓ</sup> فرماتے ہیں:

جب خود مجہد کے لئے اس کے اجتہاد کے تقاضہ کے باوجود تلفیق کی اجازت نہیں جیسا کہ ہم نے بیان کر دیا، تو مقلد عاجز کے لئے (اس کا کیسے تصور کیا جا سکتا ہے)

اور علامہ موصوف<sup>ؒ</sup> نے شیخ محمد بغدادی<sup>ؒ</sup> کے حوالہ سے لکھا ہے:

اور یہ عوام کے لئے سب سے مشکل شرط ہے، اسی وجہ سے علماء نے فرمایا کہ عوام کو اپنے امام کو چھوڑ کر دوسرے امام کی تقلید سے مخالفت کا سبب یہ بھی ہے کہ وہ ایسے معاملہ میں پڑ سکتے ہیں جو بالاتفاق منوع ہو، اور انہیں اس کا پتہ نہ چل پائے۔ اور اسی بناء پر فقهاء نے فرمایا کہ عام شخص کے لئے اس وقت تک دوسرے امام کی تقلید جائز نہیں جب تک کہ وہ اپنی خاص پیش آمدہ صورت کے بارے میں علماء سے استفتاء حاصل نہ کر لے۔

الغرض تلفیق کی یہ خارق اجماع صورت بہر حال منوع ہے، اور حضراتِ فقهاء عموماً اپنی عبارتوں میں تلفیق سے اسی منوع صورت کو مراد لیتے ہیں، بعض حضرات نے قاضی خاں کی بعض عبارتوں سے، اسی طرح علامہ ابن نجیم<sup>ؒ</sup> کی بعض احادیث سے تلفیق کے جواز پر استدلال کیا ہے مگر وہ صحیح نہیں ہے، اس لئے کہ اولاً ان محتمل عبارتوں کو تلفیق کی مخالفت پر آمده صریح عبارتوں پر ترجیح نہیں دی جاسکتی، دوسرے یہ کہ وہ سب تلفیق مجازی کی صورتیں ہیں، جن میں خرق اجماع لازم نہیں آتا۔ اس بحث کو ختم کرتے ہوئے شیخ عبدالغنی نابلسی<sup>ؒ</sup> نہایت زور دار انداز میں لکھتے ہیں:

اور خلاصہ یہ کہ یہ تمام وجوہات جن سے خارق

إذا كان المجتهد لا يسوغه التلفيق إذا أدى اجتهاده إليه على حسب ما قدمنا فكيف بالمقد المعاصر. (خلاصة التحقيق ۲۵)

وهذا الشرط أصعب الشروط على العوام ولهذا قالوا سبب منع العوام عن التقليد خوف وقوعهم فيما يمتنع بالاتفاق وهم لا يعلمون ولذلك قالوا لا يصح للعامي التقليد إلا بالاستفتاء عن خصوص ما أراد تقليده. (خلاصة التحقيق ۲۱)

والحاصل أن جميع هذه الوجوه

اجماع تلفیق کا قائل یہ شخص استدلال کرتا ہے بالکل فاسد ہیں، ان کا کوئی اعتبار نہیں، اور ان میں سے کسی بھی درجہ کا کچھ بھی لحاظ نہیں رکھا جاسکتا۔ اس لئے کہ وہ تلفیق کی صراحت مخالفت کے حکم کے معارض و مخالف ہے۔

الى استدل بها هذا القائل بالتل菲ق الخارج للإجماع المعتبر بذلك فاسدة لا اعتداد بها ولا يجوز اعتبار ذلك منه لمخالفته للصريح في منع التلفيق كما ذكرنا. (خلاصة التحقيق ۲۵)

## تلفیق مجازی

تلفیق کی دوسری شکل وہ ہے جس پر محض لغوی معنی کے اعتبار سے تلفیق کا اطلاق کیا جاتا ہے، درحقیقت وہ تلفیق نہیں ہے اس لئے کہ ہم نے اسے مجازی تلفیق کا نام دیا ہے۔ اس کی اگر ہم تعریف کرنا چاہیں تو اس طرح کر سکتے ہیں کہ ”دوسرے مذہب کو اس طرح اختیار کرنا کہ اس سے کوئی امر خارق اجماع نہ لازم آتا ہو“، تلفیق مجازی کی صورت اس وقت پیش آتی ہے جب کہ دو الگ الگ مسئللوں میں الگ الگ امام کی رائے لی جائے، یا ایک ہی مذہب کے ائمہ کے مختلف اقوال جمع کرنے جائیں، غور کیا جائے تو اس طرح کی تلفیق کی تین صورتیں متصور ہو سکتی ہیں:

**الف:** پہلی صورت یہ ہے کہ ایسے دو مستقل مسئللوں میں تلفیق کی جائے جو آپس میں ایک دوسرے سے مربوط ہوں، مثلاً وضو میں چوتھائی سر سے کم پرمسح کیا اور نماز میں قراءت فاتحہ خلف الامام چھوڑ دی یعنی وضو شافعیہ کے مطابق کیا اور نماز حنفیہ کے مطابق پڑھی، تو بظاہر اس میں خرق اجماع نظر آتا ہے، کہ وضو حنفیہ کے نزدیک درست نہ ہوا اور نماز شافعیہ کی نظر میں صحیح نہ ہوئی، مگر چوں کہ یہ تلفیق الگ الگ اعمال میں ہے اس لئے اسے تلفیق حقیقی کی طرح منوع نہ کہیں گے۔ (دیکھئے الحیلة الناجزة حاشیہ ۳) مگر چوں کہ وضو اور نماز کے اعمال میں ارتباط پایا جاتا ہے اس لئے یہ صورت غیر محسن ہے، اختیاط یہ ہے کہ اسے اختیار نہ کیا جائے۔

**ب:** دوسری صورت یہ ہے کہ الگ الگ دو مسئللوں میں دو اماموں کا قول لیا جائے یعنی ایک

مسئلہ کا دوسرے مسئلہ کی صحت و حرمت سے کوئی تعلق نہ ہو۔ مثال کے طور پر حفیہ کے نزدیک مس بالشہود کی وجہ سے حرمت مصاہرات ثابت ہو جاتی ہے، جب کہ مالکیہ کے نزدیک بعض صورتوں میں مس بالشہود سے حرمت مصاہرات ثابت نہیں ہوتی۔ (مثلاً وہ صورت جب کہ بیوی سمجھ کر بیٹی کو چھوٹے وغیرہ) یہ تو ایک مسئلہ ہوا، دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ حفیہ کے نزدیک جماعت مسلمین قاضی کے قائم مقام ہو جاتی ہے۔ تو اگر کوئی شخص حرمت مصاہرات کے بارے میں حفیہ کی رائے پر عمل پیرا ہو، اور جماعت مسلمین کے قاضی کے قائم مقام ہونے کے بارے میں مالکیہ کا مذہب اختیار کر لے، تو یہ دو ایسے مسئللوں میں تلفیق کرنے والا ہوگا جو آپس میں ایک دوسرے سے مربوط نہیں ہیں۔ (دیکھئے حاشیہ الحجۃ الناجڑۃ ۸۷) یہ بھی حقیقی تلفیق نہیں بلکہ مجازی تلفیق کی صورت ہے، اور شرائط کے ساتھ اسے اختیار کرنا جائز ہے۔

ج: تلفیق مجازی کی تیسری صورت یہ ہوتی ہیکہ ایک ہی مذہب کے دو اقوال کو آپس میں ملا دیا جائے خواہ ایک ہی مسئلہ میں کیوں نہ ہو، مثلاً حفیہ میں سے حضرات طرفینؐ کا مسلک یہ ہے کہ محروم ایامِ آخر میں اگر خارجِ حرم حلق یا قصر کرے تو اس پر دم واجب ہے، جب کہ امام ابو یوسفؓ کا مذہب یہ ہے کہ خارجِ حرم حلق و قصر دونوں صورتوں میں کوئی دم واجب نہیں ہے۔ (ہدایہ ۲۷۶)

اب کوئی شخص حلق کی صورت میں طرفینؐ کا مذہب اختیار کرے اور قصر کی صورت میں امام ابو یوسفؓ کے مسلک پر عمل کرے تو یہ بھی تلفیق مجازی کی صورت ہوگی، اور اہلیت رکھنے والے شخص کو شرائط کے ساتھ اسے اختیار کرنے کی اجازت دی جائے گی۔ اور جواز کی وجہ یہ ہے کہ دونوں مذہبوں کے اصول ایک ہی ہیں، اس لئے ان میں تلفیقِ حقیقی کی صورت نہیں پائی جاسکتی۔

## تلفیق مجازی کا حکم

جیسا کہ درمیان میں اشارہ یہ بات معلوم ہو چکی ہے کہ مجازی تلفیق کی مذکورہ تینوں شکلیں فی الجملہ جائز ہیں، ان میں اول فتح عالم حالات میں غیر مستحسن ہے، جب کہ بقیہ دو شکلیں غیر مستحسن بھی نہیں ہیں، مگر تلفیق مجازی اختیار کرتے وقت درج ذیل شرائط کا لحاظ رکھنا پھر بھی ضروری ہوگا:

**الف: الہیت اجتہاد رکھنے والا شخص یا ذی رائے اشخاص اس تلفیق کو اختیار کریں۔** (مستفاد

شرح عقود معمولی ۲۹)

**ب: کوئی شرعی ضرورت پائی جائے** (جس کا بیان پہلے آچکا ہے)

**ج: اس دوسرے مذہب کا کوئی مفتی یا قاضی موجود نہ ہو، اگر موجود ہوگا تو اسی سے مبتلى بہ رجوع کرے گا، اپنے مذہب کے مفتی کو ایسی صورت میں تلفیق کی ضرورت نہ ہوگی، چنانچہ الحیلة الناجزة میں مالکیہ کے مسلک پر جماعت مسلمین کو قاضی کے قائم مقام بنانے کے متعلق یہ ہدایت تحریر کی گئی ہے، ملاحظہ فرمائیں:**

ایک امریہ بھی قبل لحاظ ہے کہ اگر کسی جگہ مالکی قاضی بھی ہو، یا جہاں بالکل قاضی نہیں، اگر وہاں مالکی لوگوں کی پنجابیت ہو تو حنفی قاضی اور حنفی پنجابیت کی طرف رجوع نہ کیا جائے اور اگر کوئی رجوع کرے تو ان کو مالکی مذہب پر فیصلہ کرنے کی ضرورت نہیں، بلکہ مالکی قاضی یا مالکی پنجابیت میں معاملہ بھیج دیا جائے۔ (الحلیلة الناجزة ۲۳)

حاصل یہ کہ مذکورہ تین جامع شرائط کے ساتھ تلفیق مجازی کو اختیار کرنے کی گنجائش ہے۔

## پانچویں شرط

ائمہ اربعہ کے مذاہب کی طرف خروج کرنے کی ایک اہم شرط یہ ہے کہ جس مسئلہ کو اختیار کیا جا رہا ہے اس پر پہلے عمل نہ کیا ہو۔ اگر کسی وقت ایک امام کے قول پر عمل کیا اور دوسرے وقت دوسرے امام کا قول لے لیا تو یہ بھی ( بلا ضرورت اور بلا تبدیلی اجتہاد) جائز نہ ہوگا۔ مثلاً جب حق شفعہ لینے کا وقت آئے تو کوئی شخص حفیہ کے قول پر عمل کرتے ہوئے ”جوار“ کی بنیاد پر حق شفعہ کا دعویٰ کر دے، اور جب حق شفعہ کا دعویٰ اپنے اوپر ہو جائے تو کہے کہ میں امام شافعی کے مذہب کو لیتا ہوں، جن کے نزدیک ”جوار“ کی صورت میں حق شفعہ ثابت نہیں ہوتا، تو اس کا اس طرح دو وقتوں میں الگ الگ مذہب کو لینا درست نہیں ہے، اس لئے کہ تقلید کے بعد خواہ مخواہ اس کا ترک خلاف اجماع ہے۔ شیخ عبدالغنی نابلسیؒ کی درج ذیل وضاحت سے اس شرط پر کافی روشنی پڑتی ہے:

ابن الہمام نے فرمایا: اور اجتہادی مسئلہ میں تقید کرنے والے کا حکم بھی مجتہد کے مانند ہے، یعنی جب کسی مسئلہ میں مجتہد کی دو رائیں ہوں اور وہ ان میں سے ایک پر عمل کرے تو وہی رائے اس کے لئے معین ہو جاتی ہے اور نافذ ہوتی ہے، حتیٰ کہ دوبارہ دوسری رائے کی ترجیح کے بغیر اس کے لئے اس عمل کردہ رائے سے رجوع درست نہیں ہوتا ہے، مثلاً کسی شخص پر قبلہ مشتبہ ہو جائے کہ کس جہت میں ہے، تو جس جہت کو قبلہ بنالے گا وہی جہت قبلہ کے لئے معین ہو جائے گی جب تک کہ دوسری جہت کے قبلہ ہونے کی وجہ ترجیح نہ پائی جائے۔ اسی طرح قاضی جب اپنی دورایوں میں سے ایک رائے پر فیصلہ کر دے تو بھی یہی حکم ہے، بالکل اسی طرح مقلد جب کسی ایک مذهب کے حکم کی پیروی کرے تو وہ اس مذهب سے دوسرے مذهب کے حکم کی طرف رجوع نہیں کر سکتا۔

اس عبارت سے معلوم ہو رہا ہے کہ تقید کے بعد اس سے رجوع کرنا اسی وقت ممنوع ہے جب کہ کوئی ضرورت نہ پائی جائے، اور مجتہد اپنے اجتہاد سے دوسرے مذهب کو ترجیح نہ دے، لہذا اگر ضرورت پائی جائے گی یا کوئی مجتہد اپنے اجتہاد کی بنیاد پر دوسرے قول کو ترجیح دے گا تو اس کا یہ عمل درست رہے گا۔ اسی بناء پر مقلد مجتہد کے لئے یہ جائز ہے کہ ایک وقت کسی امام کے مذهب پر نماز پڑھے پھر اپنے اجتہاد کے بدل جانے کی وجہ سے دوسرے امام کے مذهب کو اختیار کر لے اور

قال ابن الہمام و حکم المقلد فی المسئلۃ الاجتہادیۃ کالمجتہد فإنه إذا كان له رأیين فی مسئلۃ و عمل بأحدهما يتعین له ما عامل به وأمضاه بالعمل فلا يرجع عنه إلى غيره إلَّا بترجمیح ذلك الغیر كمن اشتبهت عليه القبلة في جهتين أو جهاتٍ فاختار واحدةً يتعین له هذه الجهة مالم يرجح الأخرى. وكذا القاضی فيما له رأیین فيه بعد أن حکم وأمضاه بالحكم فی أحدهما، فالمقلد إذا عمل بحكم من مذهب لا يرجع عنه إلى آخر من مذهب آخر. (خلاصة التحقیق ۵)

اسی کے مطابق نماز پڑھے، تو یہ اس کے لئے جائز ہوگا۔ یہ ساری تفصیلات فقیہ اور مقلد محقق کے لئے ہیں، ورنہ عامی آدمی تو صرف اپنے مذہب کے مفتی کی تابع داری کرے گا اور مفتی اس کی ضرورت دیکھ کر فتویٰ صادر کرے گا۔

## چوتھی صورت

جس مسئلہ کی طرف خروج کیا جا رہا ہے اگر وہ اپنے مذہب ہی کے کسی مجتہد منتب کا قول ہے تو اگر اکثر مشائخ نے اس پر فتویٰ دیا ہے تو وہ ہی عمل کے لئے متعین ہے۔ (شرح عقود رسم المفتی ۸۹) اور اگر اکثر مشائخ اس کے خلاف رہے ہیں لیکن ایک معتمد بہ جماعت کا رجحان مجتہد منتب کے قول کی طرف بھی ہے، تو طبقاتِ فقهاء میں سے تین سے چھ طبقات تک کے حضرات کو دلیل کی بنیاد پر مذہب کے غیر راجح قول کو ترجیح دینے کی اجازت دی جائے گی، اور ان سے نیچے طبقے کے حضرات بھی مجتہدین کی رائے پر عمل کر سکتے ہیں۔ چنان چہ علامہ شامیؒ فرماتے ہیں:

اور البح الرائق کا کلام اس بات پر صریح ہے کہ  
محقق ابن الہمام ترجیح کی اہلیت رکھتے ہیں،  
کیوں کہ صاحب بحر نے ان کے بارے میں  
فرمایا ہے کہ وہ دلیل میں غور و فکر کی صلاحیت رکھتے  
ہیں، لہذا ہمارے لئے تحقیق کردہ اور راجح کردہ  
اقوال و روایات کی اتباع کی گنجائش ہے، بشرطیکہ  
وہ اقوال مذہب سے بالکل یہ خارج نہ ہوں۔

اس عبارت سے واضح ہو گیا کہ مجتہد فی المذہب کی رائے پر بعد کے طبقے کے لوگ بھی عمل کرنے کے مجاز ہیں، مثال کے طور پر امام ربانی قطب عالم حضرت مولانا رشید احمد گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ نے مثل اول پر ظہر کا وقت ختم ہونے اور عصر کا وقت شروع ہونے کا قول کیا ہے، حالانکہ یہ مذہب حنفیہ کے ظاہر مذہب کے خلاف اور حضراتِ صاحبینؓ وغیرہ کے مذہب کے موافق ہے۔

وكلام البحر صريح في أن  
المحقق ابن الہمام من أهل  
الترجح حيث قال عنه أهل للنظر  
في الدليل و قد قلنا اتباعه فيما  
يتحققه ويرجحه من الروايات  
والآقوال مالم يخرج عن  
المذہب. (شرح عقود رسم المفتی ۷۷)

لہذا اگر کوئی مقلد حنفی حرمین شریفین میں جماعت کے ثواب کے حصول کے لئے وہاں کے ائمہ کے مطابق مثل اول کے بعد نماز عصر پڑھ لے تو اس کے لئے اس امر کی گنجائش ہونی چاہئے۔

## پانچویں صورت

جو مسئلہ اختیار کیا جا رہا ہے اگر اس کی تائید مذہب کے دیگر مشائخ سے کسی درجہ میں بھی نہیں ہوتی، گوکہ وہ مسئلہ خارج مذہب نہیں ہے تو مجتہد کے لئے ایسا قول لینے کی گنجائش ہو گی، غیر مجتہد اور عامی کے لئے اس قول کو اختیار کرنا درست نہ ہو گا۔

علامہ شامی نقلم فرماتے ہیں:

کیا اپنی ذات کی حد تک عمل کے لئے انسان کو ضعیف روایت پر عمل کرنے کا حق ہے؟ ہاں بشرطیکہ وہ شخص ذی رائے ہو، لیکن اگر ایسا شخص عامی ہو تو اس بارے میں صریح جزئیہ میں نہ نہیں دیکھا۔ مگر ذی رائے کی قید سے یہ مستفاد ہوتا ہے کہ عامی شخص کے لئے ضعیف پر عمل جائز نہ ہو۔ خزانۃ الروایات میں تحریر ہے کہ وہ عالم جو احادیث و آثار کے معانی جانتا ہو اور وہ اہل درایت سے ہو تو اس کے لئے ضعیف روایت پر عمل درست ہے، اگرچہ وہ خلاف مذہب ہو۔

هل يجوز للإنسان العمل بالضعف من الرواية في حق نفسه؟ نعم إذا كان له رأى أما إذا كان عامياً فلم أره، لكن تقييده بذى الرأى أنه يجوز للعامي ذلك. قال في خزانة الروايات: العالم الذي يعرف معنى النصوص والأخبار وهو من أهل الدراء يجوز له أن يعمل عليها وإن كان مخالفًا

لِمَذْهَبِهِ۔ (شامی بحوالہ خلاصة التحقیق)

تو معلوم ہوا کہ مذہب کا ضعیف قول سوائے مجتہد مفتی کے کسی اور کو اختیار کرنا جائز نہیں ہے، الایہ کہ ضرورت داعیہ پائی جائے، جیسے کہ ۱۲۰ مسائل میں حضرات مشائخ رحمہم اللہ نے امام زفر کے

مذہب پر فتویٰ دیا ہے۔

## چھٹی صورت

اگر دوسرے مذہب سے لیا گیا مسئلہ ایسا ہے جس کے بارے میں اپنے مذہب میں کوئی صراحت نہیں ملتی، اور وہ مسئلہ ہمارے قواعد و اصول سے مکرأتا بھی نہ ہو تو اس قول کو لینے کی اجازت فقہاء کے عمل سے معلوم ہوتی ہے، اور غیر مجتہد مفتی بھی اس پر فتویٰ دے سکتا ہے۔ مثلاً:

(۱) اذان حریق وغیرہ میں ائمہ شافعیہ سے جواز کا قول نقل کیا گیا ہے۔ (شامی ۳۸۵)

(۲) معتدہ کے لئے رات میں سرمه لگانے کی اجازت شافعیہ سے منقول ہے۔ (شامی)

(۵۳۲/۳)

(۳) بعض شافعیہ نے فتویٰ دیا ہے کہ خس ذکر کے ساتھ دوبارہ جماع ممنوع ہے۔ (شامی)

(۳۹۸/۱)

اور تنیع سے اس طرح کے بہت سے مسائل مل جائیں گے، فقہاء بکثرت دوسرے اماموں کی عبارتیں نقل کرتے ہیں۔

## خلاصہ

ان تینوں بحثوں (ابلیت، ضرورت اور مسئلہ کی تحقیق) کا خلاصہ یہ ہے کہ عدول عن المذہب جائز ہے جب کہ:

الف: ضرورت داعیہ پائی جائے۔

ب: تلفیق حقیقی نہ پائی جائے۔

ج: جو قول لیا جائے وہ تمام شرائط کے ساتھ لیا جائے۔

د: معتبر علماء محققین اس کام کو انجام دیں (محض تشبی اور رخصت مطلوب نہ ہو)

اور عدول عن المذہب جائز نہیں جب کہ:

الف: تلفیقِ حقیقی (خارقِ اجماع) لازم آتی ہو۔

ب: بلا ضرورت خروج کیا جائے۔

ج: اختیار کردہ قولِ انہے اربعہ کے خلاف ہو۔

د: غیر اہل خروج کی جسارت کرے۔

ھ: اور ایک مذہب پر عمل کر کے اسے خواہ مخواہ چھوڑ کر دوسرے امام کا مذہب اختیار کر لیا

جائے۔

فقہ کی عام کتابوں میں زیادہ تر اس کا لحاظ رکھا گیا ہے کہ مذہب سے خروج کرنے والا خواہ مجہتد ہو یا مقلد، محض رخصتوں اور خواہشات کا اتباع کرنے والا نہ ہو، اسی طرح تلفیق نہ لازم آتی ہو۔ لیکن اس زمانہ میں مذکورہ تمام شرائط کا لحاظ رکھنا ضروری ہو گا، ورنہ فسادِ زمانہ کی وجہ سے لوگ رخصتوں کے متلاشی بن جائیں گے۔



# سوال نامہ کے اجمالی جوابات

سوال نامہ کے جوابات اگرچہ متفرق طور پر گذشتہ اور اق میں آچکے ہیں لیکن سہولت کے لئے سوالوں کے اجمالی جوابات درج کئے جا رہے ہیں:

(۱) اجازت ہے:

الف: خاص حالات میں اور بوقت ضرورت ہی اجازت ہے۔

ب: ضرورت سے یہاں تکلیف ناقابل برداشت مراد ہے۔

ج: عامہ اور خاصہ دونوں ضرورتوں کا اعتبار ہے اور دونوں کی وجہ سے عدول عن المذہب کی اجازت ہوتی ہے۔

د: عبادات اور معاملات دونوں میں ضرورت پائے جانے کے اعتبار سے فرق نہیں ہے۔

ھ: ضرورت عامہ ایسی ضرورت ہے جس کے پورا نہ ہونے سے عموم تک مشقت پہنچتی ہو اور شرائط بھی ہیں، مثلاً تلفیق نہ کرنا، اہلیت رکھنا وغیرہ۔

(۳) عدول عن المذہب کے لئے مفتی کو مجتہد فی المذہب کے درج کا ہونا چاہئے، اور اس زمانہ میں چوں کہ ایک شخص میں یہ صفات جمع ہونا دشوار ہے اس لئے اگر چند متدین علماء ضرورت محسوس کر لیں تو ان کی رائے سے خروج عن المذہب ممکن ہے۔

(۴) نہیں ہے:

(۵) تلفیق کے معنی ملانے کے آتے ہیں اس کے اقسام اور احکامات تفصیل کے ساتھ گذشتہ صفات میں درج کئے گئے ہیں۔

الف: تلفیق مجازی کی شکلیں دائرہ جواز میں آتی ہیں۔

ب: تلفیق کے ناجائز ہونے کی بنیادی وجہ اس کا خارق اجماع ہونا ہے۔

(۶) انہے اربعہ سے خارج قول کسی بھی حال میں لینا جائز نہیں ہے، اس لئے کہ انہے اربعہ کے علاوہ پر عمل نہ کرنے پر اجماع امت ہو چکا ہے۔

(۷) اہلیت ترجیح رکھنے والا شخص اپنی ترجیح کی بناد پر قول ضعیف کو اپنایا سکتا ہے۔

فقط اللہ تعالیٰ اعلم

احقر محمد سلمان منصور پوری غفرلہ

## متفقہ فیصلہ

**چوتھا فقہی اجتماع (ادارہ المباحث الفقهیہ) بمقام شیخ**

**الہند ہال دیوبند بتاریخ: ۲۵ ربیعہ ۱۹۹۴ء**

جمہورamt کا اتفاق ہے کہ آج کل تمام مسلمانوں پر چاروں مدون مذاہب میں سے کی ایک معین مذہب کی پیروی واجب ہے، اور امت کی شیرازہ بندی کے لئے یہ امر ضروری بھی ہے۔ آج تحد پسند طبقہ کی جانب سے یہ نظریہ پیش کیا جاتا ہے کہ جب تمام فقہاء مجتہدین کے مذاہب اپنی اپنی جگہ درست ہیں تو جس قول میں سہولت ہواں کو اختیار کیا جائے کسی مذہب معین کا التزام نہ کیا جائے۔ اسی طرح معمولی عذر کی وجہ سے دوسرے مسلک کے امام کے قول کو اختیار کرنے کا نظریہ پایا جاتا ہے، یہ دونوں نہایت خطرناک رحمانات ہیں جو اتباع ہوئی اور خود رائی کی بنیاد پر پیدا ہوئے ہیں اور انسانوں کو خدا کی بندگی اور احکامات شریعت کی اطاعت سے دور کرنے اور دین کی بنیادوں کو مترازل کرنے کے متادف ہیں۔ اتباع ہوئی اور خود رائی کے رحمانات کو خدا نخواستہ تقویت ملی تو امت مسلمہ سخت انتشار سے دوچار ہو جائے گی۔ حسب تصریح فقہاء قول ضعیف پر عمل یا دوسرے امام کے مسلک کو اختیار کرنا مخصوص حالات ہی میں درست ہے اور اس پر فتویٰ کے لئے اعلیٰ فقہی صلاحیت کی ضرورت ہے، جو آج کل انفرادی طور پر مفقود ہے، اس لئے ادارہ المباحث الفقہیہ جمیعہ علماء ہند کا یہ چوتھا فقہی اجتماع اتفاق رائے سے یہ فیصلہ کرتا ہے۔

(۱) عام حالات میں اپنے معین مذہب سے خروج کرنا اور فقہی مذاہب میں پائی جانے والی سہولتوں کو اختیار کرنا جائز نہیں ہے، البتہ بدرجہ مجبوری خاص حالات میں مندرجہ ذیل ضوابط کی رعایت کرتے ہوئے ان سہولتوں سے استفادے کی مشروط اجازت دی جاسکتی ہے:

**الف:** خاص حالات میں جو قول اختیار کیا جائے وہ مذاہب اربعہ ہی کے دائرے میں ہو کیوں کہ دیگر مذاہب با قاعدہ مدون نہیں ہیں۔

ب: ضرورت داعیہ (بمعنی اضطرار یا ناقابل برداشت تکلیف) پائی جائے خواہ ضرورت عامہ ہو یا خاصہ، عبادات میں ہو یا معاملات میں۔

ج: ضرورت وہی معتبر ہوگی جس کو اہل بصیرت ارباب فتاویٰ اجتماعی فیصلے کی بنیاد پر تسلیم کر لیں۔

د: جس امام کے قول کو اختیار کیا جائے اس کی تمام شرائط محفوظ رکھی جائے۔

ه: دیگر مذاہب کا قول اقوال شاذہ میں سے نہ ہو۔

و: تلفیق حرام (خارقِ اجماع) لازم نہ آئے۔

(۲) اسی طرح کے خصوصی حالات میں اہل بصیرت ارباب فتاویٰ کے اجتماعی فیصلے کی بنیاد پر اپنے مذہب کے قول ضعیف کو بھی اختیار کیا جا سکتا ہے۔ واللہ تعالیٰ اعلم۔



# مرتب کی علمی کاوشیں

□ اللہ سے شرم بکھجئے :

اس کتاب میں اللہ تعالیٰ سے حیاء کرنے کے متعلق ایک جامع ارشاد نبوی ﷺ کی تفصیلی شرح کے ضمن میں نہایت مفید اصلاحی مضامین (آیات قرآنیہ احادیث طیبہ اور احوال واقوائی سلف) خوبصورتی کے ساتھ جمع کردے گئے ہیں، یہ کتاب مردہ ضمیر کو جھنجوڑنے، اور غفلت کے پردے ہٹانے میں تریاق کی حیثیت رکھتی ہے۔ جو شخص بھی صدق دل سے اور عمل کی نیت سے اس کا مطالعہ کرے گا اسے انشاء اللہ یقیناً نفع ہو گا، کتاب کی زبان سادہ اور عام فہم ہے۔ ہرباتحالت سے مزین ہے۔ عوام و خواص کے لیے یکساں طور پر مفید ہے۔ اب تک ہندو پاک کے مختلف کتب خانوں سے اس کے متعدد ایڈیشن شائع ہو چکے ہیں، اور مسلسل اس کی اشاعت جاری ہے۔ ہندی زبان میں بھی اس کا ترجمہ ہو چکا ہے، فا الحمد للہ۔

صفحات : ۴۳۲، ۱۰۸، عام قیمت : ۱۰ روپیے۔

□ اللہ والوں کی مقبولیت کاراز :

یہ کتاب پہلے ۹۶ صفحات پر شائع ہوئی تھی اب اضافہ ہو کر ۱۹۲ صفحات میں خوب صورت کمپیوٹر کتابت پر شائع کی گئی ہے، جس میں اکابر و اسلاف کی مقبول صفات مثلًا: تواضع، زبردستی، عفو و درگذر، حلم و برداہی، جود و سخا اور خوف و خشیت سے متعلق پُرا شاہزادت انسانیز عالات و واقعات بیان کر کے ان کی روشنی میں اپنے کردار کا مؤثر انداز میں جائزہ لیا گیا ہے۔ یہ کتاب علماء، طلباء اور اپنی اصلاح کے خواہش مند حضرات کے لئے اکسیر کی حیثیت رکھتی ہے۔ زبان بہت آسان اور عام فہم ہے، آج ہی طلب کر کے اپنی روحانی تشقی کا سامان کریں۔ یہ کتاب بھی ہندو پاک کے متعدد کتب خانوں سے شائع ہو رہی ہے، الحمد للہ۔

صفحات : ۱۹۲، ۲۰، قیمت : ۲۰ روپے۔

□ ذکر رفتگاں :

یہ مانuale "ندائے شاہی" مراد آباد میں گذشتہ ۱۹۸۹ء سالوں (۱۹۸۹ء تا ۲۰۰۳ء) میں وفات پانے والی امت کی اہم اور مؤثر شخصیات پر شائع شدہ تعزیتی مضامین کا بیش قیمت مجموعہ ہے، جس میں تقریباً ۵۰ سو حضرات کے مختصر سوائی خاکے اور تاثرات جمع ہو گئے ہیں، تذکرہ اکابر کے شاکرین کے لئے یہ بیش بہا تخفہ اور سیر و سوانح کے باب میں قیمتی معلومات کا ذخیرہ ہے، جس کا مطالعہ انشاء اللہ ذہن میں تازگی اور روح میں بالیدگی کا سبب ہو گا۔

صفحات : ۵۶۸، ۵۶۰، عام قیمت : ۱۶۰ روپے، ملنے کا پتہ: فرید بک ڈپوڈیلی

□ تحفہ رمضان:

اس جامع کتاب میں رویت ہلال، روزہ، تراویح، شب قدر، اعتکاف، زکاۃ اور عیدین وغیرہ کے متعلق

فضائل وسائل اور اہل اللہ کے ماہ مبارک کے معمولات بہت سیقہ سے جمع کر دئے گئے ہیں۔ شروع میں رمضان المبارک اور روزہ متعلق چالیس احادیث کا منتخب مجموعہ ترجمہ شامل ہے۔ نیز رویت ہلال پر حضرت مولانا سید محمد میاں صاحب کا مرتب کردہ معتبر ترین رسالہ بھی مزید تہذیب کے ساتھ شائع کیا گیا ہے۔ یہ کتاب واقعہ رمضان المبارک کا قیمتی تحفہ ہے۔ کل صفحات: ۲۷۱، ناشر: فرید بک ڈپوڈیلی وغیرہ، عام قیمت: ۲۰ روپے۔

## □ دعوت فکر و عمل :

یہ کتاب مختلف دینی، اصلاحی، سماجی اور معاشرتی موضوعات پر مبنی ۹۷ صفحات مضماین کا مجموعہ ہے، جن میں پوری قوت کے ساتھ فکری اصلاح پر زور دیا گیا ہے۔ ان مضماین کے مطالعہ سے اصابت رائے اور اعتدال کے جذبات پر وان چڑھتے ہیں، موجودہ دور میں دینی خدمات میں مشغول حضرات کے لئے اس کتاب کا مطالعہ نہایت کارآمد ہے، اکابر علماء کی تقریظات سے کتاب مزین ہے اور باذوق قارئین کی نظر میں یہ دور حاضر کا ایک گراں قدر تحفہ ہے، متعدد کتب خانوں سے اس کی اشاعت ہو رہی ہے۔ صفحات: ۵۸۰، قیمت: ۱۵۰ روپے۔

## □ لمحات فکریہ :

اس کتاب میں نداء شاہی مارچ ۲۰۰۳ء سے لے کر مئی ۲۰۰۵ء تک کے ادارتی مضماین اور دو رسالوں ”اسلامی کی انسانیت نوازی“ اور ”اسلامی معاشرت“ کو بجا کر کے شائع کیا گیا ہے۔ اس مجموعہ مضماین میں قرآن و سنت اور آثار صحابہ سے نہایت قیمتی ہدایات نقل کی گئی ہیں۔ ۳۲۰ صفحات پر یہ کتاب اسلامی تعلیمات کے تعارف، اصلاح امت اور باطل افکار و خیالات کی مدل تردید پر مبنی مضماین کو شامل ہے، اور عوام و خواص کے لئے یکساں مفید ہے۔ صفحات: ۳۲۰، قیمت: ۱۰۰، اروپے ناشر: فرید بک ڈپوڈیلی

## □ دینی مسائل اور ان کا حل :

دور حاضر کے اہم پیش آمدہ مسائل کے مختصر اور جامع جوابات پر مشتمل یہ قیمتی مجموعہ ہر گھر کی ضرورت اور قدم پر ہنمائی کا ذریعہ ہے۔ یہ مسائل کئی سال سے رسالہ تحفہ خواتین مراد آباد میں سوال و جواب کی صورت میں شائع ہو رہے تھے، اب انہیں عربی عبارات اور حوالوں کے ساتھ جمع کر کے شائع کیا گیا ہے، جو عوام کے علاوہ اہل علم اور ارباب افتاء کے لئے بھی مفید ہے۔ صفحات: ۱۲۲، قیمت: ۴۰ روپے

## □ فتاویٰ شیخ الاسلام :

شیخ الاسلام حضرت مولانا سید حسین احمد مدفنی نور اللہ مرقدہ کی علمی اور فقہی آراء اور مکتوبات کا یہ مرتب مجموعہ بالخصوص فقہ و فتاویٰ کے شاکنین کے لئے گراں قدر تحفہ ہے۔ ہر مسئلہ حوالہ جات سے مزین ہے اور نادر علمی نکات، فقہی تحقیقات اور قیمتی افادات کو بڑی خوبصورتی کے ساتھ مرتب کیا گیا ہے۔ یہ کتاب ہندوستان کے علاوہ پاکستان میں بھی شائع ہو چکی ہے۔ صفحات: ۲۵۱، قیمت: ۸۰ روپے، ناشر: مکتبہ دینیہ دیوبند

## □ ردمزائیت کے زریں اصول :

یہ سفیر ختم نبوت حضرت مولانا منظور احمد صاحب چینوی<sup>ؒ</sup> (پاکستان) کے ان تربیتی محاضرات کا مجموعہ ہے جو موصوف نے چند سال قبل دارالعلوم دیوبند میں رونق افرزو ہو کر علماء و طلباء کے بڑے جمیع کے سامنے دئے تھے۔ انہیں مرتب نے ازسر نوت ترتیب دیا، اصل کتابوں سے مراجعت کر کے حوالہ جات نوٹ کئے، اور پھر صاحب محاضرات کی نظر کے بعد اسے شائع کیا گیا، یہ اپنے موضوع پر ایک جامع کتاب ہے جس کے متعدد ایڈیشن ہندوپاک میں شائع ہو چکے ہیں۔

صفحات: ۲۲۶، قیمت: ۳۰ روپے۔ شائع کردہ: کل ہند مجلس تحفظ ختم نبوت دارالعلوم دیوبند

## □ قادریانی مغالطے :

یہ مختصر رسالہ ان ہرزہ سرائیوں کے جوابات پر مشتمل ہے جو قادریانی لوگ عام مسلمانوں کو بہکانے اور شکوک و شبہات میں مبتلا کرنے کے لئے عوام میں پھیلاتے رہتے ہیں۔ مرمزا یوں کی تلپیسات کا اس رسالہ میں مضبوط جواب دیا گیا ہے۔ صفحات: ۱۲۳، قیمت: ۲۰ روپے، شائع کردہ: کل ہند مجلس تحفظ ختم نبوت دارالعلوم دیوبند

## □ کتاب المسائل (حصہ اول) :

یہ ایک طویل المدى منسوبہ کا حصہ اول ہے۔ جس میں ابواب فقہیہ کی ترتیب پر فقہی مسائل عمدہ ترتیب، آسان عنوانات اور سلیس اردو زبان میں عربی حوالوں کے ساتھ جمع کئے گئے ہیں، ابھی مسائل طہارت شائع ہوئے ہیں، آگے کام جاری ہے، تکمیل کے بعد ان کی اشاعت ہو گی۔ انشاء اللہ تعالیٰ۔

صفحات: ۱۱۲، قیمت: ۳۰ روپے، ناشر: مرکز نشر و تحقیق الالباغ مراد آباد، ملنے کا پتہ: کتب خانہ نعیمیہ دیوبند

## □ تحریک آزادی ہند میں مسلم عوام اور علماء کا کردار :

ہندوستان کی تحریکات آزادی میں شروع سے لیکر اخیر تک مسلم عوام اور علماء نے جو عظیم ترین قربانیاں پیش کی ہیں ان کو نہایت اختصار اور جامعیت کے ساتھ سوال و جواب کے انداز میں اس کتاب میں جمع کر دیا گیا ہے۔ انداز نہایت دلچسپ ہے اور ہر بات حوالہ سے مدل ہے۔ کتاب کے اخیر میں ان حضرات کا جامع تعارف بھی شامل ہے جن کا نام کتاب کے اندر کسی نہ کسی عنوان سے آیا ہے۔ اپنے اسلاف کے کارناموں سے واقفیت کے لئے نئی سلسلہ کے حضرات کو اس کتاب کا ضرور مطالعہ کرنا چاہئے۔

صفحات: ۲۲۸، قیمت: ۸۰ روپے، ناشر: مرکز نشر و تحقیق الالباغ مراد آباد، ملنے کا پتہ: کتب خانہ نعیمیہ دیوبند

## □ پیکر عزم و ہمت، استاذ اور شاگرد :

شیخ الہند حضرت مولانا محمود حسن دیوبندی اور شیخ الاسلام حضرت مولانا سید حسین احمد مدینی نور اللہ مرقد ہما کی سابق آموز حیات طیبہ پر مشتمل کئی قیمتی مضمایں اس مختصر رسالہ میں شامل ہیں، جن کا مطالعہ علماء اور طلباء کے لئے بالخصوص مفید ہے۔ صفحات: ۸۰، قیمت: ۸۰ روپے، ناشر: مرکز نشر و تحقیق الالباغ مراد آباد، ملنے کا پتہ: کتب خانہ نعیمیہ دیوبند

## □ نورنبوت :

یہ سالہ ۱۹۹۹ قیمتی احادیث طیبہ اور ان کی مختصر تشریحات پر مشتمل ہے۔ جو حضرات احادیث شریفہ کو یاد رکھنا چاہیں ان کے لئے یہ بہت مفید اور نفع بخش مجموعہ ہے۔

صفحات: ۲۷ قیمت: ۳۰ روپے ناشر: مرکز نشر و تحقیق لالباغ مراد آباد

## □ اسلام کی انسانیت نوازی :

اس مختصر رسالہ میں اہل مغرب کی طرف سے اسلام پر بے جا اعتراضات کا مسکت جواب دیا گیا ہے۔ یہ سالہ اختصار کے باوجود بہت جامع اور لائق مطالعہ ہے۔

صفحات : ۲۸ قیمت : ۲۳ روپے ناشر : مرکز نشر و تحقیق لالباغ مراد آباد

## □ مذہب غیر پر فتویٰ اور عمل :

تقلید کی ضرورت و اہمیت، اور دوسرے مسلک پر فتویٰ دینے کی شرائط و حدود، نیز بہت سی نادر اصولی تحقیقات اس مقالہ میں جمع کردی گئی ہیں۔ علمی اور فقہی مضامین کے شائقین کے لئے یہ گراں قدر ترجمہ ہے۔

صفحات : ۷۲ قیمت : ۳۰ روپے ناشر : مرکز نشر و تحقیق لالباغ مراد آباد

## □ نظر کی پاکیزگی :

موجودہ دور میں جب کہ ہر چہار جانب نفع مناظر عالم ہو گئے ہیں، اور بے جیائی اور عریانیت کا دور دورہ ہے، ایسے ماحول میں کوئی شخص اس وقت تک مقنی نہیں بن سکتا جب تک کہ اپنی نظر کی کامل حفاظت نہ کرے۔ اس مختصر رسالہ میں نظر کی حفاظت کی ترغیب اور بد نظری کی مذمت نہایت مؤثر انداز میں کی گئی ہے۔ بالخصوص نوجوان نسل کے لئے اس تحریر کا مطالعہ نہایت نفع بخش ہے۔

صفحات : ۳۲ قیمت : ۰۰ روپے ناشر : مدرسہ صالحین ریتی باڈی جیہر آباد

## دیگر رسائل :

□ شماں رسول ﷺ □ جاج کرام کے لئے ضروری ہدایات اور معلومات □ اسلامی معاشرت □ اسلام اور احترام انسانیت □ تحریک لامددیت: ایک خطرناک قتنہ □ اپنے نونہالوں کو آگ سے بچائیے □ تین طلاق کا مسئلہ، عقل کی روشنی میں □ وندے ماترم، مسلمانوں کو کیوں قبول نہیں؟ □ درس سورہ فاتحہ

